

امداد المشتاق إِمْدَادُ الْمُشْتَاقِ

إِلَى

الشرف الأشرف الشَّرْفُ الْأَشْرَفُ

تصنيف تاليف

حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاونی

تذکرہ

حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر کمی

PDFBOOKSFREE.PK

مکتبہ امداد اللہ مصاحد مرکز

محلہ خانقاہ، دیوبند

امداد الحشمت اف

الى


الشروع الدخان

تصنيف تاليف

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی حسنا تحانوی

تذکرہ

حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ حسنا مہاجر کی



مکتبہ امداد اللہ مہاجر مکی
 محلہ خانقاہ دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ایک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کو عام قاری کے مطالعہ، امتِ مسلمہ کی راہنمائی اور ثوابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچوں کل لا بھریری پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے تو برائے مہربانی میرے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کیجئے گا۔ شکریہ

طالبِ دعا سعید خان

ایڈ من پاکستان ورچوں کل لا بھریری

فہرست مضمایں

۷	تہبید
۹	حالات تاریخی
۲۲	استقادة علماء و قول مشائخ تازمان بحیرت
۳۰	مقدمات بحیرت، حال بعض واقعات زمانہ بدامنی ہندوستان
۳۳	بحیرت کے معظم و نکاح
۳۴	لغویات، مکتوبات
۳۸	مقالات شریفہ (حضرت اول) از مولانا عبد الغنی صاحب بھاری
۴۳	مقالات شریفہ (حضرت دوم)
۹۶	لغویات مولانا اشرف علی صاحب
۱۰۶	مقالات شریفہ (حضرت سوم) از مولانا احمد حسن صاحب
۱۵۰	علوم امدادیہ
۱۵۱	کتاب اعلم
۱۵۸	کتاب العبادات
۱۵۸	کتاب العادات
۱۶۰	کتاب الاخلاق
۱۶۱	کتاب المتنزقات
۱۶۲	مکتوبات شریفہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مکتبہ رحمانیہ لاہور کا عکسی اڈیشن

نام کتاب امدادالمستاق الى اشرف الاخلاق
 تالیف حکیم الامم حضرت ولانا اشرف علی صفات حافظی
 تذکرہ حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ ضامنہ بحری
 طالع و ناشر مکتبہ امداد اللہ مہاجر مکنی محلہ خانقاہ دیوبند
 سال اشاعت مارچ ۲۰۱۳ء
 تعداد اشاعت ایک ہزار ایک سو
 صفحات 200

مکتبہ امداد اللہ مہاجر مکنی
 محلہ خانقاہ دیوبند

شان مشخت	۱۶۲
کرامات	۱۶۶
واقعات برداشت مشی محمد عمر صاحب	۱۷۱
واقعات حج ثالثی	۱۷۳
شف و قصہ	۱۷۶
اهتمام شریعت	۱۷۸
اخلاق و احوال	۱۸۰
شهادت مصرین بر کمال	۱۸۵
صورت و سیرت	۱۹۳
ذکر بعض خلفاء اعلیٰ حضرت قدس سرہ	۱۹۶
خاتمه مختصر مجموع حالات وفات	۱۹۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

چندے از تذکرہ شیخ الحدایاء سید المرفقاء جعیہ اللہ فی زماتہ و آیۃ اللہ فی اوانہ علی
حضرت مرشدنا وہادینا الحاج الحافظ الشاہ محمد امداد اللہ قدس اللہ سرہ واقعہ علیہنا برہ کہ جمع کرد
آزاد احرار الائمما اشرف برائے نام بفرمائیں دلدادہ عشقان اسم بامکی مشتاق و مطلب
گردانیدش بر عایت امامے غلوٹہ بامداد المشتاق الى اشرف الاخلاق:
نفع اللہ تعالیٰ بھا الطالبین و هدی بھا السالکین.
اضطراب والتجاذب حضرت محبوی مرشدی کا نام پاک جو اس وقت لسان قلم پر آیا
روح کی میرے ساتھ کشاکشی کی وہ حالت ہے جس کی مولانا روی نے حضرت مشی تبریزی
کے نام آنے پر حکایت فرمائی ہے۔

شش چارم آسمان سر در کشید
چوں حدیث روئے شمس الدین رسید
شرح کردن رمزے از انعام او
واجب آمد چوں کہ بردم نام او
ایں نفس جان دا منم بر تاذد است
کز برائے حق صحبت سالہا
باز گو رمزے از آس خوش حال ہا
تاز مین و آسمان خندان شود
عقل و روح دیدہ صد چندان شود
پنجو بیمارے کہ دور است از طبیب
گفتم اے دور او فقادہ از حبیب
لائقی فانی فی الفتاء
کلت انجامی فلا احصی شاء
کل شئے قاله غير لمفین
ان تکف او تصلف لایعنی
چوں تکف میگوید موافق چوں نبود
هرچہ میگوید موافق چوں نبود
من چہ گوییم یک رگم ہشیار نیست
شرح آس بیمارے کہ آس رایار نیست
کیں دلیل ہستی و بستی خطاست
خود شاغل گفت ز من ترک ثابت
ایں زمان بگذار تادقت دگر
شرح ایں بھراں و ایں سوز جگر



حالات تاریخی

حال (۱): ارباب بصیرت و اصحاب خبرت پر ظاہر ہو کر ولادت باسعادت حضرت ایشان ہماری بست و دوم ماہ صفر المظفر روز دوشنبہ ۱۴۳۳ھ ایک ہزار دو سو چھتیس ہجری مقدس، بمقام قصبه نانوچی ضلع سہار پور ہوئی۔ قصبه مذکورہ وطن اجداد مادری حضرت کا ہے۔ اس مبارک والد ماجد نے امداد حسین اور تاریخی نام ظفر احمد رکھا اور حضرت مولا نا شاہ محمد احشاق محمدث دہلوی فوائیہ حضرت مستند الوقت جناب حافظ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محمد دہلوی قدس سر ہمانے بلقب امداد اللہ ملقب فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت حافظ محمد امین بن حضرت حافظ شیخ بڈھا بن حضرت حافظ شیخ باتی بن حضرت شیخ عبداللہ بن حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ عبد الکریم بن حضرت شیخ عبدالریم بن حضرت شیخ سراج الدین بن حضرت قاضی چدن بن حضرت قاضی محمد موسی بن حضرت شیخ شہاب الدین بن حضرت شیخ شہاب الدین بن حضرت قاضی محمد یعقوب خاں بن حضرت شیخ نظام الدین بن حضرت شیخ شہاب الدین معروف بفرخ شاہ۔ [شام امدادی میں]

● حضرت مولا نا گنگوہی ڈھیٹنے ایک بار فرمایا کہ حضرت کی عраб پیچائی یا پچائی سال کی ہے اور ہر بیس سال کی بیس سال کی ہے۔ حضرت میں اور مجھ میں تیرہ یا پانچہ سال کی کی بیشی ہے۔ (ذکرۃ الرشد ص ۲۸۸)

● ہمارے قصبه کے کاغذات میں اسی طرح ہے اور آگے ان کے سلسلہ نسب میں حضرت ابراقیم بن ادريس کا نام بھی ہے۔ مگر ترجیح ارجاع مذکورہ متن میں اس غلطی کا منشأ ذکر کر دیا گیا ہے اور ان فرخ شاہ کی نسبت زبدۃ القاتمات میں مضمون ذیل ہے مروی از ابجل امراء و اعاظم وزراء سلاطین کا مل بودہ غیثیں نزیل ہندوستان اوست کہ از غر نیں و کامل بدیار ہند آمد ہو بندوے باوصاف غیث موصوف بود و بر ترجیح اسلام و توین عبدہ امام معرفہ اہ (حضرت تحریر سادس تسبیبات) اور المسلاطۃ الذھبیہ میں مضمون ہے یہ سلطان شہاب الدین مل جمل اولیہ کا ملین سے ہیں، ان کا لقب فرخ شاہ ہے جو سلوک صوفیہ سے پہلے والی کامل رہے ہیں اور سلفت غزویہ کے

قال طعنی فانی جائے فاعجل فالوقت سيف قاطع صوفی ابن الوقت باشد اے رفق نیست فرد اکفتن از شرط طریق تو مگر خود صوفی نیست نقد را از نیس خیزد نیست کفتش پوشیده خوشر سریار خود تو درخمنی حکایت گوش دار گفت آں باشد که سر دلبران ہاز گورنجم مده اے بو التغول ی گنجم باسم در پیر ہن گفت مکثوف برہنہ بے غلول چرده بردار و برہنہ گو که من گفتتم از عربیاں شود او در جہاں آرزو سخواہ لیک اندازہ خواہ برناتا بد کوه را یک بُرگ کاہ بیش ازیں آشوب و خوزیری محو بیش ازیں از شس تبریزی گو گمراحتا فرق ہے کہ اس منازعت میں مولا نا اپنی روح پر غالب رہے، چنانچہ یہاں حضرت شیش ریشیخ کا ذکرہ بیند ہو گیا اور احقر اپنی روح پر اس لیے غالب نہ آسکا کہ اس کے ساتھ ایک دوسری روح مشتاق قاضے میں شریک ہو گئی، اس شرکت کا بقول مسلم دو دل یک خود بخند کوہ را وہ اثر ہوا جو مولا نا پر ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے مضمون کے باب میں اسکی ہی شرکت سے ہوا جس کی حکایت اس طرح فرمائی ہے:

اے حیات دل حام الدین بے میل می جو شد بقیے ساد سے گشت از جذب چو تو علامہ در جہاں گرد ان حامی نامہ پیش کش بہر رضایت می کشم در تمام مشنوی قسم ششم پیش کش می آبرت اے معنوی قسم سادس در تمام مشنوی چنانچہ تہر مشنوی کی کتابت واقع ہوئی، اسی طرح میں بھی اس اجتماع روحیین سے مغلوب ہو کر کچھ کچھ کچھ ذکرہ حضرت کا باللحاظ ترتیب لکھتا ہوں، اس میں زیادہ حصہ سفینہ سے ملقط ہے اور کچھ سینہ میں محفوظ ہے۔ فاستمعوا و انتفعوا۔

احقر علی تھانوی عقا اللہ عنہ - نصف اخیر شوال ۱۴۳۳ھ

امداد المشاقي الى اشرف الاخلاق

۱۱

اس تیرے بچ کو کسی وقت بھی کیا بر وقت تعلیم کیا کسی اور وقت اور کسی وجہ سے کبھی کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے اور زجر و ضرب نہ کرے۔ چنانچہ بعد انتقال والدہ ماجدہ حضرت ایشان ان کی اس وصیت کی تھیں میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا کہ کسی کو آپ کی تعلیم کی طرف کچھ تو جو دیگر اتفاقات نہ ہوا۔ لیکن چونکہ تائید ربانی ابتدائے خلقت سے مرتبی حضرت ایشان کی تھی۔ اس زمانہ صفرتی میں بھی باوجود عدم تو جویں و مطلق العنانی کبھی ہو و اب نا شروع میں مشغول نہ ہوتے تھے اور اپنے باطنی شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع فرمایا اور اپنے شوق سے اکثر حفاظت کو استاد بنایا۔ مگر تقدیریات سے کچھ ایسے موافع پیش آتے گئے کہ نوبت تھیں حفظ کی نہ پہنچی یہاں تک کہ توفیق الہی ۱۴۵۸ھ بارہ سو اخداون ہجری میں چند دن میں یہاں (یعنی کہ معظمه میں) اس کی تھیں ہو گئی اور رسولہ سال کے سن میں وطن شریف سے ہمارا ہی حضرت مولانا مملوک علی صاحب تاؤتوی نور اللہ مرقدہ دہلی کے سفر کا اتفاق ہوا، اسی زمانہ میں چند تختیرات فارسی تھیں فرمائے اور کچھ صرف و خواستہ عصر کی خدمت میں حاصل کی اور مولانا رحمت علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے تھیں مولانا شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ کی قراءت اخذ فرمائی۔ [شامم امدادی ص ۹] (فائدہ) جامع کہتا ہے کہ میں نے حافظ عبد القادر صاحب تھانوی مرحوم سے سنا ہے کہ آپ نے خوشبوئی میر پنجش سے حاصل کی۔ حضرت کے دست مبارک کی لکھی ہوئی وصیاں بخط نسخ میں نے دیکھی ہیں، بہت ہی پر زور کلم ہے اور میں نے ایک حزب ابھر مع اعتصام و اختمام کے حضرت کے دست مبارک کی لکھی ہوئی قاضی انعام الحق صاحب راپوری کے پاس دیکھی جوان کے والد مرحوم کے زمانہ کی ہے اور اخیر میں اپنی اجازت کا تذکرہ سعی تاریخ تحریر فرمایا ہے۔ ہر چند کہ اس میں حضرت کا نام تو ہے نہیں مگر جہاں تک میری شاخت ہے حضرت ہی کے قلم کی لکھی ہوئی ہے، نہایت خوش خط ہے۔

مہارت در صنائع ضروریہ

حال (۲) : جناب مخدوم العالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے جو ربط نسب کا تھا حضرت مخدوم کی نانہاں ہمارے خاندان میں تھی اور ہم ان کی یہاں بیا ہی تھی، اکثر تاؤتو

(فائدہ) فرغ شاہ کے نسب کی تحقیق ترجیح الراجح فضل چلمن النور بابت رمضان و شوال ۱۴۳۳ھ میں ہے، جس میں ان کا فاروقی ہوتا اور ان کے سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم بن ادہم کا نہ ہوتا ثابت کیا گیا ہے۔

حال (۲) : اور اجادا حضرت ایشان قلبی و روئی فدا موضع تھانہ بجون ضلع مظفر گیر میں مسکن گزیں تھے۔ [شامم امدادی ص ۷]

حال (۳) : اور حضرت صاحب مدظلہ و روئی قلبی فدا کے دو برادر کمال و یک برادر و ہمیشہ خود بھی تھیں بڑے بھائی ذوالقدر علی و سخیلے فدا حسین نام تھے اور تیرے خود حضرت ایشان اور چھوٹے بھائی بہادر علی و ہمیشہ بی بی ذریع النساء نام تھیں ابھی زمانہ سن حضرت ایشان کا صرف سات سال کا تھا کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حسینی بنت حضرت شیخ علی محمد صدیقی تاؤتوی نے انتقال فرمایا، اتنا لند و اما الی راجعون، اور وقت وفات انہوں نے حضرت کے لیے ان الفاظ میں وصیت فرمائی کہ بعد میری وفات کے میرے

= زوال میں بعد آپ علی کامل سے خروج کر کے کئی پار فوج کیشیر کے ساتھ واسطے ترویج اسلام و جہاد لکفار اور تو ہیں اصنام کے ہندوستان میں تشریف لائے ہیں اور ہمارا برادر بہت سانپتھ کمال لے کر کامل کو راجحت فرمائے۔ آنحضرت ایشان کی حمامت ابھی ہوئی کہ آپ کی تجویز سلک طریقہ چلیے حضرات چشتی کی طرف صرف ہوئی اور اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں سے مستفید ہو کر کمال کے درجہ کو پہنچی اور ایک عالم آپ کے چشتی دین سے بیراب و کامیاب ہوا۔ ترک سلطنت اور قول قتل کے بعد کوہستان کامل میں آپ نے سکونت اختیار کی اور تادت عمروہ ہاں ہی رہ کر پیش رسائی طبق میں مشمول ہوئے اور انتقال کے بعد وہاں ہی رہن ہوئے۔ چنانچہ آج تک وہ موضع بہ درہ فرغ شاہ صرف و مشہور ہے اور قبر مبارک تیارات گاہ خاص و عام ہے۔ اہم پھر بعض الروابط (از تحریک ساید تھیں) اور رسالہ عرس کل میں سے ذکر ان کے والد کے پر مضمون ہے۔ حضرت خواجہ محمد نصیر الدین اعزیز الدین ہوئی۔ خواجہ نصیر الدین کے سینے سلطان شہاب الدین علی مخدوم غوری عرف فرغ شاہ کا تی نے ہندوستان میں چھستان اسلام کو دوبارہ رونق دی، ان ہی کی پشت سے حضرت تقب الاقطاب غوث العالمین رفیع الدین فاروقی حرف امام تباہ شاہ تھے جن کو سلطان فیروز شاہ نے سرہند شریف کا پہلا منصب نہیں کیا تھا اور آپ دیں بس کچھ۔ آپ علی کی نسل سے حضرت زین العابدین فاروقی تھے جن کے اپنے بھرپور احمد حضرت مولانا آزادان گاہیں صاحب ہیں اور دوسرے بھرپور احمد حضرت مولانا آزادان ہمایم احمد فاروقی مجدد الف ثانی کے والد ہیں، گوارثے۔ ۱۴۳۴ء

ربانیہ کو انواع انواع طریقوں سے ظاہر و ہویدا فرمایا ہے، بالجملہ تعریف مشنوی معنوی جو کچھ کہ کی جائے ایک سمجھلہ سو کے بھی نہ ہو سکے گی تاگزیر خاموشی کی آبروریزی نہ کر کے اس قلیل فقرات پر کہ دال کثیر پر ہیں بس کیا مولانا شاہ عبدالرزاق رضی اللہ عنہ سے قراءۃ اخذ کیا اور نہک خیر اپنے دلوں دل کا بنایا اور شیخ مولانا عبدالرزاق نے مشنوی معنوی کو جتاب حضرت مولانا شیخ ابوالحسن رضی اللہ عنہ سے قراءۃ لیا تھا اور شیخ ابوالحسن نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی الہبی بخش کاندھلوی نڈکور خاتم دفتر ششم سے سائنس و قراءۃ حاصل کیا تھا۔ اور حضرت مولانا مفتی رضی اللہ عنہ نے عالم رویا میں مصنف قدس سرہ سے پڑھا تھا اور واسطے ختم دفتر ششم کے مامور ہوئے تھے۔ الحاصل چونکہ حضرت ایشان نے مطالعہ مشنوی کو بطور ورد کے معمول فرمایا تھا خاطر اقدس کو ایک حرکت بلیغ پیدا ہوئی تھی اور جوش و خروش باطنی آئیں چہرہ انور سے ظاہر ہوتا تھا۔ اور داعیہ محیل سلوک ساحت سینہ مفاہیم میں جلوہ اضطرار ذات تھا۔ یہاں تک کہ اسی درمیان ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ مجلس اعلیٰ و قدس حضرت سرور عالم مرشد اعظم ملیحہ میں حاضر ہوں غایت رعب سے قدم آگے نہیں بوہتا ہے کہ ناگاہ میرے جدا مجد حضرت حافظ بلاقی ملیحہ تشریف لائے اور میرا تھے پکڑ کر حضور حضرت نبوی ملیحہ میں پہنچا دیا اور آنحضرت ملیحہ نے میرا تھے لے کر حوالہ حضرت میاں جیو صاحب چشتی قدس سرہ کے کر دیا اور اس وقت تک عالم ظاہر میاں جیو صاحب رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کا تعارف نہ تھا، یہاں فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا عجیب انتشار و حیرت میں بیٹلا ہوا کہ یارب یہ کون بزرگوار ہیں کہ آنحضرت ملیحہ نے میرا تھے ان کے ہاتھ میں دیا اور خود مجھ کو ان کے پسرو فرمایا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے کہ ایک دن حضرت استاذی مولانا محمد فندر محدث جلال آبادی رضی اللہ عنہ نے میرے اضطرار کو دیکھ کر کمال شفقت و غایت فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، موضع لوہاری یہاں سے قریب ہے وہاں جاؤ اور حضرت میاں جیو صاحب سے ملاقات کرو، شاید مقصود دلی کو پہنچو اور اس حیص و بھیں سے نجات پاؤ، جتاب ایشان بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولانا سے میں نے یہ سنا تھکر ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا کروں، آخر بلا لامظ سواری وغیرہ میں نے فوراً راہ لوہاری کی می اور

تشریف لائے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نہایت محبت دا خلاص فرماتے، جزو بندی کتاب کی حضرت سے ہم دونوں نے سیکھی اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جلدیں باندھیں۔ [سوانح مولانا مفتی الہبی صاحب ص ۵]

حال (۵) : ہنوز محیل علوم ظاہرہ میر نہ ہوئی تھی کہ ولولہ خدا طلبی دل اخلاص منزل حضرت ایشان میں جوش زن ہوا اور بھر ہیز دہ سائیں دست حق پرست حضرت حضرت مولانا ناصر الدین خلیقی نقشبندی مجددی غازی دہلوی نور اللہ مرقدہ کہ خلیفہ و مرید حضرت مولانا شاہ محمد آفاق قدس سرہ الاقdes و شاگرد و داماد حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی مہاجر و نیز شاگرد حضرت مستند الوقت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ائمۃ اللہ برہانہ تھے۔ طریقہ ایقہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کی اور اذکار طریقہ نقشبندیہ مجددیہ اخذ فرمائے اور چند دن تک اپنے چور مرشد کی خدمت میں حاضر رہ کر اجازت و خرقہ سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں پر الہام نبی و نبی مجدد بہ لذت کلام نبی مخلوکۃ شریف کا ایک ربع قراءۃ عاشق زاد رسول انور حضرت مولانا محمد فندر محدث جلال آبادی پر گزارا اور حسن حسین و فدا اکبر امام الائمه سراج الاممہ امام عظیم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ قراءۃ حضرت مولانا عبدالرزاق مرحوم نانوتوی سے اخذ کیا اور یہ ہر دو بزرگوار ارشد تلاوۃ عارف مستفرق حضرت مولانا مفتی الہبی بخش صاحب کاندھلوی کے تھے اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ خاتم دفتر ششم مشنوی مولانا تاروی و شاگرد حکیم امت محمدی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تھے اور مشنوی معنوی حضرت مفتی الدین مخدومی مولانا شیخ جلال الدین رزوی قدس اللہ روحہ کو جس میں معانی کتاب و سنت کو زبان فارسی میں لا کر بطریقہ حمید و عنوان جدید ادا فرمایا ہے اور اس شعر میں:

خوشنتر آں باشد کہ سر دلبران گفت آئید در حدیث دیگران
خود اس نکتہ عجیب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کے طرز بیان میں سور عشقی
حسن اسلوب زیادہ کیا ہے اور اس ادائے خاص میں امام العاشقین تھے اور گویا کہ جذبات
نبی و اسرار مجددیان کے لیے و دیعت رکھے گئے تھے اور اصول رویہ اور اسرار معارف

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

پیدا ہوا، چند منٹ کے بعد جلی توحید افعانی نے استحلاطہ فرمایا اور معلوم ہوا کہ یہ فعل قابلِ حقیقی سے مکون ہوا ہے اس وقت سے خلوص اس دولت کا زائد ہوا اور وہ تکمیر مبدل بہ لطف ہو گیا اس واقعہ کو چند ماہ گزرے تھے کہ میں مرافقہ میں تھا سیدنا جبریل و سیدنا میکائیل فلیکھنے کو بغاوت جلال ملکانی و نہایت جمال نورانی سنبھل کا کل سیاہ کندھوں پر ڈالے ہوئے اور سبزہ نہ ادا گا ہوادیکھا خود رفتہ ہو گیا جو لذت کہ حاصل ہوئی احاطہ بیان میں نہیں آئتی اور وہ دونوں تمثیل کنان دزدیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسی طرح چلے گئے اور پچھنہ کہا۔ راقم (مؤلف) پیکارہ نے بخدمت حضرت ایشان قلبی درویجی نداء عرض کیا کہ تعبیر دیکھنے ان فرشتگان اولو العزم کیا تھی۔ ارشاد فرمایا کہ مرتبہ نزد مکی کا مجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھنا جبریل علیہ السلام کا بشارت اس امر کی ہے کہ لفضل بجانہ حصہ و افرغ عم و تعلیم و ارشاد و پہبادت سے مجھ کو مرحمت ہو گا کہ یہ خدمت ان کو تفویض ہے اور دیکھنا میکائیل کا اشارہ ہے اس طرف کہ ما یحتاج به فی الدنیا بے تکف میسر آوے کہ قسم و تقسیم رزق کی حضرت میکائیل علیہ السلام سے متعلق ہے۔ راقم تعبیر (مؤلف) عرض کرتا ہے کہ فی الواقع ایسا ہی ہوا، سائل چند منٹ میں ایک ادنیٰ اشارہ حضرت ایشان سے صاحب حال ہوتا ہے۔ ایک شخص نے راس الاذکیاء مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت محمد عالم حاجی امداد اللہ صاحب عالم بھی ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ عالم ہونا کیا معنی اللہ نے ان کی ذات پاک کو عالم گرفرمایا ہے اور نیز رسالہ آب حیات میں لکھتے ہیں میں جس وقت کہ معظوم میں زیارت حضرت ایشان سے شرف اندوڑ ہوا بوجہ تھی دستی دین دنیا پچھہ پیش کش نہ کر سکا بجز اس کے کہ ان ہی اور اُراق سیاہ سودہ کو پیش کش کر کے رسم پیش کش بجا لایا۔ شکریہ عنایت گرامی کس زبان سے ادا کروں کہ اس پڑیہ محقرہ کو قبول فرمایا۔ اور اس کے صلے میں دعا ہائے جزیل فرمائیں اور تصحیح و جدائی و تحسین لسانی زیادہ کیا اور میری تسلیم فرمائی کہ بسبب اپنی کم مائیگی و تکمیل ادنیٰ کے اس تحریر کی صحت میں جو تردید مجھ کو تھار فتح ہو گی، پھر اب اُر کوئی یہ سمجھے ضرور تھوڑا متعجب ہو کہ کجا تحقیق و تدقیق قاسم نادان اور کجا یہ صحت و تصحیح یہ تمام نہ افشا تی بدولت اسی شش العارفین کے ہے اور اس جگہ میں مثل زبان دوست و قلم داطہ ظہور

شدت سفر سے جیران و پریشان چلا جاتا تھا یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے بارے کشش و کوشش آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور جیسے ہی دور سے جمال با کمال جناب شار ملاحظہ کیا صورت انور کو کہ خواب میں دیکھا تھا۔ بخوبی پیچا تا اور بخود رفتگی ہو گیا اور آپ سے گزر گیا اور افتاب و نیڑا ان کے حضور میں تخفیج کر قدوس پر گر پڑا، حضرت میاججو صاحب قدس اللہ اسرارہ نے میرے سر کو اٹھایا اور اپنے سینہ نور گنجینت سے لگایا اور بکمال راحت و عنایت فرمایا کہ تم کو اپنے خواب پر کامل دلوں و یقین ہے۔ یہ پہلی کرامتِ محبہ کرامات حضرت میاججو صاحب کی ظاہر ہوئی۔ اور دل کو بکمال استحکام مائل بخود کیا۔ الحاصل ایک مدت خدمت پا برکت جناب موصوف میں حلقتیں رہے اور تکمیل سلوک سالسل ارجو عموہ و طریق چشتیہ صابریہ خصوصاً کیا اور خرقہ و خلافت تامہ و اجازت خاصہ و عامہ سے شرف ہوئے بعد عطاے خلافت حضرت میاججو صاحب نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تغیر یا کیا جس کی رغبت ہو وہ تم کو بخشوں آپ یہ سن کر ورنے لگے اور عرض کیا کہ دنیا کے داسٹے آپ کا دام نہیں پڑا ہے خدا کو چاہتا ہوں وہی مجھ کو بس ہے حضرت میاججو صاحب قدس سرہ یہ جواب نمکین سن کر بہت سرور و خوش مزہ ہوئے اور آپ کو بغل سیر فرمائے کہ علوہ بہت پر آفرین کی اور دعا ہائے جزیل و جملہ دیں اور خود حضرت میاججو صاحب اثار اللہ ضریح نے ۱۲۵۹ھ ایک ہزار دو سو انٹھ بھری میں رحلت فرمائی۔ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَأَجْعَوْنَ۔

بعد ازاں گونہ قلب مبارک میں جذبہ الہی پیدا ہوا اور آپ آبادی سے دیرانہ کو چلے گئے مخلوق سے نفرت فرماتے تھے اور بدلگل پنجاب وغیرہ میں بُر فرماتے تھے اور اکثر دولت فاقہ سے کہ سنت نبوی ﷺ ہے مشرف ہوتے تھے یہاں تک کہ آئندہ آٹھ روز اور کبھی زیادہ گزر جاتے اور روز رای چیز طبق مبارک میں نہ جاتی اور حالت شدت بھوک میں اسرار و عجائب فاقہ مکشف ہوتے تھے، یہاں فرماتے تھے کہ ایک دن بہت بھوک کی تکلیف میں ایک دوست سے کہ نہایت خلوص دلی رکھتا تھا چند روپے میں نے بطور قرض مانگے، باوجود موجود ہونے کے انکار صاف کر دیا، اس کی اس ہالتفاقی سے تکمیر و ملال دل میں ساخت تو زیادہ بھیں تھیں لیکن غالبہ بیدار روسی کی عادت نہ ہونے سے یہ موسوم کی شدت سے ایسا انفاق ہوا ہو۔

مضامین مکونہ ول عرش منزل حضرت ایشان ہوا ہوں ورنہ اپنی محمدانی اس بے سر و سامانی و پریشانی پر دو شاہد عادل ہیں جن سے انکار نہیں کر سکتا۔ اتنی ترجمہ راقم سکین (مؤلف) نے اکثر زبان حق ترجمان حضرت ایشان قلبی و روحي فداہ سے نہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مولوی محمد قاسم مرحوم کو سیری زبان بنا یا تھا جیسے مولانا رامپور کو حضرت شمس تبریز قدس سرہ کی بنا یا تھا اور نیز حضرت مظلہ العالی نے بیان فرمایا کہ اسی زمان میں مرائبے میں میں نے حضرت شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا۔ قدس اللہ باسرارہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر زر خلیفہ کا صرف رکھا، یہ سن کر میں روئے لگا اور عرض کیا کہ میں نے اس لیے قدم شریف نہیں پکڑے ہیں اور میں وقت تھل اس خدمت کی بھی نہیں رکھتا ہوں، ہاں ایک قطرہ بخار سینہ با سینہ انوار گنجینہ حضرت والا سے چاہتا ہوں کہ سوائے معارف حضرت حق کے نہیں ہے۔ حضرت خواجہ روح اللہ روح نے تکمین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے کوئی حاجت ضروریہ دنخوا یہ تمہاری بند نہ رہے گی جس قدر ضرورت ہو گی بجھے نیک رفع ہو جائے گی فالمحمد للہ کہ اس وقت سے ایسا ہی ظہور میں آیا جیسا کہ خواجہ نور اللہ ضریح نے ارشاد فرمایا اور نیز اسی وہن خدمت اشہر فقراء زمان صاحب تکمین و عرفان مولانا سید قطب علی جلال آبادی قادری رضی اللہ عنہ میں تقریب فاتحہ والدہ ماجدہ حضرت مسروح گیا تھا حضرت سید صاحب موصوف بکمال عنایت و اخلاق پیش آئے اور فرمایا کہ میں خود آپ کے پاس ارادہ حاضری رکھتا تھا تا کہ تم کو بشارت پہنچاؤں اور مبارکباد دوں نسبت اس واقعہ کے جو میں نے دیکھا ہے یعنی میں نے عالم واقعہ میں تمام اولیاء کو عموماً و حضرات خواجہ گان چشت کو خصوصاً دیکھا ذکر تمہارا سنا ایک صاحب نے ان میں سے تمہاری نسبت فرمایا کہ مصارف ان کے بہت ہیں اور آمد فی اقل قلیل۔ اس کے جواب میں بزرگان چشت نے فرمایا (قدس سرہم) کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ لیکن فی الحال داسطے رفع مایتحان بے ان کے لیے دنیف مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب جس قدر کی حاجت ہو گی، عنایت ہوا کرے گا۔

الفالمحمد للہ علی نوالہ کہ جب سے رفع ضروریات لاحقہ با تردود تقریب غیرہ سے ہوتا ہے، رقم عاجز نے پچشم خود دیکھا ہے کہ مصارف کثیرہ بے سب ظاہری باحسن و جوہ انجام

پاتے ہیں، یہاں سے معلوم ہوا کہ استغناۓ تام پرستاران حضرت ایشان سے ہے کبھی ان غنیاء و امراء کے یہاں قدم رنج ہیں فرماتے بلکہ ان کی طرف اس قدر التفات بھی نہیں کرتے جتنا کہ فقراء و مساکین پر نظر ہوتی ہے الاجوکوئی کہ خادم خاص ہوا اور حبہ اللہ بخدمت عظیٰ حاضر ہوتا ہے کہ وہ بھی درویشی کے رنگ میں ہوتا ہے اور قصہ حاجی نواب فیض علی خان مرحوم برادر نواب محمود علی خاں رئیس چھتراری مشہور و معروف ہے اور یہ حالت جذب و صحر انوری تقریباً چھ ماہ تک رہی۔ رقم سکین نور اللہ قبہ بنور العرفان عرض رسا ہے کہ میں نے ثقات سے نہ ہے کہ اس زمان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ آپ کے سامنے سے گزر کرتا اور متاثر نہ ہوتا اور اس پر زعہ نہ ہوتا، پھر توجہ والتفات کی حالت کا کیا ذکر اور اسی حالت ذوق و شوق میں ۱۲۶۰ءھ ایک ہزار دو سو سانچھے بھری قدسی میں سید کائنات اشرف مخلوقات کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ یہ خواب دیکھ کر خواہش زیارت مدینہ طیبہ دل عشق منزل میں مستکن ہوئی، یہاں تک کہ بلا قلر زاد راحله کے آپ نے عزم مدینہ منورہ کر دیا، اور چل کھڑے ہوئے۔ جب ایک گاؤں میں پہنچے۔ آپ کے بھائیوں نے کچھ زاد راحله روانہ کیا۔ حضور نے اس کو بخوبی خاطر قبول کیا اور روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ چشم ذی الحجه ۱۲۶۱ءھ بارہ سو اکٹھے بھری کو بمقام بندر لیس کہ متصل بند رجده کے ہے جہاز سے اترے اور براؤ راست عرفات کو تشریف لے گئے اور جملہ اركان حجج بجالائے اور کمک معظمه میں حضرت مشہور فی الآفاق مولانا محمد اسحاق محدث حنفی دہلوی ثم المکی قدس سرہ و حضرت عارف باللہ شاہ قدرت اللہ حنفی بنا رس ثم المکی سے کہ کرامات و خرق عادات میں مشہور تھے فیض و فوائد حاصل کئے اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رضی اللہ عنہ نے چند وصایا فرمائے۔ ازان بحدله یہ کہ اپنے کو کمترین مخلوقات سمجھنا چاہیے اور یہ کہ تا امکان خود قوت حرام و مشتبہ سے پر بہیز واجب جانے کیونکہ قسم مشتبہ و حرام سے برابر نقصان ہے اور مراقبہ ﴿الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ تعلیم فرمایا کہ ملاحظہ میں صورت رویت حق تعالیٰ خود کو ملاحظہ کرے اور اس پر موافقت رکھے تاکہ وجہ ان صورت ملکہ کا ہو دے۔ اور دوسری باتیں تعلیم فرمائیں اور اپنے خاندان کے معمولات کی اجازت دی اور

فرمایا کرنی الحال بعد زیارت مدینہ طیبہ تمہارا ہند کو جانا قرین مصلحت ہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمام تعلقات منقطع کر کے اور بہت تمام یہاں آؤ گے۔ البتہ چندے صبر ضروری ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ کا راستہ مامون تھا۔ اور کوئی شورش بدلوں وغیرہ کی نہ تھی۔ اور آپ کے دل شوق منزل کو ختم اخطراب وقلق مدینہ طیبہ کی حاضری کا تھا کہ علت غالی اس سفر کی تھی۔ خیال تھا کہ اگر وہاں جاتا نہ ہوا تو گویا تمام محنت مفت رائیگاں ہوئی۔ بالآخر آپ نے یہ انتشار بحضور جناب سید قدرت اللہ (سابق الذکر)، عرض کیا حضرت سید صاحب نے تسلیم فرمائی اور چند بدودی مریدان خود کو آپ کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ بحافظت تمام ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤ اور ان کے قلب کو کوئی رنج نہ پہنچنے پائے کیونکہ ان کے مطابق سے تمہاری عاقبت کی خرابی متصور ہے مولانا فرماتے ہیں۔

یعنی قوئے را خدا رسمانہ کرد تا دل صاحب دلے نامہ بدرو
بالجملہ آپ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی عامل کامل و معارف داصل بلا ایمری طلب کے اجازت پڑھنے درود تجینا کی دیتا تو بہت اچھا ہوتا،
بارے بفضلہ تعالیٰ اس جوار پاک شاہ لولاک میں پہنچے اور شرف جواب صلوٰۃ وسلام
حضرت خیر الانام علیٰ افضل الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہوئے اور عارف خدا حضرت شاہ غلام مرتضی تھجیخانوی ثم المدنی سے ملاقات فرمائی اور اپنے شوق دلی کا نسبت قیام مدینہ منورہ کے اظہار فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب مددوح نے فرمایا کہ ابھی جاؤ، چندے صبر کرو،
پھر ان شاء اللہ یہاں بہت جلد آؤ گے اور صاحب جذب و احسان حضرت مولانا شاہ مغل محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کرمتوطن قدیم را مپور تھے اور عرصہ تیس سال سے بجا اور روپہ شریف تھے ملاقات کی اور ان کی خدمت سے بہت فوائد حاصل کئے اور حضرت خان صاحب موصوف نے بلا ذکر و طلب اجازت درود تجینا کی دی۔ کہ ہر روز اگر ممکن ہو ایک ہزار بار درستین سوسائٹھ بار پڑھا کرو اور اگر اس قدر میں بھی وقت نہ ہو تو اکٹا لیس بار تو ضرور پڑھا کرو اور ہر گز تاخندہ ہونے پائے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ راقم (مؤلف) کہتا ہے کہ حضرت نے کمال خادم نوازی سے مجھ کو اس درود شریف و دیگر فوائد کی اجازت عطا

فرمائی اور فقیر نے اس کو اپنا معمول کر لیا ہے اور بہت کچھ فوائد پاتا ہے اور درمیان روپہ شریفہ و منیر کریمہ کے روپہ من ریاض الجنة اس کی شان ہے، مراتب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت ملکہ قبر مقدس خود سے بصورت حضرت میا جیو صاحب قدس سرہ نکلے اور عمارہ پیشا ہوا اور تراپے دست مبارک میں لیے ہوئے تھے تیرے سر پر غایت شفقت سے رکھ دیا اور کچھ نہ فرمایا اور واپس تشریف گئے۔ رقم مسکین کہتا ہے کہ یہ عبارت ہے اجازت مطلقہ آنحضرت رسالت نامہ کی تھی اور چیزہ و تر ہونا عمامہ کا اشارہ ہے طرف سلوک بعد جذب و تسلیم بعد تلویں و باقاعد فنا کے و نیز مجموعہ اشارہ اجازت واپسی وطن کا ہے۔ پس جبکہ یہ اشارہ ہو چکا تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ بعافیت تمام مکہ معظمرزادہ اللہ شرفا میں داخل ہوئے اور چند دن میں رہ کر وطن کو روانہ ہوئے اور چند دن میں اللہ کی مدد سے وطن میں آپنے، اور دیدہ نظر ان کو تروتازگی تھی۔ [شامم امداد یوسف ۱۱]

(فائہ ۵) اور اس سے اوپر کے حال میں حزب الامرکی جس اجازت کا ذکر ہے اس کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی سفر کا واقعہ ہے چنانچہ وہ عبارت خاص حضرت کی لکھی ہوئی یہ ہے اجازت اسی حزب الامرکا زید زین الدین بن محمد از اولاد حضرت خواجہ ابو الحسن شاذی و شیخہ تباریخ ہنفہ، ہرم ریحی الثانی ۱۴۲۰ھ روز یکشنبہ بمقام تحریر سیدہ گرفتہ شدہ است اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر جس سے بندر لیس چشم ذی الحجہ ۱۴۲۱ھ کو اترے جس کا ذکر اس حال میں ہے۔ واللہ اعلم۔ اور یہ امر قبل غور ہے کہ ان دو مدتیں کے درمیان ذی ریحہ برس ہوتا ہے۔ تو ذی ریحہ برس کہاں قیام رہا شاید یہ چشم ذی الحجہ بھی ۱۴۲۰ھ ہی کا ہو تو اس صورت میں دوسرا سوال ہو گا کہ آئے نئے نئے سوم شامم میں معاودت ۱۴۲۲ھ میں لکھی ہے شاید وہ ۱۴۲۱ھ ہو اور ظاہراً اس تعارض میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو ترجیح ہو گی اور تعارض کو سہونا قل پر محول کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

حال (۲) : اعلیٰ حضرت فاروقی نبض خلیل المذهب حقیقت آگاہ معرفت دستگاہ حافظ سید السادات العظام افتخار الشانع الاعلام مرکز الخواص والعلوم منبع البرکات القدیسہ مظہر الفیضات المرضیہ معدن المعارف الاصحیہ مخزن الحقائق مجعع الدقاائق سراج اقربان قدوة

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

کا نام سیخنے کے لیے آنے والی خلقت کی دیگری فرماتے تھے، آخرا طالبین کا ہجوم دن بدن بڑھتا گیا اور آپ اسی توکل کے وسیع خوان پر مہماں کی بخوبی ضیافت فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بہادوج نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ موروٹی جائیداد آپ منتقل فرمے چکے خود توکل پر پیسرت و فخرگز ران ہے پھر اس پر مہماں کی کششت اور نووارد مسافروں کی زیادتی گوآپ کو بارہ معلوم ہو۔ مگر میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس خدمت سے چشم پوشی کروں اس لیے آج سے جتنے مہماں آئیں ان کی اطلاع غریب خانہ پر فرمادیں ان کا کھانا دونوں وقت یہاں سے آئے گا اذل تو اعلیٰ حضرت نے انکار فرمایا کہ نہیں میرے مہماں ہیں ان کی خدمت کا مجھے ہی پر حق ہے۔ مگر آخربھابی صاحب کے اصرار کے سبب جو محض اخلاص کے ساتھ تھا آپ نے قبول فرمایا اور اس روز سے مہماں کا کھانا دونوں وقت یہاں سے آنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی بہادوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برداشت تھا کہ مہماں کا کھانا خود پکاتی تھیں اور کسی مہماں کے ناووت آنے سے بھی کبھی تنگی نہ ہوتی تھیں۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بہادوج آپ کے مہماں کا کھانا پکارہی ہیں کہ جناب رسول مقبول ﷺ اُتریش رفیق لائے اور آپ کی بہادوج سے فرمایا اُنھوں تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہماں کا کھانا پکائے اس کے مہماں علماء ہیں اس کے مہماں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کی اس مبارک خواب کی تعبیر کاظمہ حضرت امام ربانی محدث گنگوہی سے شروع ہوا اس لیے کہ علماء میں آپ ہی پہلے عالم ہیں جو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ﷺ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے آپ کے بعد چار داگنگ عالم سے جو قبیل علماء کی آمد شروع ہوئی اور اعلیٰ حضرت کو علماء کا شیخ دراہبر بنے میں وہ رتبہ علیا حاصل ہوا کہ جس کی نظیر دنیا میں سلفا خلفا شاید ایک دوں کے سے اس روایا صاحب ہی کا شرہ تھا کہ تجینی سات آنھے سو علماء سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں۔ ذلیک فضل اللہ یوں یہ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ۔ (تذكرة الرشيد ص ۳۵)

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

اہل زمان سلطان العارفین ملک التارکین غوث الکاملین غیاث الطالبین سلاسل ارجمند میں مشائخ اعلام سے بیعت چمنستان حب الہی کے پھول گو ظاہری علم شریعت میں علامہ دوران اور مشہور زمان مولوی نتھے مگر علم لدنی کے جامہ غیر شناسہ سے آراستہ اور نور عرقان و ایقان کے زیورات سے سرتا پا ہی راستہ شیخ وقت قبصہ تھا۔ بہون ضلع مظفر گر کو مہبیط انوار و برکات اور مطرح نوض و تجلیات بنائے ہوئے تھے۔

خلقت یہ ضعیف و تجیف خفیف اللهم اسپر مجاہدات و ریاضات اور تقلیل طعام و منام اور سب سے بڑھ کر عشق حسن اذلی جو استخوان تک کوہلا دیتا ہے جس کے باعث آخر میں کروٹ تک بدلنا دشوار تھا۔ آپ کا دل عشق منزل ہر وقت نشلاقاء میں سرشار تھا۔

ایام عمر میں قصہ فساد والرام بغاوت کے زمان میں مکہ معظلمہ بھرت فرمائے ہوئے اور کل چوراہی سال تین مہینہ میں روز گوشہائے عالم دنیا کو منور فرمایا بارہ یا تیرہ جمادی الآخری ۱۴۱۳ھ بروز چارشنبہ بوقت اذان صبح اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہوئے اور جنت السعلی (مقبرہ کہ معظلمہ) میں مولوی رحمت اللہ کی قبر کے متصل مدفن ہوئے۔
اطاب اللہ ثراه و جعل الجنة مثواہ۔

اعلیٰ حضرت گھر سے خوشحال اور موروٹی جائیداد کا معقول حصہ پائے ہوئے تھے۔ جو بظاہر الحال گزران میہشت کے لیے کافی و وافی سامان تھا۔ مگر آپ کا قلب سیم چونکہ بالطبع زہر و توکل کا شیدا تھا اس لیے آپ نے اپنی ساری جائیداد سکنی و زرعی اپنے بھائی کے نام منتقل کر دی اور مسجد کے مجرہ کو مسکن بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت زاوی ٹھوں کی زیست اور گمناہی کے ساتھ ایام گزاری کی جانب بہت راغب تھے اس لیے ہمیشہ اپنے کو چھپایا اور علیحدگی دیکھوئی کو اخفاء و کتمان حال کا سبب بنایا۔ مگر بقول۔

مشک آنست کہ خود بپیدا نہ کر عطار بگوید

اپنے چھپائے کب چھپ سکتے تھے، خدائی مخلوق نے جبھہ سائی کو فخر سمجھا۔ اور جیسا کہ دین کا اپنے زمانہ ولادت سے حال رہا ہے، غرباء و مساکین اور عوام الناس طالب دین تیک بندوں کی آمد شروع ہوئی مجبوراً اتنا لا الہ اما رآپ طالبین کو بیعت فرماتے اور اللہ

امتحان یہ تھا کہ جتنا ادھر سے انکار تھا اسی قدر ادھر سے اصرار اور جس قدر اس جانب سے استغفار کا برداز تھا اتنا یعنی اس طرف سے احتیاج و انتشار کا اظہار چونکہ جیساں عظام ہیش طالب صادق اور ہونہار کی حلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں امتحان والے دو تین دن میں ایک دوسرے بزرگ نے بھی جن سے مناظرہ کرنے تشریف لائے تھے طرح طرح سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِنَا فِي جَوْفِهِ صاحب دل کا ایک دل چونکہ ایک کا ہولیا تھا اس لیے نہ پھرنا تھا نہ پھرا اور ثابت قدم کو استھان کے پاؤں ایک مخصوص آستانہ کی جانب لپک چکے اور امدادی دربار گھر بار میں جم چکے تھے اس لیے نہ ڈھنے تھے نہ ڈگنے چنانچہ اسی اثناء میں حافظ ضامن صاحب شہید ٹھیک ہے آپ سے آئے کا سبب اور حال دل پوچھنے لگے تو آپ نے بے اختیار فرمایا جدھر دل کا میلان ہے وہ قبول نہیں کرتے دوسرے اپنی طرف کھینچتے ہیں عجب قصہ ہے جناب حافظ صاحب نے دل اسادیا اور فرمایا کہ ابھی جلدی کیا ہے چند روز بھروسہ یہاں کے حالات دیکھو آخر جب آپ کی پیشگوئی ہر طرح ظاہر ہو گئی تو جناب حافظ ضامن صاحب ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سفارش کا اجر حاصل فرمایا اور تھانہ کی حاضری سے دو تین روز کے بعد آپ کو سلاسل اربعہ میں اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ذکر و شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ رات کو اٹھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے۔ اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ پھر تو مرمنا۔ القصہ حضرت مولانا قدس سرہ منظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو بارہ تسبیح تلقین فرمادیں شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چار پائی جس پر آپ استراحت فرماتے تھے اپنے پنگ کے پاس بچھوالي اور آرام فرمایا۔ آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھنے تو حضرت مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی مگر چونکہ بیعت کے وقت شرط ہو چکی تھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا کہ

استفادہ علماء و قبول مشائخ تازمان بحیرت حال مشتمل بر قصہ بیعت حضرت گنگوہی حَمَّةَ عَلِيٰ

امام ربانی قطب صد ایک حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ تھا نہ بھون میں داخل ہوتے ہی اول پیر محمد والی مسجد میں پہنچنے دیکھا کہ ظہر کی نماز ہو چکی ہے اور اعلیٰ حضرت اپنی سر دی میں بیٹھنے ہوئے تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں۔ حضرت مولانا حاضر خدمت ہوئے اور ختم تلاوت پر سلام مسنون عرض کر کے بیٹھنے کے اس سے قبل غالباً ایک مرتبہ دہلی اور دو مرتبہ گنگوہ اور ایک مرتبہ گز رگاہ دلن بنا کر تھوڑی دیر کے یہ تھانے بھون میں اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوئی تھی۔ یہ پانچویں ملاقات تھی مگر یوں کہنا چاہیے دلن میں اعلیٰ حضرت کے سہماں بن کر حاضری کا عمر بھر میں آپ کو پہلا اتفاق تھا۔ اعلیٰ حضرت نہایت ہی کریمانہ اخلاق سے پیش آئے اور غایبت درجہ خاطر و مدارات فرمائی اور دریافت فرمایا کہ کیسے آئے حضرت امام ربانی نے (ایک عالم کے ساتھ) مناظرہ کا قصر دنیا کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہا ایسا ارادہ نہ کرتا میاں وہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں بس مباحثہ کا تو اسی جگہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت آپ کے بڑے ہیں تو میرے بھی بڑے ہیں اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور آپ نے موقع پا کر بالغاظ مناسب بیعت ہونے کی درخواست کی اعلیٰ حضرت اطاعت اللہ تھا اسے عادت شریفہ کے موافق بیعت میں تالیم نہیں فرمایا بلکہ طلب صادق کو امتحان کی کسوئی پر کس نے اور اعتقد و شوق بڑھانے کے لیے صورۃ انوار کے لفظ زبان پر لائے یہاں سوائے اخلاص و شوق کے کیا تھا قطبیت کا جام سپنے والا ایک جسم تھا جو سرتا پا طلب بنا ہوا تھا خوست علم و بحیر مولویت نام کو بھی نہ تھی اور جو کچھ تھی وہ پہلی ہی گفتگو پر نکل پھی تھی۔ پس نتیجہ

انھنیں بھوپالا ہوتی ہوئی دوازدھ تسبیح کا ذکر کر لویں کن قدمی نفس شیخ کا پچھا دینے والا اور کام کرنے والا سریع الخفوود فیضان پہلے ہی اپنا اثر کر چکا تھا ادھر مورث قوی الاتیش ادھر متاثر کمال درجہ کا قابل تاثر اور دونوں پر طریقہ مواجہت والصال بھلاکس طرح ممکن تھا کہ حضرت محمد مقدس سرہ بستر پر لیئے رہتے یا نیندا آجائی دوچار کروئیں آپ نے ضرور بدیں اور کسی درجہ میں چاہا بھی کہ نیندا آجائے مگر حق تعالیٰ کو آپ سے جو کام چند ہی روز بعد لینا منتظر تھا اس کے اسباب قریبہ اسی پہلی رات سے پیدا ہونے مقدر تھے۔ پس نہ آپ کی آنکھیں اور نہ آپ اس ناگوار و مضطرب حالت اضطجاع و تقلب کے محمل ہو سکے۔ آخر خود ہی اٹھے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے اور ایک گوشہ میں اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مشغول تھے۔ دوسرے گوشہ میں آپ جا کھڑے ہوئے بہ نیت تجدنو فل ادا کئے اور ذکر کرنی و اثبات بالخبر شروع کر دیا۔ حضرت قدس سرہ نے جس وقت اس قصہ کا خود مذکورہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخر کار میں نے ذکر بالخبر شروع کیا گلا اچھا تھا بدن میں قوت حقی صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرمائے گئے کہ تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی برا مشاق کرنے والا ہو اس دن سے ذکر جبر کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی پھر کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شریعی اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی یہ پہلا صلحتا جوشی کی زبان سے بہ تقاول نیک غیری بشارت بن کر آپ کو ایک شب کی قلیل محنت پر عطا ہوا تھا۔ جس کا ادنیٰ شرہ یہ تھا کہ تاوصال حضرت مولانا قدس سرہ بارہ تسبیح نجمہ دیگر مرائبہ و مشاغل کے ایسی ہلکی آواز کے ساتھ ذکر فرماتے رہے کہ جس کو جبر کے پاس بینتے والا سن سکتا تھا بحقہ اے احب الاعمال مادیم علیہ الحدیث خدا کے نزدیک اس ذکر بالخبر کی کس درجہ محبوبیت و پسندیدگی ہو گئی جس کی موازنیت ابتدائی گھری سے اختیائی ساعت تک رہی ہو۔

ناظرین! حضرت قطب العالم قدس اللہ سرہ کے اس وقیع الشان فقرہ کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں جو خادم کے دریافت کرنے پر آپ کی بھی زبان سے ظاہر ہوا ”پھر تو مر منا“ صفحہ ہستی پر آب زر سے لکھنے اور لوح دل پر قلم اذعان سے کندہ کرنے کے لائق ہے۔ حقیقت میں حضرت مولانا اس کے بعد مر ہی مئے آپ نے اپنے نفس کو مار دیا ہوا ہے نفس

کو ملیا میث کر دیا جس پاک نام سینئے کا قصد کیا تھا اس میں کھپ گئے فناستیت حاصل کی اور اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ قاء عن الفباء پر پنچھے کر اپنی فناستیت سے بھی بے خبر اور فانی حضن بن گئے آپ کے صفا کیش دل عشق منزل کا تیز پرواز پر نہ آستان امدادیہ پر حب الہی کا ایسا مقید و گرفتار ہوا جیسا لارس کا پکڑا طیر یا قفس میں بند ہوا جانور کہ باوجود گھر کے تقاضوں اور اقارب کے بار بار بلا دوں کے آپ تھانے سے باہر نہ نکل سکے اور گو حاضری کے وقت قیام کا مطلق قصد یا خیال نہ تھا مگر دل کے ہاتھوں مجبور اور قدرت کے دست تقدیر سے محدود چلے پورا کرنا پڑا اور روز یہی رہا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا اور کل نہیں پرسوں چلا جاؤں گا اگر کبھی ادھر سے اجازت کی طلب ہوئی تو اعلیٰ حضرت کا یہ جواب تھا کہ چلے جانا آج نہیں کل سی اور اگر کسی وقت ادھر سے استفسار ہوا کہ کب جاؤ گے تو حضرت کی طرف سے یہ جواب تھا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا ان کا جانے کو جی چاہے نہ ان کا سینئے کو دل چاہے۔

الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی درود مدد دنوں طرف ہو آگ برابر گئی ہوئی عشق اول در دل معموق پیدا می شود گرنسوز دشیع کے پروانہ شیدا می شود بیان تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بالخبر کرتے ایک ہفت گزر اتحاد کے آٹھویں دن شیخ العرب والجم کی جانب سے دوسرا صلہ عطا ہوا اور واقع ہونے والی غیری بشارت بایس الفاظ صادر ہوئی کہ ”میاں مولوی رشید احمد جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی، وہ آپ کو دے دی، آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔“ حضرت قطب العالم قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی تحجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ وہ کوئی چیز ہے جو اعلیٰ حضرت کو حق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطا ہوئی آخر پندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ کیا تھا یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت مولانا کا یہ سفر زیادہ تر ہے نیت مباحثہ فتنہ بر تھا اور آپ جن دو کپڑوں کو پہنے ہوئے تھے، انہیں میں تھانے بھون چلے آئے تھے۔ نہ دوسرا جو زر اساتھ تھا اور نہ قام کی نیت تھی کہ نیا بتوالیں۔ حضن بلا قصد و ارادہ خپڑنا پڑا، کچھ اور چالیس دن اس لیے جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے تو ان کو خود ہی دھولیا اور نہ میلے ہی پہنے رہے آخراجی فیضان صحت و مشغل ذکر میں چالیس دن پورے ہوئے اور

جانب علیہ دے گئے اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس کو بیعت کر لینا حضرت امام ربانی فرماتے تھے کہ میں نے عرض کیا مجھ سے کون درخواست کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا جو کہتا ہوں وہ کرتا یہ تمہرا انعام تھا جو اس پہلے سفر کی آخری ملاقات کے وقت حضرت مولانا قدس سرہ کو عطا ہوا یہ وہ عطیہ ہے جس کے حاصل کرنے کی غرض سے آستانے ڈھونڈنے جاتے اور برسوں پر ان عظام کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ [ذکرہ الرشید ص ۲۷۲ ج ۱]

حال تتممہ سابق: مولانا کو وطن واپس ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک عفت آب نیک ڈل عورت نے آپ سے بیعت کی درخواست کی امام ربانی نے طبعی توضع کے سبب درخواست نامنظور فرمادی اور ٹال دیا، خدا کی شان کر اعلیٰ حضرت ناؤی تشریف لے جانے کی نیت سے روانہ ہوئے اور اسی سفر میں گلکوہ حضرت مولانا قدس سرہ کے پاس قیام فرمایا صاحب نصیب عورت کو اپنے درذ کادرمان حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع کہاں مل سکتا تھا کہ بیرون کی بے انتہائی کا گلہ دادا پیر سے کیا جائے اور باپ کی شکایت ہو تو چدیز رگوار سے ہو پس اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہلا بھیجا کر دیکھئے حضرت میں مرید ہونا چاہتی ہوں اور مولانا بیعت قبول نہیں فرماتے۔ اب کیا تھا اعلیٰ حضرت کے لاطافت آیز سوال تھے کہ کیوں صاحب سائل کی درخواست کیوں منظور نہیں ہوتی اور حضرت مولانا شرم سے پسند پسند ہوئے جاتے تھے اگر جواب تھا تو کبھی یہ کہ حضرت میں اس قابل نہیں یا اس طرح کہ آقائے زمانہ کے تشریف فرماتے غلام کی کیا طاقت کہ کسی کا آقا بنے مگر اعلیٰ حضرت بار بار بھی فرماتے تھے کہ جب کسی کو تم ہی سے عقیدت ہو تو وہ میرا مرید ہو کر کیا نفع اٹھائے گا۔ غالباً یہ کہ حضرت اٹھے اور امام ربانی کو اپنے ہمراہ درخواست کنندہ عورت کے مکان پر لائے اور فرمایا لویرے سامنے بیعت کرو۔ احمد مختصر۔ [ذکرہ الرشید ص ۵۲۳ ج ۱]

حال: بعد ازاں انکہ بفضلہ تعالیٰ سفرج سے بعافیت تمام ۱۴۶۲ھ بارہ سو باسٹھ بھری میں وطن کو معادوت فرمائی لوگوں نے اصرار و کوشش واسطے بیعت لینے کے کرنا شروع کیا اولًا جناب ایشاں نے انکار فرمایا اور چندے اس پر اقدام نہ فرمایا کیونکہ انتظار حکم و مجازہ نہیں کا تھا

حضرت قطب العالم قدس سرہ بخار میں جتنا ہو گئے ادھر علامت کے باعث یہ خیال کر اٹلی حضرت پر حیار داری و خدمت مرض کا بارہ النا خلافی ادب ہے اور ادھر گھر والوں کے شدید تقاضوں پر تقاضے کیونکہ جو دن گزرتا تھا، مخلقین کا ٹکر بڑھتا اور خدا جانے کیا کیا دسوے پیدا ہوتے تھے کہ بیٹھے بھائے بلا سامان سفر و زاد راہ ایک دن کو تھاں گئے تھے۔ بہب کیا کہ بیٹھ لگادیے اور گھر کا نام نہیں لیتے اس لیے حضرت امام ربانی نے اعلیٰ حضرت سے رخصت چاہی اور اعلیٰ حضرت نے بخوبی اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ پورے بیالیں روز ختم فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب تھا جو ہونے اور اعلیٰ حضرت بہ نفس نیس معد دیگر مخلقین کے ایک جم غیر میں بغرض مشایعت مسنونہ روانہ ہوئے اور تھوڑی دور تک ہونہا رسم افرمہمان کے ساتھ ساتھ تشریف لے چلے حضرت مولانا کا اصرار تھا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں مجھے آپ کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت کا دل یہ چاہے کہ جہاں تک بھی طاقت یاری دے ساتھ چلیں آخرون تو خادم و مخدوم مدد دیگر ہمارا ہی احباب و ہم عصر اصحاب کے پا پیادہ روانہ ہوئے اور سواری کی بیبل خالی بھی بیچھے اور کبھی آگے چلتی رہی، اعلیٰ حضرت کی پدراند شفقت اور سادگی کے ساتھ مریبیانہ محبت کا یہ اقتضا کہ مولانا سواری میں سوار ہو جائیں کیونکہ عشق کی اندر ہونی حرارت کے ساتھ بخالو زدہ بدن کا ضعف راحت کا طالب ہے اور سعید و رشید مولانا کے غایت تادب و تکریم اور عجز و امسکار کے ساتھ خور دانہ تو قیر و تعظیم کا یہ متفضی کہ گواہ اعلیٰ حضرت کا قدم قدم برچشہ دصل و آپ حیات ہونے کی وجہ سے ذریعہ فلاج دین دینا ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ قدم می منت لزوم بجائے زمین کے آپ کے دل محروم پر چل رہے اور عزت کے ساتھ کلفت کا بہب ہو رہے تھے اس لیے کچھ عجیب سماں تھا کہ نہ امام ربانی حضرت مولانا قدس سرہ غایت ادب کے باعث سواری پر سوار ہو سکتے ہیں اور نہ اعلیٰ حضرت اپنے لاڈلے رو ہمالی بینے کی درخواست پوری فرمایا کہ واپس ہوتے ہیں یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت ہی بایس خیال کہ بیماری کی حالت میں پا پیادہ چلنا مہادا چاہتے دینی بینے کی کلفت و ماندگی اور زیادت مرض کا باعث ہو ٹھکے اور جمع کو وہیں کھڑا کر کے حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ کر ایک



یہاں تک کہ ایک بار تھانہ بھون میں خواب دیکھا کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ راشدین و دیگر اصحاب کرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور حضور مصطفیٰ کی عنایت و شفقت بے انہتا اپنے حال پر مبذول دیکھی نیز دیکھا کہ زوج شیخ فدا حسین والدہ حافظہ احمد حسین مہاجر و امین حجاج مقیم مکہ معظمه زادہ اللہ شرف او کرمۃ برائے حضرت ایشان اپنے مکان میں کھانا پکارہی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرحومہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تو انہتکر میں مہمانان امداد اللہ کے واسطے کھانا پکاؤں کہ ان کے مہمان علماء ہیں۔ یہ خواب بشارت تھی اجازت لینے بیعت کی۔ اور اسی جگہ سے ثابت ہوا کہ اس دن سے ہجوم علماء و طلباء زیادہ سے زیادہ ہوا، پھر دوبارہ اشاعت غیری اس بشارت غیری کی تائید میں ہوئی اور فہماں ارباب معارف عموماً و حضرت پیر بھائی حافظ محمد ضامن صاحب نور اللہ مرقدہ خصوصاً اس پر موکدتر ہوئی چاروں چار بیعت لینا شروع فرمایا۔ اذلآنچند آدمیوں نے عوام سے بیعت کی بعد ازاں اول جس شخص نے علماء سے بیعت کی جائے فضل و کمال مکمل افراد انسانی حضرت ابی الحکیم مولا نا رشید احمد گنگوہی سلمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تمام خلفاء حضرت ایشان سے کمالات باطنیہ میں گوئے سبقت لے گئے۔ بعد ازاں دارث علوم دینی حضرت الحاج مولا نا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف اسرار دقات علوم الہیہ میں ایک آیت الہی سے تھے مختتم سلسلہ بیعت ہوئے نور اللہ ضریحہ بعد ان کے علامہ عصر حضرت مولا نا عبد الرحمن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت مولوی محمد حسن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ و جامع علوم الہیہ و عالیہ الحاج مولا نا محمد یعقوب نانوتوی مدرس اذل مدرسہ دیوبند نور اللہ مسجد و حضرت مولوی حافظ محمد یوسف ھانوی این حضرت عارف کامل حافظ محمد ضامن نور اللہ مرقدہ و حضرت الحاج مولوی حکیم ضیاء الدین رامپوری السہار پوری و جناب ادیب اریب فقید لیب محدث اجل مفسر انجبل فاضل افضل حضرت استاذی الحاج مولا نا فیض الحسن السہار پوری امامہ اللہ سجنانہ باقادات و اضافات و عالی جناب نواب حضرت الحاج مولوی محی الدین خاں مراد آبادی و صاحب تالیفات کثیرہ حضرت الحاج مولوی محی الدین خاں میسوری و مدرس بے نظر و خوش تقریر ۱۰ شام کے اس مضمون کی تحریر کے وقت حضرت زندہ تھے۔ ۱۲ من

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق



حضرت الحاج اسحاق مولانا احمد حسن ڈسکوئی پنیوالی مدرس اذل مدرسہ دارالعلوم کانپور سلہ اللہ تعالیٰ وابقاہ و حضرت الحاج مولوی نور محمد مرحوم و محفوظ و حضرت الحاج مولوی محمد شفیع نورنگ آبادی بلند شہری و حضرت الحاج مولوی عنایت اللہ المالوی و حضرت جامع فضل و کمال الحاج مولانا صفات احمد غازی پوری و حضرت فاضل متورع متقد الحاج محمد افضل ولائی و حضرت ذکری رضی فاضل نقی الحاج مولانا السيد محمد فدا حسین رضوی محی الدین گنگوہ سلمہ اللہ تعالیٰ وابقاہ وغیرہم رزقہم اللہ سجنان حلاوة الایمان و ختم اللہ حکم علی الایمان والعرفان داخل طریقہ حضرت ایشان ہوئے اور سلسلہ مترشدین میں آئے اور اکثر مجمع طائفہ ۱ علماء سے تھے اور روز بروز ان کی جماعت زیادہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ حد احصاء سے متجاوز ہو گئی اور اسی زمانہ میں بوجہ ہجوم و اژدهام خلائق طبع گرامی بوجوکش غیری کبھی کبھی سفر کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن اپنے نفس نفیس سے تعین کسی مقام کا نہ فرماتے تھے۔

رشیہ در گرد نم افگنده دوست می برد ہرجا کہ خاطر خواہ اوست آپ کا مصدق اقحال تھا اور اکثر انتہائے سفر بست پیران کلیر و دلی بفرض زیارت قطب الدین بختیار کا کی قدسنا اللہ باسرارہ و دیگر بزرگان کے کہ ان مقامات میں آسودہ ہیں۔ ہوتا تھا اور بمقام پانی پت واسطے زیارت حضرت شیخ شمس الدین پانی پتی و حضرت شیخ کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی کے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی دوسرے مقامات میں بطریق ندرت اتفاق ہوتا تھا۔ اور اکابر علماء اولیاء اس نواح سے رسم مجتب غائب تھی علی الخصوص اشهر علماء و اکبر الاولیاء قطب فرید و حیدر شیخ تھی جناب حضرت الحاج اسحاق مولانا الشاہ عبدالغنی الحنفی الحجۃ دی الدہلوی المدنی برادر اصغر حضرت مولا نا شاہ احمد سید مذکور رحمہما اللہ تعالیٰ برحت الواسعہ سے رابطہ خلوص و اتحاد بہت زیادہ تھا۔ اور تازمانہ وفات ان حضرات کے بعد نہایت گرم مجلس رہی اور حضرت شاہ حسن عسکری نظامی دہلوی نور اللہ مسجد و برد مسجد و حضرت مولوی محمد حیات نظامی دہلوی نور اللہ ضریحہ وغیرہما سے بھی مجتب و خلوص بغایت اخصاص تھا اور اس زمانہ میں شراب عشق الہی صہبائے خیر آن جناب ۲ گوان علماء میں بعض مسائل میں اختلاف بھی رہا ہے گریہاں صرف مقصود یہ ہے کہ علماء بکثرت اعلیٰ سلسہ ہوئے تو اس اختلاف سے اس مقصود میں کوئی تقدح لازم نہیں آتا۔ من

حرمن گھر سے باہر نکلے چونکہ مولانا گنگوہی سے زیادہ تعلق تھا اس لیے آخری ملاقات ہند کے لیے گنگوہی تشریف لائے۔ اس وقت حضرت مولانا قدم سرہ کی عفت تاب صاحبزادی یعنی حافظ محمد یعقوب صاحب کی گھوالدہ ماجدہ کی عمر دو سال کی تھی جس وقت مخالفہ ضلع انبار میں پہنچ ہیں تو راؤ عبد اللہ خاں رئیس کے اصلیں اسپاں کی دیران و تاریک کو خڑی میں مقیم تھے ایک روز اسی کو خڑی میں دشوق فرمائے گر چاشت کی نماز کے ارادہ سے مصلی چھایا اور جاں شار حضار جلسے سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں میں نہیں پڑھ لوں۔ راؤ عبد اللہ خاں اعلیٰ حضرت کے بڑے جاں شار خادم اور مشہور مرید ہیں گھر کے خوشحال زمیندار اور سرکار کے نزدیک باوجاہت شخص سمجھے جاتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جوازم لگایا گیا ہے اس کے قائم ہوتے اپنا مکان کھول دینا دنیاوی حیثیت سے کس درجہ خطرناک ہے کیونکہ باغی کی اعانت بھی سرکاری بناوتوں میں شمار ہے مگر اس کے ساتھ ہی غلبہ حب دین اور فرط عشق میں اس درجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی پرواہ تھی نہ جان کی۔ خدا کی شان کہ جس وقت راؤ عبد اللہ خاں اعلیٰ حضرت کو تحریرہ باندھے نوافل میں مشغول چھوڑ کر کو خڑی سے باہر نکلے اور پٹ بند کر کے اصلیں کے دروازہ کے قریب پہنچ ہیں تو سامنے سے دوش کو آتے دیکھا اور ہکا بکاشندر کھڑے کے کھڑے رہ گئے خدا جانے مخبر کون تھا، اور کس بلا کا پڑلا تھا، جس نے عین وقت پر روپوٹی کی کو خڑی تک میعنی کر دی تھی۔ چنانچہ دوش اصلیں کے پاس پہنچی اور افسر نے مسکرا کر راؤ صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں گویا اپنے نادقت آنے کی وجہ کو چھپایا۔ جہاں دیدہ و تحریر کار راؤ صاحب دور ہی سے تاز گئے تھے کہ ایں گل دیگر شکافت مگر رہ پائے ماندن نہ جائے رفت اپنی جان یا عزت کے جانے ریاست وزمینداری کے ملیا ہیت ہونے اور چھڑکیاں پڑ کر جبل خانہ عکیب یا چانسی پر چڑھ کر عالم آخوت کا سفر کرنے کی تو مطلق پرواہ نہ تھی اگر فکر و رنج یا حزن و افسوس تھا تو یہ کہ ہائے غلام کے گھر سے اور آقا گرفتار ہو اور عبد اللہ خاں کی نظر کے سامنے اس کا جان سے زیادہ سخی پا بز نجیر کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہی راؤ صاحب اک جوانمرد مستقل مراج نہایت دلیر اور قوی القلب را چھوٹ تھے تشویش کو دل میں دبا اور چہرہ یا اعضاء پر کوئی بھی

میں بکمال غلیان تھی۔ اور میں نے ثقات سے سنا ہے کہ مستقل مراجوں کو حلقوں توجہ حضرت ایشان میں ضبط آہ و نالہ و گریہ بکار کرتا امکان میں نہ تھا تو ناقصوں کا کیا ذکر۔ مجلس شریف ہر دم وہر آن گرم رہتی تھی۔ اور جو کوئی شخص دو چار منٹ کو بغرض ضرورت دنیاوی یا دینی حاضر خدمت پا برکت ہوتا تھا کچھ حسنہ کچھ حاصل کرتا تھا و لنعم ما قليل، وللارض من کاس الکرام نصیب۔

اور اسی درمیان میں غایب جوش دل سے خیال ہجرت دل عرش منزل میں جنم لگا اور حلقة نبیناں کو ایک کیفیت معلوم ہونے لگی لیکن حکم غیری سے چارہ نہ تھا اور وہ ارادہ قوت سے فعل میں نہ آتا تھا یہاں تک کہ زمانہ خدر ہندوستان میں مشیت حق سمجھانے و تعالیٰ اس پر متوجہ ہوئی اور یہ آرزوئے دیرینہ (ہجرت کی) مدت دراز سے کانون سینہ میں شعلہ زن تھی ۲۷۴۲ھ بارہ سو چھتر قدمی میں ظاہر ہوئی اور تمام مدت قیام حضرت ایشان بہندوستان بطریق تعلیم و ارشاد چودہ سال ہوئے بعد ازاں وہ آناتب ہدایت و ارشاد مکہ معظمہ میں طالع ہوا۔ [شامم امدادیہ ص ۲۵]

مقدمات ہجرت، حال بعض واقعات زمانہ بد امنی ہندوستان

انہیں ایام روپوٹی میں مولانا قاسم العلوم کو املیا، گمبلہ، لاڈوہ، چنگلا سہ اور جمنا پارکی وقوع آنے جانے کا اتفاق ہوا۔ اور امام رب ابی (مولانا گنگوہی) قدس سرہ نے قیام زیادہ تر گنگوہ یا راپور میں کیا مگر اپنے ہادی برحق کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بیہاب ہو کر انبار، مگری اور مخلاف سے سفر کو اٹھنے اور مستور الحال مخفی طور پر اس حق کو ادا فرمائیں وطن ہوئے اس زمانہ کی کیفیات ایسی عجیب و غریب گزی ہیں کہ اگر محلی کرامتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جائے تو کئی ورق چاہیں اس لیے ان کو تفصیلاً چھوڑتا ہوں اور ضروری مضمون پر اکتفا کرتا ہوں۔ تینوں حضرات کے نام چونکہ وارث گرفتاری جاری ہو پہنچے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلی تجویز ہو چکا تھا۔ اس لیے لوگ جلاش میں ساعی دور حراست کی گئی و دو میں پھر تے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وطن کو خیر باد کی اور پہ نیت

گھوڑے پر سوار ہو یہ کلمات کہہ کر رخصت ہوا۔ راؤ صاحب! معاف بکھنے آپ کو اس وقت ہماری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور پھر بھی ہمیں کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ راؤ عبداللہ خاں صاحب کی نظر سے دوش کے سوار جب او جمل ہو لیے تو واپس ہوئے اور کوئی کھول دی۔ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نماز سے سلام پھیر چکے اور مصلیٰ پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ [ذکر الرشید ص ۷۶]

حال: سب سے زیادہ (مولانا گنگوہی) کو اپنے روحانی باپ اعلیٰ حضرت کی مفارقت اور ہندوستان میں شیخ رہ جانے کا غم تھا جو آپ کو کسی کروٹ چینن نہ لینے دیتا تھا، راتوں آپ کو اس رنج میں نیند نہ آتی اور دنوں آپ اس دھن میں رہتے کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کی ایک دفعہ اور زیارت کر لوں مگر جائیں تو کہاں جائیں اور میں تو کس طرح میں نہ اعلیٰ حضرت کی کوئی جائے قیام میں نہ بحالت روپوشن کسی جگہ کا تعین آخر شدہ شدہ آپ کو مخلصہ کا پتہ چلا اور آپ بسم اللہ کہہ کر گنگوہ سے نکل کھڑے ہوئے، راتوں چلتے دنوں چھٹتے خاردار بغل پیدل قطع کرتے گھری پیچے اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب را پوری کے مکان پر مقیم ہوئے یہ پہلا موقع تھا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب کو طفویلت میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہوئی اور آفتاب عالم کو اپنے گھر کا مہمان بنادیکھا حضرت مولانا نے نہایت شفقت کے ساتھ آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھ کر دم فرمائی۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مدخلہ کے والد ماجد راؤ اشرف علی خاں گھری کے خوشحال زمیندار اور نہایت نیک خیال و یمندار شخص تھے، راؤ صاحب کا حضرت مولانا۔ سے کوئی تعارف نہ تھا۔ مگر حسن اتفاق تھا کہ راؤ صاحب کو یہ انمول جواہرات گھر بیٹھے بلا طلب حاصل ہوئے۔ اس وقت مولانا عبدالرحیم صاحب کی عمر تین یا چار سال کی تھی۔ راؤ صاحب نے کچھ عجیب اخلاص کے ساتھ مسافر مہمان کی مدارات کی اور شب کو بیعت کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت مولانا نے انکار فرمایا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ابھی تشریف فرمائیں اگر یہ قصد ہے تو وقت کو نیخت سمجھنے غرض راؤ صاحب نے آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر رکھا اور ساتھ ہی چلنے کے متنی و عازم ہوئے۔ حضرت مولانا نے اپنی بے سروسامانی اور اندریشناک حالت ظاہر

اٹھ اضطراب کا محوس نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر جواب دیا اور مصافی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دوش کا افر گھوڑے سے اڑا اور یہ کہہ کر کہ میں نے آپ کے یہاں ایک گھوڑے کی تعریف سنی ہے اس لئے بلا اطلاع یا کیا یک آنے کا اتفاق ہوا، اصلیل کی جانب قدم اٹھائے، راؤ صاحب بہت اچھا کہہ کر ساتھ ساتھ ہو لیے اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ گھوڑوں کی سیر کرانی شروع کی افسر بار بار راؤ صاحب کے چہرہ پر نگاہ جمانتا اور اس درجہ مطمئن پا کر کبھی مجرم کی دروغ گولی کا عنصہ اور گاہے اپنی ناکامی و تکلیف سفر کا افسوس لاتا تھا یہاں تک کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوا حاکم اس مجرم کی طرف بڑھا۔ جس میں اعلیٰ حضرت کی سکونت کا مخبر نے پورا پڑہ دیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ اس کوئی تحری میں کیا گھاس بھری جاتی ہے اس کے پتھ کھول دیئے راؤ عبداللہ خاں کی اس وقت جو حالت ہوئی ہوگی وہ انہیں کے دل سے پوچھا جائیے سمجھتے تھے کہ تقدیر کے آخری فیصلہ کا وقت آگیا اور اپنا پیمانہ حیات لبریز ہو کر اچھا چاہتا ہے اس لیے راضی برضا ہو کر جی پاں اور حکم گرفتاری کے منتظر کھڑے ہو گئے۔

خداوندی حفاظت کا کرشمہ دیکھئے کہ جس وقت کوئی تحری کا دروازہ کھلا تھت پر مصلیٰ ضرور بچا ہوا تھا لوار کھا ہوا اور پیچے وضو کا پانی البتہ بکھرا ہوا پڑا تھا مگر اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا پتہ بھی نہ تھا، افسر تحریر و حیران اور راؤ عبداللہ خاں دل ہی دل میں شیخ کی عجیب کرامت پر فرحاں و شاداں کچھ عجیب سماں تھا کہ حاکم نہ کچھ دریافت کرتا ہے نہ استفسار کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی اوہر آخ ر مجرم کی دھوکہ دی کیجھ کر بات کو نالا اور کہا کہ خاں صاحب یہ لوٹا کیسا اور پانی کیوں پڑا ہے، راؤ صاحب بولے جناب اس جگہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور وضو میں منہ ہاتھ دھویا کرتے ہیں، چنانچہ ابھی آپ کے آنے سے دس منٹ قبل اسی کی تیاری تھی۔ افسر نے ہنس کر کہا کہ ”آپ لوگوں کی نماز کے لیے تو مسجد ہے یا اصلیل کی کوئی تحری“۔ راؤ صاحب نے فرما جواب دیا کہ جناب مسجد فرض نماز کے لیے ہے اور نفل نماز ایسی ہی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ جہاں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لا جواب جواب سن کر افسر نے پتھ بند کر دیئے اور اصلیل کے چاروں طرف غار نظر دوزانے کے بعد باہر نکلا اور

۲۵

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

(شیخ بخشی پا شاداغعتانی خلیقش بندی مجددی مہاجر و حضرت شیخ فائیسی شاذی و حضرت شیخ ابرائیم رشیدی شاذی و شیخ احمد بہان کی وغیرہ حرم حکم اللہ تعالیٰ) کبھی بھی خلوت و جلوت میں اکٹھا ہوتے تھے۔ اور کلمات رمز و اسرار و لطف و اخلاق درمیان میں آتے تھے اور باہم رسم و دستی حکم رکھتے تھے، اور یہ حضرات کمال تعظیم و احترام حضرت ایشان کی فرماتے تھے اور توجہ وہت حضرت ایشان اس بلده طیبہ میں طرف تعلیم ناچاہ کے کچھ کم تھی۔ غالباً یہ نسبت ہندوستان کے ایک ہزار کا فرق تھا البتہ جو لوگ موسم جج میں ہندوستان سے آتے تھے اور رسم ارادت سابقہ رکھتے تھے تقاضائے اخلاق کر یہاں ان لوگوں سے بعنایت پیش آتے تھے اور ان کی خاطر سے مجلس عام میں جلوہ فرماتے تھے، اور میل خاطر بطرف منشوی معنوی حضرت مخدومی مرحومی مولا ناروی قدس اللہ سرہ بہت زیادہ تھا جو کوئی عالم ہندوستان کا سال دو سال تک خدمت بابرکت حضرت ایشان میں حاضر ہوتا ہے ضرور درس اس کتاب شریف کا رنگ ذکر و شغل و مراتب میں حاصل کرتا ہے اور دامن دل کو گلہائے معارف گوناگوں سے مملو فرماتا ہے رقم کمترین (مؤلف) نے بھی اس سعادت سے حص پایا ہے اور حظ حاصل کیا ہے اور پچاس اور کئی سال حضرت ایشان نے تجدیں بسر کے اور مشغول حضرت حق سبحان و تعالیٰ میں مصروف رہے، بعد ازاں اشارت نبی پئی کہ حضرت رسول اکرم ﷺ کی تمام سنتوں میں ایک نور خاص و فیض خاص ہے عارف کونہ چاہیے کہ کوئی ایک سنت نبوی ﷺ سے دوری اختیار کرے کہ اس میں نقصان ہوگا اور مجملہ سنن سنیہ و مونکہ کے نکاح ہے۔ اس کو بحالاً اور انوار و برکات اس سنت کے حاصل کرو۔ جب یہ اشارت نبی صادر ہوئی ارباب اخلاص و ارادت نے بھی الحاج و خواہش کی اور مبالغہ حد سے زیادہ کیا یہاں تک مرحومہ مہاجرہ بی بی نورن صاحبہ کلکو یہ زوجہ سید حیدر علی مہاجر بخاری مرحوم نے کمرست شدہ خاص حضرت ایشان تھیں باصرار تمام ۱۸۸۲ھ میں اکیوسیں رمضان کو اپنی نواسی حضرت بی بی خدیجہ صاحبہ بنت مرحوم حاجی شفاعت خاں رام پوری کو کہ بے مادر و پدر تھیں اور انہیں نانی نے پرورش کیا تھا جبار نکاح حضرت ایشان میں بوض مہر سانحہ ریال فرانسیسی کے مبلغ ایک سو پیسیں روپیہ کچھ زیادہ سکہ ہندی سے ہوتے ہیں دیا

فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت نہیں البتہ اگلے دن آپ آئیں۔ اعلیٰ حضرت سے سفارش کا میں ذمہ دار ہوں چنانچہ ایک شب قیام فرمایا کہ مولا نا چل دیئے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اگلے دن راؤ صاحب بھی حاضر آستانہ ہوئے اور حضرت مولا نا کی تقریب سے ایسی حالت میں بیعت ہوئے جس کو سرا ایسکی اور چل چلاو کی حالت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے ہر چند اصرار کیا کہ بندہ کو ہر کاپ لے چلیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے نہ مانا اور یہ فرمایا کہ اسی طرح خدا کا حکم ہے جاؤ تمہیں خدا کے پردہ کیا آپ کو ہاں سے رخصت فرمادیا۔ حضرت مولا نا بادل ناخواست الفراق الفراق کہتے روانہ ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تسلی و تشغیل دی اور فرمایا میاں رشید احمد تم سے تحقیق تعالیٰ کو ابھی بہترے کام لینے ہیں۔ گھبراً مت، ہندوستان سے نکلنے وقت تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور مراتب میں ترقی دے۔ اس کے بعد دیر تک چھاتی سے لگائے رکھا، اور آخر کار پدرانہ شفقت اور مریبانہ محبت کے انداز پر خود بھی چشم تم ہوئے اور مولا نا کو بھی رلایا۔ [ذکرہ الرشید ص ۸۰ ج ۱]

ہجرت مکہ معظمہ و نکاح

حال: ایام غدر ہندوستان میں بوجے نظری دین و تغلب معاندان دین قیام ہند گرال خاطر ہوا اور ارادہ سابقہ ہجرۃ واشتیاق بالغذیارت رسالت پناہ علی اللہ علیہ السلام جوش و خروش میں آیا اور ۱۴۷۱ھ بارہ سو چھتہ ہجری میں براہ پنجاب روانہ ہوئے اور اشنازے راہ میں پاک پتن و حیدر آباد سندھ وغیرہ مواضع میں زیارات بزرگان مقامات مذکورہ سے مشرف اور فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے ہوئے کراچی بندرگاہ پہنچ دہاں سے جہاز پر سوار ہوئے اور انوار و برکات ہجرت ابتدائے سفر سے مشاہدہ فرمائے گئے۔ اور بعد طے منازل خیر البلاد کے معظیم پہنچے۔ اور انوار و برکات اس مقام متبرک سے فیضیاب ہوئے اور اس مقام مقدس کو مسکن و مادی اپنا بنا لیا اولًا چند سال تک جبل صفا پر اسکھل سینہ کے رباط کے ایک خلوہ میں معکف رہے اور مشغول حضرت حق جل و علامہل نہ دیتی تھی کہ جو دوسرے سے مخاطب ہوں ناچار خلوق سے کم ملتے تھے۔ لیکن مشاہیر علماء و شیوخ کے ساتھ

ملفوظات و مكتوبات

ملقب به

المتن الامدادی مع الشرح الارشادی

حامدہ او مصلیا: یہ عبارہ گویا ایک جزو ہے رسالہ امداد المشتاق کا حقیقت اس کی یہ ہے کہ رسالہ نبی کوہہ کا ایک مضمون اعلیٰ حضرت پیر و مرشد حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے ملفوظات شریفہ ہیں جو ماخوذ ہیں شامم امدادیہ کے تین حصوں سے جن میں سے پہلا حصہ جناب مولوی عبدالغنی صاحب بہاری عظیم آبادی مرحوم کا اور دوسرا حصہ زیادہ تر مولوی صادق الحسین صاحب کرسوی مرحوم کا اور کسی قدر اس احقر کا اور تیسرا حصہ مولوی احمد حسن صاحب چنگلی ثم الکانپوری مرحوم کا جمع کیا ہوا ہے۔ رسالہ کی ترتیب و نظر ہانی کے وقت بعض ملفوظات غامض خصوص حصہ دوم کی توضیح کے لیے کہ یہ حصہ ب حصوں میں ادق و اعمق ہے کہیں کہیں کچھ جوانشی لکھنے کی بھی ضرورت پڑی اثناء کتابت میں دفعہ قلب پر وارد ہوا کہ یہ ملفوظات خصوص حصہ دوم بعد شرح کے فن کا ایک معتقد ب ایسا علمی ذخیرہ ہو گیا کہ اگر اس کو مستقلًا بھی شائع کیا جائے تو یہ اس کا مستحق ہے بلکہ حقیقت شناس کی نظر میں خود اصل رسالہ کا جزو ہونے کی صورت میں بھی گویا رسالہ کا روح رواں ہیں جزو ہے۔ چنانچہ ملاحظ کے بعد اس میں تھا نہیں ہے اس لیے اس کی ایک مستقل جیست بنا کر اس کا ایک مستقل لقب بھی تجویز کر دیا گیا چنانچہ اس شان سے یہ آپ کے سامنے حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کو نافع فرمادے۔ البتہ مصلحت حفاظت دین ناظرین کی بنا پر اس کے متعلق یہ دھیت ضرور کرتا ہوں کہ اس کا مطالعہ بطور خود نہ کریں بلکہ کسی محقق سے سبق کے طور پر پڑھ لیں۔

● یہ ملفوظات اپنی شان افادة میں ایسے ہیں کہ اگر استقلال و انفراد آچھا پے جائیں تو زیبا ہے اس لیے اس کے لیے شروع میں ایک مستقل تہیہ اور مستقل لقب لکھنے دیا ہوں کہ اگر کوئی ایسا اقصد کرے تو یہ تہیہ اول میں رہے اور اس لقب سے موسوم کر سکے مگر اس صورت میں عنوان ملفوظات و مکتوبات کو نہ لکھا جائے۔^{۱۲}

ہنوز کوئی اولاد مسئلہ نہیں ہوئی حق سبحانہ تعالیٰ لم یلد و لم یولد و خیر الوارثین ہے فرزند صالح عطا فرمادے اور دراثت باطنیہ حضرت ایشان اس کو سپرد کریے پھر ۱۴۹۳ھ بارہ سو چور انوے بھری میں مجلد حارۃ الباب میں بعض یا ران طریقت حضرت ایشان نے ایک مکان خریدا اور بطور خود اس کی تعمیر کی اور حضرت ایشان کے نذر کیا اور آرزوئے قیام حضرت ایشان اسکے مکان میں کی اور بہت کچھ الحاج فرمایا۔ مجبوراً ان کی تمنا پوری کرنی پڑی اور اس مکان میں قیام فرمایا۔ اور ایلی الآن اس مکان میں مند افاضت و افادت پر مستکن ہیں اور انوار و برکات حضرت حق سبحانہ تعالیٰ طالبان کو پہنچاتے ہیں اور وقت قیام کے معظمه سے نسبت حضرت کی غایت درج لطیف ہوئی اور رنگ بیرنگی کا ہو گیا یہاں تک کہ نظر اور اک اکثر ارباب تھیکن اس نواحی کی خیرگی کرنے لگی اور تاب مشاہدہ نہ لائی تو اصحاب تکوین کا کیا ذکر۔ [شامم امدادیہ ص ۳۱]



غزالی قدس سرہ بھی لوازم سفر پر زیادہ کرتا ہوں اور الحجت کی عافیت گوشہ کیری و خلوت نہیں میں ہے۔ ^۱ راتم عاجز (مؤلف) عرض کرتا ہے کہ حضرت ایشان ماقبلی و روحی ندہاہ اربعین کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ہر سال دو تین چلے مکف فرمتے ہیں اور علاوہ زمانہ چلے کے بھی خلوت کو بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں سے کم ملتے ہیں البتہ جو لوگ کہ خالصاً وجہ اللہ بطلب خدا حضور القدس میں حاضر ہوتے ہیں ان سے بکمال شفقت و اخلاق ملاقات فرماتے ہیں اور نہایت درجہ عنایت و محبت کا برداوان کے ساتھ مٹوڑا رکھتے ہیں۔

(۳) ایک دن کسی سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مذہب ممتاز ہمارے بزرگوں کا جامع ہے نقہ و حدیث کا اور اختلاف علماء جو فروع میں ہے اس سے انکار نہیں لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف العلماء رحمة۔ ایک نے حاضرین میں سے عرض کیا کہ وہ علماء کون ہیں کہ ان کا اختلاف رحمت ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے کہ اعتمام کتاب و سنت رکھتے ہیں اور پیر و صحابہ کے ہیں (خصوص سنت خلفائے راشدین محدثین کان کی نسبت بھوئے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بستی و سنتة الخلفاء الراشدین رسول اللہ ﷺ کے رنگ میں ہے اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور بکمال محبت و خلوص متسلک رہتے ہیں) اور یہ علماء چار گروہ ہیں۔ مفسرین ^۲ محدثین و فقہاء و صوفی محدثین ظاہر حدیث رسول اللہ ﷺ کو لیتے ہیں کہ حدیث بنیاد دین اور محدثین خادم و محافظ دین ہیں اور ان کی سعی بیان تفاسیر و تقدید احادیث میں رہتی ہے کہ احادیث صحیح کے موضوع وضعیف سے ممتاز کرتے ہیں اور (تفاصیل) غیر مقلد کرنی زمانہ دعویٰ حدیث دانی عمل بالحدیث کرتے ہیں حاشا و کلا کہ حنایت سے بہرہ نہیں رکھتے تو اہل حدیث کے زمرے میں کب شامل ہو سکتے ہیں بلکہ ایسے لوگ دین کے راہبر ہیں ان کے اختلاط سے احتیاط چاہیے اور فقہاء احادیث نبویہ کو روایۃ اصحاب حدیث سے اخذ کرتے ہیں اور درایہ حضرت حق سے فیضان حاصل کرتے ہیں لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم

^۱ اضافہ گوشہ کیری و خلوت نہیں کی تائید میں ہے۔

^۲ مفسرین کی کوئی خاص تفصیل حضرت نہیں فرمائی شاید ضرورت نہ تصور فرمائی ہو۔

و فی مثله قال المخدوم الرومي۔
نکتہ ہا چول تنقیح پولا دست تیز گرانداری تو پر واپس گریز
پیش ایں الماس بے اپر میا کز بریدن تنقیح را بخود حیا
و هو العاصم لکل برو آثم

مقالات شریفہ حصہ اول

ملفوظ (۱) اکثر فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ حنفی المذہب صوفی المشرب ہو جو کوئی میرے یاروں میں سے اس سے تجوادز کرے گا میرے رابطہ و داسطہ سے اس کو کچھ حصہ نہ ملے گا اور جو کوئی کشفیہ سے اخلاص رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ صوفی المشرب و حنفی المذہب ہو۔ (حاشیہ) قوله حنفی المذہب اقول یہ تخصیص تمثیل کے طور پر ہے مقصود یہ ہے کہ کسی مجتہد کا تبع ہو۔ خود رائے نہ ہو اکثر حصہ ہند میں چونکہ دوسرے مجتہد کا مذہب نہیں اس لیے حنفی کی قید لگادی۔

(۲) فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اب وہ زمانہ آیا ہے کہ آدمی کو ضرور ہے کہ اولاً عقائد ضروریہ الہست و جماعت یاد کرے و مسائل لابدیہ متعلقہ صوم و صلوٰۃ و ہجع و شراء و غیرہ موافق اپنے مذہب کے حفظ کرے اور کسی ایسے درویش سے کہ تیغ کتاب و سنت ہو اور عقائد صحیح اہل سنت و جماعت کے رکھتا ہو اور اس کا سلسلہ متصل ہو اور کچھ دنوں کسی عارف کامل کی خدمت میں زانوئے ادب بھی یہ کیا ہو اور انوار و برکات اس طائفہ عالیہ سے مستفیض ہو اور طریقہ ذکر خدا کا اخذ کرے۔ اور منشوی شریف حضرت مولانا روم قدس سرہ و کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لے کر گوشہ نہیں اختیار کرے اور اختلاط مردمان ناجنس سے پرہیز کرے اور فقیر نے اپنی عادت کر لی ہے کہ سفر و حضر میں کلام اللہ شریف و دلائل الحیرات و منشوی معنوی حضرت مولانا کو ضرور پاس رکھتا ہوں اور حضر میں کوئی کتاب تفسیر قرآن مجید جو موجود ہو اور کوئی کتاب حدیث شریف خواہ مسکلۃ المساعیہ کیوں نہ ہو اور ایک رسالہ فتنہ اگرچہ مالا بد منہ ہو اور کیمیائے سعادت امام

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

ادب ظاہری یہ ہے کہ خلق کے ساتھ محسن ادب و کمال توضیح و اخلاق پیش آوے اور ادب باطنی یہ ہے کہ تمام اوقات و احوال و مقامات میں باحق سبحانہ رہے حسن ادب ظاہر سرتاسرہ ادب باطن کا ہے اور حسن ادب ترجیح عقل ہے بلکہ التصوف کل ادب دیکھو حق تعالیٰ اہل ادب کی بزرگی کی مدح فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ أَعُوذُ بِهِ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

جو کوئی کہ ادب سے محروم نہیں وہ تمام خیرات و مبرات سے محروم ہے اور جو کہ محروم از ادب ہے وہ قرب حق سے بھی محروم ہے۔

از ادب پر نور گشت است ایں فلک و زادب معموم پاک آمد ملک (۲) ایک شخص نے حاضرین سے عرض کیا کہ صوفی کون ہے اور ملامتی کون؟ فرمایا صوفی وہ ہے کہ سوا نے اللہ کے دنیا و خلق سے مشغول نہ ہو۔ اور روزہ و قبول مخلوق کی پروانہ رکھے اور مدح و ذم اس کے نزدیک برابر ہو اور ملامتی وہ ہے کہ نیکی کو چھپاوے اور بدی کو ظاہر کرے۔

(حاشیہ) قولہ نیکی کو چھپائے اقول یعنی نیکی سے مراد طاعت اور بدی سے مراد غیر طاعت نہ کہ معصیت یعنی مباحات کا اخاء نہ کرے۔

(۳) ایک آدمی نے فقر کے معنی دریافت کے فرمایا فقر و طرح پر ہے اختیاری و اضطراری فقر اختیار کر واسطے رضاۓ حق کے ہو دولت مندی سے بدرجہا افضل ہے کہ حدیث الفقر فخری میں اسی فقر کی طرف اشارہ ہے اور فقر اضطراری عوام کو ہلاکت کفر نیک پہنچاتا ہے کہ حدیث کا در الفقر ان یکون کفر اس سے یہی مراد ہے اور معنی فقر کے مقاصی ہیں اور فقر حقیقی وہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی حاج ہو یعنی مالک اپنے نفس کا بھی نہ رہے کیونکہ جس قد رفقیر کا ہاتھ ہر چیز سے خالی ہو گا اسی قدر اس کا دل ماسوی اللہ سے خالی ہو گا اور فاقہ فی اللہ و باقی باالله ہو جائے گا۔

(حاشیہ) قولہ حدیث الفقر فخری اقول روایت بالمعنى کے اعتبار سے حدیث کہہ دیا احیبی مسکنا سے اس کا مضمون مستبط ہو سکتا ہے۔

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

فلیلیغ الشاہد الغائب الی اخیر الحدیث یہ لوگ محمد شین پر فضیلت رکھتے ہیں اور ان کو فہم و ادراک بمرتبہ کمال عنایت ہوا ہے اور احادیث سے استنباط کرتے ہیں اور غور و تدقیق سے احکام و حدود کو ترتیب دیتے ہیں اور نتائج و منسوخ مطلق مقید محل مفسر خاص عام حکم مثالاً میں امتیاز کرتے ہیں۔ یہ جماعت نہیں احکام و نشان اسلام ہیں۔ اور صوفیہ علوم رسم اسلام ان دونوں فریق سے حاصل کرتے ہیں اور تعصیب سے کوسوں دور رہتے ہیں اور عمل کتاب و سنت و اجماع پر کرتے ہیں جو صوفی کہ علم فتنہ پر محیط نہیں ہوتے احکام شرع میں فقهاء سے رجوع کرتے ہیں اور جس مسئلہ میں کہ فقهاء اجماع کرتے ہیں صوفیہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں اور مسائل جزئیہ فرعیہ کہ جس میں فقهاء اختلاف رکھتے ہیں اس میں صوفیہ قول احسن و اقویٰ و احוט کو کہ اس میں زیادہ احتیاط ہوتی ہے اختیار کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ الصوفی لا ندہب ل اور یہ ان کے ندہب میں نہیں ہے کہ تاویلات بعیدہ کو حلائش کرتے اور شہوات کو اختیار کرتے ہوں اور راہ ہو اور ہوں کی ڈھونڈتے ہوں۔

(۴) ایک شخص نے معنی تصوف کے پوچھے، فرمایا کہ تصوف کے معنی ہیں بسب احوال مشانخ مختلف اقوال ہیں ہر کوئی اپنے مقام یا حال کے موافق سائل کو جواب دیتا ہے یعنی مبتدی سائل کو ازا و ووئے معاملات ندہب ظاہر اور متوسط کو ازوئے احوال و منشی کو ازوئے حقیقت البتہ تمام اقوال میں اظہر قول یہ ہے کہ اوقل اپنے ایاء تصوف علم ہے اور اوسط عمل و آخر عطا و بخشش و جذب الہی ہے اور علم مراد مرید کی کشاںش کرتا ہے اور عمل اس کی توفیق و طلب پر مدد کرتا ہے اور بخشش مرتبہ غایت رجا کو کہ احاطہ بیان سے ہاہر ہے پہنچاتی ہے اور حق سبحانہ کے ساتھ و حاصل کرتی ہے اور اہل تصوف تین قسم کے ہیں یعنی تین مرابع رکھتے ہیں اذل مرید کہ اپنی مراد طلب کرتا ہے دوم متوسط کہ طلبگار آخرت ہے سوم منتی کہ اصل مطلوب تک پہنچ گئے ہیں اور انتقالات احوال سے محفوظ ہیں۔

(۵) پھر ارشاد ہوا کہ طالب طریق تصوف کو چاہیے کہ ادب ظاہری و باطنی کو نگاہ رکھے یعنی احکام ظاہرہ۔

(۸) ایک دن بطور صحیح کے میان فرمایا ہرگز گرد دنیا کے نہ جاؤ اور دل کو اس کا گردیدہ نہ بناو کیونکہ دنیا کی مثال مثلاً آدمی کے سایہ کے ہے اگر کوئی سایہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کے آگے آگے بھاگت اور اگر سایہ کو پس پشت کرے وہ خود پچھا ن چھوڑے۔ بھی حال دنیا کا ہے کہ جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اس سے کوسوں دور رہتی ہے اور ترک کرنے والے کو حلاش کرتی ہے۔

(۹) ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ طالب راہ حق کو کیا کیا ضرور ہے فرمایا اذل طالب شے کو لازم ہے کہ حقیقت و مہیت شے مطلوبہ کی دریافت کرے تاکہ رغبت اس کے حاصل کرنے کی دل میں پیدا ہویں جو شخص کے ارادہ کرے کہ صوفیوں کے طریق و (راہ حق) پر چلے اذلا مہیت و حقیقت و غایت تصوف (کہ راہ حق ہے) معلوم کرے۔ بعد ازاں ان کے اعتقادات و آداب ظاہری و باطنی کو سمجھے خصوصاً اطلاقات کو کہ ان کے حال و قال و تصنیفات میں آتے ہیں جانے اور خاص خاص اصطلاحات کہ ان کے کلمات میں پائی جاتی ہیں ان سے واقف ہوتا کہ تابعداری ان کے افعال و اقوال و احوال کی کر سکے کیونکہ کثرت مدعاں کذاب سے حال محققان باصواب کا مجہول ہو کر فساد و افع ہوتا ہے اور اس بارے میں یعنی بیان اعتقادات و آداب ظاہری و باطنی و اخلاق صوفیان میں کتاب لا جواب آداب المریدین مصنفہ حضرت ضیاء الدین ابوالجیب سہروردی بہت عمدہ ہے۔ ہر زمانہ کے علماء ظاہر و باطن نے اس کو بنظر بول دیکھا ہے۔ طالبان طریقہ صوفی کو عموماً اور متعلقین فقیر کو خصوصاً لازم و ضرور ہے کہ کتاب موصوف کی پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آداب اس قوم بروگ کے حاصل ہوں۔

(۱۰) ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت وجود کا سوال کیا فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح مطابق الواقع ہے اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں معتمد یا یہ تمامی مشائخ کا ہے مگر قول و اقرار نہیں ہے البتہ حال و تصدیق ہے یعنی اس مسئلہ میں تین اور تصدیق قلبی کافی ہے اور استخار

اس کا لازم اور افشا ناجائز ہے، کیونکہ اس اب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نا زک ہیں بلکہ بحدے دقيق کہ فہم عوام بلکہ فہم علماء ظاہر میں کو اصطلاح عرقاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسرے کو سمجھانا کب ممکن ہے بلکہ جن صوفیوں کا سلوک ناتمام ہے اور مقام نفس سے ترقی کر کے مرتب قلب تک نہیں تکھچتے ہیں اس مسئلہ سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مکر نفس سے چاہ المخاد و قعر ضلالت میں پڑ جاتے ہیں نعوذ بالله منہا اس جگہ پر زبان روکنا واجب ہے۔ [حصہ ثالث امدادیہ]

مقالات شریفہ حصہ دوم

ترجمہ ملفوظ از رسالہ امداد الصادقین تمع کردہ مولانا صادق العینی

(۱۱) فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اقرار بالمان اشارہ طرف شریعت کے ہے اور تصدیق بالجان سے مطلب طریقت ہے پس ایک بغیر دوسرے کے کام کا نہیں۔ اقرار بدون تصدیق نفاق ہے اور تصدیق بلا اقرار بیکار۔ (حاشیہ) قوله اشارہ اقول لفظ اشارہ میں اشارہ ہے کہ شریعت کی یہ حقیقت نہیں حقیقت اصلاح اعمال ظاہر ہے اس کی مثال اقرار ہے و امثال اور طریقت اصلاح اعمال باطنہ ہے اس کی مثال تصدیق ہے و امثال ۱۲ قوله بلا اقرار بیکار اقول یعنی پورے آثار اس پر مرتب نہیں ہوتے۔

(۱۲) فرمایا کہ هو الظاہر کنایہ شریعت سے اور صوانی طریقت سے۔ اگر شریعت نہ ہوتی، اسماۓ الہیہ کا عرفان نہ ہوتا اور صفات اسماء ظاہرہ ہوتے، مثلاً غفاری حق تعالیٰ کیونکہ جب شریعت قائم نہ ہوتی منہیات نہ معلوم ہوتے پس اظہار غفاری خداوند کریم کہاں سے ہوتا اور اسی طرح فتحم وغیرہ۔ (حاشیہ) قوله هو الظاہر کنایہ شریعت سے اقول مراد یہ کہ شریعت مظہر ہے اسم ظاہرہ کا وکذا ما بعدہ ۱۲ اقول اگر شریعت نہ ہوتی اقول یہ ایک مستقل راز ہے خطاب بالشریعت کا جس میں شریعت سے ظہور اسماء کا دوسرے طور پر مذکور ہے ۱۲ اقولہ اسماء الہیہ کا عرفان نہ ہوتا اقول یعنی عرفان نام ۱۲ قوله اور صفات اسماء ظاہرہ

۲۵

امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق

سعین الدین نے فرمایا بل علی عینی یہ ثبوت الفضیلت حضرت غوث پاک کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت سعین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہو سکتی ہے نہ برخلاف اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت یعنی عروج میں تھے۔ اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں اور نزول کا افضل ہونا عروج سے مسلم ہے۔

(۱۵) فرمایا کہ کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کے باعتبار مراتب مردان کے تین معنی ہیں لامعبود لا مطلوب لا موجود الا الله اور یہ سب مراتب سے اعلیٰ ہے۔

(۱۶) فرمایا کہ کفر مظہر ایمان ہے وہ برس اس کے اگر کفر مخلوق نہ ہوتا کوئی ایمان کو کیونکر جانتا۔ (حاشیہ) قوله کوئی ایمان کو کیونکر جانتا اقول لأن الاشياء تعرف باضدادها مقصود کفر کی حکمت یکوئی یہ کاپیان کرنا تھا۔

(۱۷) فرمایا سیر تین طرح پر ہے سیر الى الله و فی الله و من الله۔

(۱۸) فرمایا کہ ایمان رجا اور خوف میں ہے ہم لوگ رجا پر بھروسہ اور غور کر رہے ہیں اور خوف کو بھول بیٹھے ہیں۔

(۱۹) فرمایا عاشق دو طرح پر ہے عاشق ذاتی و عاشق صفاتی اور مرتبہ عاشق ذاتی کا عاشق صفاتی سے زیادہ ہے، کیونکہ عاشق ذاتی پر جو کچھ دارو ہوتا ہے اس کو ذاتی الہی سے جانتا ہے پس اس وجہ سے رضا و تسلیم میں مرتبہ عالی پاتا ہے۔ ایک دن حضرت غوث الاعظم سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچایا وہ ساتوں آدمی کے عاشق ذات اور مرتبہ رضا و تسلیم میں ثابت قدم تھے اس امر حضرت غوث کو خلاف خیال کر کے آپ سے ناخوش ہوئے اور اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ سات ڈھانچے ہڈیوں کے مسلم رکھے ہیں، دریافت ہوا کہ ایک درندے نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھ کو اپنے دوستوں کا گوشت کھلاوہ ساتوں آدمی پیش کئے گئے اور اس درندے نے گوشت ان مردان خدا کا کھانا شروع کیا۔ جس قوت درندہ دانت مارتا تھا وہ

ہوتے اقول عطف تفسیری ہے یعنی عرفان بالکہ تو ناممکن ہے عرفان بالجهہ ممکن ہے اس وجہ کی حقیقت صفت ہے وہ بھی نہ ہوتا۔

(۲۰) فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آئیے کریمہ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبْدِهِنَ ﴾ میں لفظ عبد جو اختیار فرمایا اس میں نکتہ ہے کیونکہ غلام میں اور مزدور (نوکر) میں بہت بڑا فرق ہے۔ مزدور و ملازم سے صعین کام جو اس سے متعلق ہو لے سکتے ہیں بخلاف غلام کے کاس کے واسطے کوئی خدمت صعین نہیں ہے جو کام چاہا اس کے پر کر دیا جائیں جو تے انہوادیں یا قلمدان لینے کی خدمت متعلق کریں سب پہبھتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو بھی کوئی خاص کام خدا نے نہیں دے رکھا۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ تمام مخلوق میں ایک ایک صفات کا ظہور ہے اور انسان جامع ہے۔ وہ اسی ہو احمد معانی القول المشہور طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق۔ (حاشیہ) قوله کوئی خاص کام خدا نے نہیں دے رکھا۔ اقول یعنی اور مخلوقات کو خاص خاص عبادات میں لگایا ہے انسان کی عبادات بہت فہم کی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے لیے ایسے امور عبادات ہیں جو ظاہراً عبادات نہیں۔ جیسے سونا، استخنا کرنا، کھانا پینا، شہوت و غصب کے مقنیات میں مشغول ہونا جبکہ حدود و اصول کے اندر ہوں۔

(۲۱) فرمایا کہ ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ سعین الدین چشتی رضی اللہ عنہ حضرت غوث اعظم قدس سرہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دسرے پر فضیلت بیان کریں اگرچہ اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضہم علی بعض جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں تو تقاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ محض رائے سے ایسی جرأت کریں البتہ مرشد کو تماں اس کے معاصرین پر فضیلت باعتبار محبت کے دینا مصلحت نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت بچاے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی مخدور ہے اس نے یعنی قادری نے ذیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رفاق اولیاء اللہ فرمایا تو حضرت

کرے فان اللہ جمیل یحب الجمال۔

(۲۳) فرمایا ایک آدمی نے حضرت امام عظیم رضوی کی غیبت کی، آپ نے ایک طبق دینار کا اس کو بدیش دیا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسا النا معاملہ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان اس شخص نے مجھ کو نعمتِ اخروی دی تو کیا میں اس کو دنیا کی نعمت بھی نہ دوں۔

بدی رابدی ہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا

(۲۵) فرمایا کہ اس زمانہ میں فتوے پر عمل کرنے والی تقوی ہے ایک متنی نے کسی کے گھر میں خط لکھا اور زرائی خاک لے کر خٹک ہونے کو خط پر ڈال دی چونکہ بلا اجازت خاک لی تھی مواخذہ کیا گیا۔

(۲۶) فرمایا اگر نیت درست ہو تو آدمی آئے ہم علی صلوتہم دانمون میں داخل ہو جائے، یعنی حضور دام میر ہو۔ (حاشیہ) قوله یعنی حضور دام میر ہو اقول یعنی دوام کی ایک تاویل کے اعتبار سے۔

(۲۷) فرمایا کہ تواضع نفاق کے ساتھ منوع ہے۔

(۲۸) فرمایا کہ ایک بزرگ حضرت بایزید بسطامی رضوی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے لوگوں نے ان سے سبب دریافت کیا جواب دیا کہ اصلاح نیت میں کوشش کرتا تھا صحیح نہیں ہونے پائی کہ نماز ختم ہو گئی۔ (حاشیہ) قوله صحیح نہیں ہونے پائی اقول چنانچہ اگر ہم لوگ ایسے وقت دل کو نٹولیں کہ اگر بجائے اس جنازہ کے کوئی دوسرا جنازہ ہوتا جس سے نہ خود کوئی تعلق ہوتا نہ اس کے زندہ متعلقین سے تو کیا اس اہتمام سے اس جنازہ میں شرکت کرتے تو یہی جواب ملتے گا کہ نہیں تو پھر کیونکہ کہا جائے کہ محض ادائے حق مسلم اس نماز کی بناء ہے۔

(۲۹) احیاء العلوم کا درس ہورہا تھا، مضمون یہ تھا کہ معاصی نیک نیت سے طاعت نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے بلکہ حدیث شریف جف القلم بما هو کائن کے معنی

● یا اور کسی بزرگ کا نام لیا۔

لوگ ہرگز دم نہ مارتے تھے یہاں تک کہ تمام گوشت اپناراہ مولیٰ میں شارکر دیا اور صرف ہنریاں باقی رہ گئی۔ (حاشیہ) قوله اور مرتبہ عاشق ذاتی کا اقول یعنی جس کا اتفاق بالذات صرف ذات کی طرف ہوتا ہے اقولہ رضاوی تسلیم میں مرتبہ عالیٰ پاتا ہے اقول اور عاشقان صفات کو خاص خاص صفت کی طرف اتفاق ہوتا ہے اس لیے اس کے مقابل صفت کے آثار پر اس کی رضا صرف عقلی ہوتی ہے۔

(۲۰) ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ تمام آدمی کیا مشرک اور کیا کافر، و کیا مومن سب کو خدا کی رسائی ہو سکتی ہے اسلام شرط نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بزرگ باوجود کمال کے سیر اسماء میں تھے البتہ مرتبہ حقائق میں یہ درست ہے کیونکہ مرجع تامی خلائق اللہ جل شاد ہے فرماتا ہے «ما من دابة الا ہو اخذ بناصیحتها ان ربی علی صراط مستقیم» پس تامی ملکوق صراط مستقیم پر ہے اور اسی وجہ سے «اهدنا الصراط المستقیم» پر کفایت نہ فرمایا «انعمت عليهم» کی تید لگائی، پس اس طور پر «صراط مستقیم» مراد ف طریق نجات کا نہیں ہے اور مرتبہ حقائق میں تامی آدمی تساوی الاعدام ہیں اور کوئی نہیں میں مظاہر اسماء و صفات لطف و تہریز ہیں لیکن مرتبہ صورت میں جدا و متماہی ہیں۔ (حاشیہ) قوله باوجود کمال کے سیر اسماء میں تھے اقول اس لیے ہر اسم کے مظہر کو اس اسم تک واصل ہکو بنا دیکھ کرو اصل سمجھتے تھے مگر یہ وصول شرعاً مطلوب نہیں البتہ مرتبہ حقائق میں اس لیے صحیح ہے کہ ہر امام حقیقت ہے ایک شے کی ۱۲ قوله اور مرتبہ حقائق میں تامی آدمی تساوی الاعدام ہیں اقول یعنی ان حقائق کی حقیقت میں۔

(۲۱) اثنائے درس احیاء العلوم میں زبان فیض ترجمان سے فوائد عجیبہ بیان فرمارہے تھے مولا نا اشرف علی صاحب نے غذر کیا کہ آج بعض مقامات متبرک کی زیارت کو گیا تھا اس وجہ سے حاضری میں دیر ہو گئی ارشاد فرمایا جائے بزرگان بجائے بزرگان زیارت آثار بزرگان میں برکت ہوتی ہے۔

(۲۲) فرمایا انما الاعمال بالنیات تصوف کی جڑ ہے۔

(۲۳) فرمایا خوبیوں کا تے وقت سب نیتوں سے عمدہ نیت یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کی نیت

(۳۴) فرمایا کہ علماء آپ میں تنازع کر کے العلم حجاب الاکبر کے مصدقان بن جاتے ہیں۔

(۳۵) اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ بدعاویت اختیار کرتے ہیں یہ کسی طرح یقین نہیں ہوتا کیونکہ صوفی کو جب صفائی قلب میسر ہو دے جو کچھ کہے گا حق کہے گا اور زبان حق سے کہے گا۔ (حاشیہ) قوله جو کچھ کہے گا اور زبان حق سے کہے گا اقول اور جو بدعاویت کے مریکب ہیں وہ حقیقی صوفی ہی نہیں۔

(۳۶) فرمایا کہ نیت نماز کی ا قول سے آخریک نزد حضرات صوفیہ کے ضروری ہے لیکن علماء و فضلاء نے غایت رحم سے بنظر سہولت فتویٰ صرف ا قول نماز میں نیت کا دیا ہے امید ارم ارجمند ہے کہ قبول فرمائے۔ (حاشیہ) قوله نزد حضرات صوفیہ کے ضروری ہے ا قول یعنی حضور تمام دامن شرط کمال صلاة ہے پس صوفیہ و علماء میں حقیقی اختلاف نہیں۔

(۳۷) فرمایا کہ آئیہ و اعبد ربک حتى یا تیک اليقین علمائے ظاہر نے یقین سے موت مرادی ہے لیکن نزدیک صوفیہ کے یقین کے تین مراتب ہیں علم اليقین، عین اليقین اور سب سے بڑھ کر حق اليقین اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جب آدمی مرتبہ موتوا قبل ان تموتوا پر پہنچتا ہے، تب حاصل ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا اور اس رتبہ پر پہنچ کر تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اور آیت میں ان کے مذاق پر بھی مرتبہ موتاد ہے لیکن یہ حالت صرف لحد دلخواہی ہے لیکن جن کو جامیعت میسر ہے وہ اس حالت میں بھی عبادات کو ترک نہیں کرتے ہیں کیونکہ عبادات مدلل ہے اور محظوظ (غدا) کی محظوظ ہے۔

(حاشیہ) قوله یقین سے موت مرادی ہے ا قول اور تفسیر یہی ہے۔ قوله نزدیک صوفیہ کے یقین کے تین مراتب ہیں ا قول اور یہ تاویل بطور علم اعتبار کے ہے۔ من قوله اور آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ ا قول یہ ما قبل کی تفسیر نہیں ہے بلکہ ایک قید زائد ہے اور ما قبل کے مقابله ا قول کی تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں ا قول کیونکہ شرط تکلیف ہوش و حواس کی درستی ہے ا من قوله عبادات کو ترک نہیں کرتے ہیں ا قول یعنی تحوزہ ابھی افاقت ہو گوہ درجہ ایجاد تکلیف تک نہ ہو جیسے معتوہ بیہوش نہیں مگر مکلف نہیں۔ ا من

یہی ہیں اور جو کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یبدل اللہ سیاہهم حسناۃ مرادیتات سے وہ طاعات ہیں کہ اصل نیت میں طاعت تھی مگر بسبب عوارض کے سیمات ہو گئی، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے انتہا فضل سے ان عوارض کو دفع کر کے اس طاعت کو قبول فرماتا ہے، تبدیل سے یہ مراد ہے۔ (حاشیہ) قوله حدیث جفت القلم بما هو کائن کے معنی یہی ہیں۔ ا قول یعنی بعض اکابر کے نزدیک کہ حسن و سیئہ برادری نہیں جو حسنہ ہے حسنہ ہے جو سیئہ ہے سیئہ ہے۔ قوله تبدیل سے یہ مراد ہے ا قول اور اگر ظاہری معنی بھی مراد ہوں تو تبدیل کی صورت ایک کو خوب کر کے دوسرا عطا کرنا ہے نہ کہ انقلاب ایک کا دوسرا ہے کے ساتھ۔

(۳۰) وحدۃ الوجود کا ذکر فرماتے تھے گر کلام بہت عالی تھا اس لیے لکھا نہ گیا۔

(۳۱) فرمایا اخوة کی تین قسمیں ہیں اخوة نسبی کہ تمام آدمی اولاد آدم ہیں۔ اخوة ایمانی انما المؤمنون اخوة۔ اخوة عارفین لا نفرق بین احد من رسليه۔ (حاشیہ) قوله لانفرق بین احد من رسليه ا قول یعنی ایسا اتحاد کہ ایک کے انکار سے سب کے غوض سے محروم رہ جائے۔

(۳۲) فرمایا کہ جناب مولوی رحمت اللہ صاحب رشیذ نے ایک دن فرمایا کہ اجازت ہو تو حضرت سلطان روم خلد اللہ ملکہ کو آپ کے مراتب سے اطلاع دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ انتہائے غایت سلطانی یہی ہو گی کہ اپنے حضور میں طلب فرمائیں گے جیسا کہ آپ کو طلب کیا تھا اور میں مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ البتہ سلطان کی دعا چاہتا ہوں کیونکہ دعائے سلطان عادل ستجاب ہوتی ہے اور یہ استدعا سلطانین کے حضور میں بہت دشوار ہے پس مناسب ہے کہ آپ میرا سلام سلطان سے کہہ دیں کیونکہ جواب سلام ضرور دیں گے اور سلام دعا ہے پس اتنا ہی کافی ہے۔ تفریغ سلام کو کہ طریق مسنون ہے ترک کر کے آداب عرض کرنا نہ چاہیے۔

(۳۳) فرمایا کہ آئیہ و علم آدم الاسماء کلہا میں علمائے ظاہر خیال کرتے ہیں کہ مراد اس سے امامے عرفیہ ہیں اور علمائے باطن کے نزدیک حق یوں ہے کہ اس سے مراد حقائق اماماء ہے۔

کی دعا کرے پس اس پر یہ دعا کرنا فرض ہے دوم دعائے واجب جیسے دعائے قنوت سوم
دعائے سنت جیسے بعد تشهد اور ادعيہ ماثورہ چہارم دعائے عبادت جیسا کہ عارفین کرتے
ہیں اور اس سے محض عبادت مقصود ہے کیونکہ دعائیں تذلل ہے اور تذلل حق تعالیٰ کو محبوب
ہے لہذا الدعاء مخ العبادة وارد ہوا ہے۔ (حاشیہ) قوله دعائے عبادت اقول مراد
عبدیت و تذلل یعنی محض اظہار عبدیت ہی مقصود ہو اور دوسرے اسامیں جو دوسرے
او صاف ہیں وہ نہ ہوں ۱۲ منہ۔

(۳۳) ایک دن حضرت شاہ حاجی امام الدین رضیخان علیل ہوئے اور آہ آہ کرنے لگے۔
حضرت مفتی الہی بخش صاحب برادر حاجی صاحب کے نسبت ارادت بھی حاجی صاحب سے
رکھتے تھے عبادت کو آئے اور کہا آہ آہ کیوں کرتے ہو اللہ اللہ کرو۔ انہوں نے کچھ خیال نہ
کیا اور آہ میں مشغول رہے۔ ایک دن اتفاقاً حضرت مفتی صاحب بھی اسی درد میں جھلا
ہوئے اور اللہ اللہ کرنے لگے اور آہ منہ سے نہ کالا۔ حضرت شاہ صاحب نے تشریف لا کر
فرمایا کہ جب تک آہ نہ کرو گے صحت نہ ہو گی چنانچہ یہی ہوا کہ مرض ترقی کرتا گیا کسی طرح
تحخیف نہ ہوئی۔ بالآخر مفتی صاحب نے آہ کرنا شروع کیا اور صحت حاصل ہو گئی۔ یہ مقام
عبدیت سے نہ کھا اور تذلل و عبدیت محبوب (خدا) کو محبوب ہے اور اسی میں رضا و تسلیم بھی مقصود
ہے اور اللہ اللہ مقام الوہیت ہے۔ (حاشیہ) قوله اللہ اللہ مقام الوہیت ہے اقول
الوہیت سے مراد عروج اور عبودیت سے مراد زوال عارفین پہچانتے ہیں کہ اس وقت مرض
سے نزول مقصود ہے جب تک اس کے آثار کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ اس مقصود کے انتظار
میں مرض زائل نہیں ہوتا۔ ۱۲ منہ۔

(۳۴) فرمایا کہ مولود شریف تمای اہل حریم کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے جدت کافی
ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے نہ موم ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے
اختراع کی ہیں نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں مجھ کو ایک کیفیت
قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (حاشیہ) قوله ہمارے واسطے جدت کافی ہے اقول یعنی ان
کے مقابلہ میں جو منع میں افراط کرتے ہیں باقی جن کا منع کرنا بنا بر منکرات کے ہے اس کی

(۳۸) فرمایا کہ جنت العارفین لیس فیها حور و لا قصور و ما فیہ شیء الا
ارنی ارنی اس میں محض تجلیات الہی ہوتے ہیں (حاشیہ) قوله تجلیات الہی ہوتے ہیں
اقول حور و قصور کی نظری اور تجلیات کا درجہ حصر میں ثابت باعتبار ملتقت الیہ ہونے کے ہے۔
(۳۹) فرمایا کہ چار مسلکوں میں متکرر تھا بعون تعالیٰ مکشف ہو گئے: ① وحدت الوجود
② تقدیر ③ روح ④ مشاجرات صحابہ۔

(۴۰) فرمایا کہ محبوبان خاص جب تقدیر پر اطلاع پاتے ہیں اس کے موافق عمل کرتے ہیں
اور عجلت کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں کیونکہ اس کے ہونے پر ترقی (مدارج) موقوف
ہوتی ہے۔ پس چاہتے ہیں کہ اس امر سے فارغ ہو کر درجات عالیہ پر فائز ہو جائیں۔
چنانچہ بعد از کتاب اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ برادران یوسف غلیظ اللہ نے ایک امر
شفیع کیا اور مرکب گناہ بکیر کے ہوئے باوجود اس کے علماء کا ان کی بہوت میں اختلاف ہے
اور انہیاء کیا ہے (گناہ) سے معصوم ہیں قبل بہوت و بعد بہوت اسی پر مشاجرات صحابہ کو قیاس
کر لینا چاہیے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ضروری ہونا ہے پس تقبیل در تقبیل جہاں تک امر
محبوب میں ہو خوب ہے اور یہی وجہ تھی کہ دن کو لڑائی لڑتے تھے اور رات کو ایک دستر خوان پر
کھانا کھاتے تھے۔ (حاشیہ) قوله اس کے موافق عمل کرتے ہیں اقول مجرمہ مقدار اگر
امر غیر مباح ہو تو اس کو مباح نہیں سمجھتے ۱۲ منہ قوله ترقی مدارج موقوف ہوتی ہے۔ اقول
یعنی بواسطہ توبہ کے ۱۲ منہ قوله تقبیل جہاں تک امر محبوب میں ہو اقول یہ محبوبیت مکونیت ہے
تشریعیہ نہیں ۱۲ منہ قوله خوب ہے اقول یہ خوبی بواسطہ ہے یعنی توبہ کا سبب بن جانے سے
نہ کافی ڈاٹ ۱۲ منہ۔

(۴۱) فرمایا کہ نظر بعض عارفین کی اسباب پر نہیں ہوتی اور یہ باعث زیان و محل عتاب ہے
وہ لوگ اسbab کو محض بے سود سمجھتے ہیں حتیٰ کہ دعا بھی نہیں مانگتے بلکہ ان کے نزدیک دعا منع
ہے اور یہ غلطی ہے۔ البتہ اگر مقام رضا کا غالب ہے تو مجبوری ہے۔ (حاشیہ) قوله اگر مقام
رضا کا غالب ہے تو مجبوری ہے۔ اقول اور اس کا غلط ہونا اس وقت ہے جب درجہ رائی میں ہو۔
(۴۲) دعا کی چار قسمیں ہیں اقول دعائے فرض مثلاً نبی کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے واسطے بلا کی

نہیں ہے۔ مقربوں کو جب بادشاہوں کی حضوری ہوتی ہے امور لاحقة عرض کرتے ہیں اور استخراج چاہتے اور بجا آوری خدمت کی کوشش کرتے ہیں پس یہ یعنی حضوری ہے نہ منافی حضوری۔ (حاشیہ) قوله لا صلوة الا بحضور القلب وارد ہوا ہے اقول یعنی یہ مضمون حدیث کا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں لا صلوة لمن لا يتخشع رواه البیلدمی مرفوعاً كما في کنز العمال قوله یعنی حضوری ہے اقول یعنی جب باذن ہو خواہ اذن کلی ہو یا جزئی ہو۔

(۲۷) فرمایا کہ الولاية افضل من البوة حق ہے لیکن مراد ولایت سے ولایت نبی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت توجہ الی اللہ ہے اور نبوت توجہ الی اخلاق اور توجہ الی اللہ توجہ الی اخلاق سے بہر حال افضل ہے۔ جب آنحضرت ﷺ ولایت میں مستقر ہوتے تھے تو جو اخلاق جو لازمہ نبوت ہے کم ہو جاتی تھی پس فرماتے تھے کلمیں یا حمیراء تاک حضرت عائشہ اخیر اہلینہ کی گفتگو سے توجہ الی اخلاق عود کرے اور جب نبوت کو توجہ الی اخلاق سے مراد ہے غالب ہو کر شفقت و ترحم بحال خلق اس مرتبہ ہو جاتا تھا کہ ولایت میں نفس تو جو پیدا ہو تو ارشاد ہوتا تھا احری یا بلال تاک ذکر الہی سے توجہ الی اللہ حالت اصلی پر آجائے۔ (حاشیہ) قوله پس فرماتے تھے کلمیں یا حمیراء اقول عمدۃ القاری میں نسائی سے آپ کا حضرت عائشہ اہلینہ کو حمیراء فرمانا نہ کوہے اور کلمیں روایت بالمعنی ہے۔ مسلم میں حضرت عائشہ اہلینہ کا قول ہے کہ سنت فخر کے بعد اگر میں جا گئی ہوتی مجھ سے یا تین فرماتے اور ظاہر ہے کہ باتیں کرنے والا مخاطب کو حالہ امر کرتا ہے کہ تو بھی کلام کر ۱۲ قوله ارشاد ہوتا تھا اور حنی یا بلال اقول فی شرح الاحماء اخر جامد و ابو داؤد والبغوی والطبرانی فی الکبیر والفصیاء فی الحشرۃ والخطیب و لفظہم جمیعاً یا بلال اتم الصلوة و ارجحها احادیث قال صاحب القوت یقال ارجحها ای روحنا و ارجحها ای روحنا میں اقطع عنا و حفظ عننا۔ (۲۸) فرمایا کہ مراتب یقین تین ہیں علم الیقین مرتبہ ادنی، یعنی الیقین مرتبہ سطحی، حق الیقین مرتبہ اعلیٰ ہے۔ یعنی الیقین سے علم الیقین میں جانا حسنات الابرار سیمات المقربین ہے۔ حق الیقین مرتبہ فنا فی الفنا ہے۔ مثال اس کی یوں ہے کہ علم حرارت آتش کا علم

تائید تو خداوس ملعوظ میں ہے باقی مکرات کیا کیا ہیں، اس میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے ۱۲ من۔ قوله محمد کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے اقول جو دروسوں پر محنت نہیں۔ (۲۵) مولا نا اشرف علی صاحب نے استفسار فرمایا کہ روایت حق تعالیٰ کی اس عالم میں ممکن ہے یا نہیں؟ فرمایا ممکن ہے مخفی آئیے لا تدرکہ الابصار و هو بدرک الابصار کے یہ ہیں کہ اس بصارت ظاہری سے روایت حق تعالیٰ ممکن نہیں ہے اور جب نظر بصیرت (باطنی) حاصل ہو جاتی ہے بصارت (ظاہری) پر غالب آتی ہے۔ پس عارف حقیقت میں نظر بصیرت نے دیکھتا ہے اور اگر یہ سمجھے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کی غلطی ہے۔ دلیل اس بات کی کہ اس نظر سے نہیں دیکھتا یہ کہ اگر آنکھ بند کر لے روایت بدستور رہے دوسرے یہ کہ دید آنکھوں کی عارضی محتاج نور آنفتاب کی ہے بخلاف اس دید کے کوچنان نور بصیرت ہے بدون پرتو اس نور کے غیر ممکن و الحال ہے پھر مولانا نے استفسار فرمایا کہ خطاب لعن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کیا گیا؟ ارشاد فرمایا کہ اس میں نفعی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ درست ہے کہ عارف دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ دیدہ حق سے دیکھتا ہے اور نیز اس میں نفعی روایت ذات ہے کیونکہ فائے عبد اس کو لازم ہے اور جب فائے ہوا پھر روایت کجا۔ (حاشیہ) قوله عارف حقیقت میں نظر بصیرت سے دیکھتا ہے۔ اقول مراد دیکھنے سے وہ اور اک ہے جو اس عالم کے استعداد کے مناسب ہو چنانچہ متعارف دیکھنے کی نفعی آگے خداوس ملعوظ میں ہے اسی طرح جو اور اک اس عالم کی استعداد سے زائد ہے اس کی بھی آگے نفعی ہے فی قوله نفعی روایت ذات ہے ۱۲ من قوله فائے عبد اس کو لازم ہے اقول یعنی اس عالم میں بوجہ نفس استعداد کے۔

(۲۶) فرمایا کہ ایک دو طالب علم آپ میں میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ نماز بدون حضور قلب درست نہیں ہے کیونکہ لا صلوة الا بحضور القلب وارد ہوا ہے۔ اور دوسرہ حضرت عمر بن الخطب کے قول سے استدلال کرتا تھا کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں انی اجهز الجيش و انا فی الصلوة اس سے زیادہ کون امر منافی نماز ہو سکتا ہے۔ آخر الامر آپ (حضرت صاحب) سے حاکمہ چاہا ارشاد ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۵۵

پہنچانا ان کی شان کے مناسب ہے۔ باقی یہ کہ جو فیض بھی موجب ہلاکت ہو جائے اس کا القا کیسے جائز ہوا جواب یہ ہے کہ اس کا اختلال نہ تھا تو یہ غلطی طبیب حاذق کی سی غلطی ہے جس پر موافذہ نہیں۔

(۵۲) فرمایا مشہور ہے کہ حضرت محمود نسبت شیوخ کی سلب کر لیتے ہیں یہ غلط ہے بزرگوں سے عطا ہوتا ہے نہ کہ بر عکس اصل یہ ہے کہ نسبت شیوخ کی اس مقام تمثیل میں نسبت انبیاء ﷺ کے آگے پست ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آفتاب کے سامنے چراغ نہیں جلتا۔ (حاشیہ) قوله نسبت انبیاء ﷺ کے آگے پست ہو جاتی ہے اقول جو کہ معظمه میں مذکور ہیں۔

(۵۳) فرمایا الا یمان بین الرجاء والخوف جب عمل خیر کرے تو امید قبولیت کی رکھے کہ موقع رجاء کا ہے ایسے وقت میں عدم رجاء گناہ ہے۔ (حاشیہ) قوله جب عمل خیر کرے۔ اقول رجاء کا موقع بتلانا مقصود ہے یعنی بدون عمل کے جو رجاء سمجھا جاتا ہے وہ خود ہے صرح بالغزال اور یہ مقصود نہیں کہ عمل کے وقت خوف نہ ہو۔ ۱۲

(۵۴) فرمایا الشیخ فی قومه کالنی فی امته اور من ارادان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اهل التصوف وغیرہ کو صوفی نے حدیث کہا ہے دراصل یہ سب احادیث ہیں اور دوسری حدیث میں بجاے اہل تصوف اہل الذکر صراحتہ موجود ہے اور اہل الذکر اہل تصوف ہیں پس حدیث نقل بالمعنى ہوگی۔ اگر اس سے قطع نظر کیا جائے پس حدیث دو نوع کی ہیں: ۱) حدیث بالمعنى المتعارف اور ۲) حدیث کشفی۔ چنانچہ فرمایا حضرت رسالت تائب ﷺ نے من رانی فقد رأى الحق اس کے دو معنی ہیں اقول یہ کہ من رانی فقد رانی یقیناً فان الشيطان لا يتمثل بی دوم یہ کہ من رانی فقد رأى اللہ تعالیٰ پس جب زیارت آنحضرت ﷺ کی میسر ہوئی یا دیدار پر وردگار جو کچھ سوچ ہو گیا قلب پر وارد ہو گا آنحضرت ﷺ کی طرف سے ہو گا یا خداۓ پاک کی طرف سے۔ پس حدیث کشفی نام رکھنے میں کیا مضافات ہے اور ہمارے علماء اس زمانے میں جو کچھ قلم میں آتا ہے بے محابہ فتوے دے دیتے ہیں علمائے ظاہر کے لیے علم باطن بہت ضرور ہے بدون آتا ہے

لائقین ہے اور جب اس پر انگلی رکھی جائے میں انہیں ہوا اور جب لوہے کو خوب آگ میں سرخ کیا جائے اور اس وقت لوہا انا النار کہے جاتا ہے یہ مرتبہ حق انہیں ہے اور اس مرتبہ میں عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مرتبہ ہمیشہ نہیں رہتا تاہم جس کو جامیعت نصیب فرمائی ہے شریعت سے باز نہیں رہتا۔ (حاشیہ) قوله لوہا انا النار کہے جاتا ہے اقول یعنی تاویل سے ۱۲ اقول عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ اقول یوجہ مغلوبیت عقل کے ۱۲ قولہ یہ مرتبہ ہمیشہ نہیں رہتا اقول اکثر آنی ہوتی ہے ۱۲ قولہ شریعت سے باز نہیں رہتا۔ اقول یعنی مغلوبیت کے ضعیف کرنے کا قصد اہتمام کرتا ہے جیسے وساوس غیر اخیار یہ پر موافذہ نہیں لیکن ایک شخص ایسا اہتمام کرتا ہو کہ وساوس آنے نہ پائیں اس کی بڑی بہت ہے۔ ۱۲ (۵۵) فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء یعنی خوف و رجاء جب مرتبہ علیاً کو پہنچتا ہے اور دوسری کیفیت پیدا کرتا ہے قبض و بسط کہا جاتا ہے اور جب زیادہ ترقی حاصل ہوتی ہے انس و بیت سے نام ہو جاتا ہے حقیقت واحدہ ہے کہ اختلاف کیفیات سے اختلاف اسماء ہو جاتا ہے۔ کما ان النفس واحدة وباختلاف الكیفیات تسمی تارة بالamarۃ وتارة باللوامة وتارة بالملهمة وتارة بالمطمئنة۔

(۵۶) اگر حالت بسط میں عبادت بحالاً یا ظہور یا جبهم ہے عجبونہ اس وقت ہو گا کہ حالت قبض میں بھی کوئی فتورہ ہو اور ترک عبادت نہ کرے جیسا کہ بہترے آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ کامل اس کا دفعہ کر سکتا ہے۔ (حاشیہ) قوله آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں اقول اس طرح سے کہ قبض سے بعض اغلاط میں بتلا ہو جاتے ہیں۔ ۱۲ امن

(۵۷) فرمایا مشہور ہے کہ بوجہ دعائے ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادہ حضرت محمود نے وفات پائی لیکن محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ بوجہ غایت محبت و شفقت پدری حضرت ابراہیم ﷺ نے ان کو ایک دم سے بھر دیا ان سے تخل نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے انتقال کیا جیسا حضرت خواجه باقی بالله نے نان پر کوچہ اتحادی دی اور اس کو تخل دشوار ہو گیا۔ (حاشیہ) قوله محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے اقول غالباً ذوق اس کا مرتع ہے۔ اور اس پر استدلال بھی ہو سکتا ہے کہ بد دعا کرنا ان کی شان سے بعيد تھا اور فیض

اس کے کچھ کام درست نہیں ہوتا۔ (حاشیہ) قوله الشیخ فی قویان الحجۃ القول اور وہ ابن حبان والدیلی بند ضعیف اور گو مراد اس حدیث میں شیخ سے کیرالسن ہے مگر اشتراک علمت سے کہ زیادت عقل ہے مرشد کو بھی شامل ہے کہ وہ عقل دین رکھتا ہے اور دوسری حدیث میری نظر سے نہیں گزری نہ اہل التصوف کے لفظ سے نہ اہل الذکر کے لفظ سے مولانا رومنی اس کو مشنوی میں لائے ہیں مگر منع یہ بھی ثابت ہے۔ اس طرح سے کہ حدیث ہے انا جلیس من ذکر نی اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یا عادیہ منضم کر دیا جائے جلیس اجلیس جلیس پس لازم آیا کہ جلیس لائل ذکر جلیس حق ہے اور اس سے من اراد الخ لازم آ گیا اور دوسری توجیہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حدیث منای کو علماء نے بھی حدیث کہا ہے اور فقد رای الحق کی دوسری تاویل قواعد کے خلاف نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ ان الدین یا یاعونک انما یا یاعون اللہ اور کشف یا رؤیا میں جو حق تعالیٰ سے نے گا وہ حدیث قدسی ہوگی اور آگے جو بعض علماء کی شکایت ہے اس میں بے محابا کی قید بھی ہے یعنی محل حسن کے مکن ہوتے طعن اور گستاخی نہ چاہیے۔ جیسا کہ اس پر کا حاشیہ اس پر دال ہے۔ ۱۲ قوله بے محابا فتوے دے دیتے ہیں۔ اقول یعنی صوفیہ کو جاہل و وضع حدیث کہتے ہیں۔ البت اگر تفصیل کر دیا کریں تو مقصود بھی حاصل ہو جائے اور مقبولان الہی کی تو ہیں بھی نہ ہو۔ ۱۲

(۵۵) فرمایا کہ ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنا چاہیے جیسے کہ حضرت شاہ بھیک رنجی حضرت شاہ ابوالعلی قدس سرہ اپنے مرشد کی انواع اقسام کی خدمت کرتے تھے اور بڑی مشقت کرتے تھے دن کو دن اور رات کو رات نہیں جانتے تھے۔ ایک دن حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا۔ یہ نکالا بزرگوں کا محض ظاہری ہوتا ہے لیکن قلب سے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ بھیک صاحب شہر کے گرد گھونٹے لگے۔ ایک دن شاہ صاحب کی الہیہ نے کہا کہ تم نے اس نیک آدمی کو کیوں نکال دیا اگر وہ ہوتا تو کوئی کام ہی کرتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے نکال دیا ہے تم نے تو نہیں نکالا تم بلاو۔ غرضیکہ شاہ بھیک کو طلب کر کے کوئی کمی مچھت بنانے کا حکم دیا۔ حضرت بھیک صاحب جنکن

کرنے والا اس قدر ملامت کا محل نہیں ہے آداب اقسام سے ہے کہ ایسے موقع پر زیست سے سمجھا دیا جائے البت اگر وہ اہل حق سے عناد رکھے تو اس عناد میں اجتہاد کی گنجائش نہیں اور عالم خلق عالم مادی کو کہتے ہیں اور عالم امر مجرمات کو اور روح مجرمات سے ہے اور احتمال کا لفظ نص ہے اس میں کہ جزم اس اعتقاد کا جائز نہیں اور نہ احتمال مخصوص ہے اس مجلس کے ساتھ جس کا نام مجلس مولود ہو۔ ۱۲

(۵۶) فرمایا واسطے تقویت حافظ کے یا علیم علممنی مالم اکن اعلم یا علیم اتنا یہیں پار بعد نماز عصر پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ بعد نماز فخر گیارہ بار پڑھنا چاہیے یا روٹی پر کچھ کر کھائیں۔

(۵۷) فرمایا۔

یک زمانے سببے با اولیا بہتر از صد سال طاعت بے ریا

اس میں زمان عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے جب ان لی مع اللہ وقت میسر ہو وہ وقت مراد ہے۔ (حاشیہ) قوله وہ وقت مراد ہے اقول یہ بھی اس کا ایک محل ہے۔ جو ظاہراً توجیہات کاحتاج نہیں اور لی مع اللہ وقت الحجۃ اس کو بعض کتب تصوف میں حدیث لکھ دیا ہے۔ مگر سخاوی نے مقاصد حسنة میں اس کے حدیث حسنة کی فہری کر کے اس کے معنی کو شامل ترددی کی حدیث تحریریہ اوقات سے مستند کیا ہے۔

(۵۸) فرمایا کہ ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنا چاہیے جیسے کہ حضرت شاہ بھیک رنجی حضرت شاہ ابوالعلی قدس سرہ اپنے مرشد کی انواع اقسام کی خدمت کرتے تھے اور بڑی مشقت کرتے تھے دن کو دن اور رات کو رات نہیں جانتے تھے۔ ایک دن حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا۔ یہ نکالا بزرگوں کا محض ظاہری ہوتا ہے لیکن قلب سے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ بھیک صاحب شہر کے گرد گھونٹے لگے۔ ایک دن شاہ صاحب کی الہیہ نے کہا کہ تم نے اس نیک آدمی کو کیوں نکال دیا اگر وہ ہوتا تو کوئی کام ہی کرتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے نکال دیا ہے تم نے تو نہیں نکالا تم بلاو۔ غرضیکہ شاہ بھیک کو طلب کر کے کوئی کمی مچھت بنانے کا حکم دیا۔ حضرت بھیک صاحب جنکن

اکیلے بنانے لگے اور بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹ و تراش کر چھت بنانا شروع کیا۔ حضرت کو یہ خدمت پسند آئی جو نکد ان کی مشقتیں انجاء کو پہنچ گئی تھیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک دم میں توجہ باطنی سے کمال کو پہنچا دیا یہ ان کی محنت کا پھل تھا۔ (حاشیہ) قوله ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے اقول مراد ولایت سے مقبولیت نہیں بلکہ بعض کیفیات متعلقہ مقبولیت مجاز اور قصہ کے آخر میں لفظ کمال سے بھی یہی مراد ہے۔

(۵۹) فرمایا بجوز تصور المطلوب على صورة الشیخ اذا كان الطالب عارفاً ذاكشف۔ (حاشیہ) قوله عارفاً ذا كشف اقول لانه لا يعتقده ذات صورة بل يعتقداً لشيخ مظهراً كاملاً للمطلوب فلا يقع في الاتحاد والحلول۔

(۶۰) اکثر اوقات فرماتے ہیں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے البتہ یہ امید ہے کہ تم لوگوں کے توسل سے میری بھی نجات ہو جائے اور موافق اعتقاد و مکان تم لوگوں کے مجھ کو بھی حصہ رحمت خدا سے ملے بعد تم لوگوں کے اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور گونہ اس کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے۔

(۶۱) فرمایا ك ضياء القلوب ك میں نے تو جزو میں لکھا تھا، چار جزو کی اجازت ملی اور پانچ جزو کثیرات میں تھے منسوع الاظہار والا فشا ہو گے۔

(۶۲) فرمایا كلام اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں نفسی ہے پھر بھی الفاظ کو کلام اللہ کہتے ہیں یہی حال تماقی صفات کا ہے یہی معنی ہیں ہم اوست و وحدت الوجود کے اور یہی ہے بھی یہی سمع و بی بصرو بی بیطش الحديث۔ (حاشیہ) قوله یہی حال تماقی صفات کا ہے۔ اقول کر ان کو اپنے مظاہر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں۔ گو بعینہ کلام نفسی و کلام لفظی کا ساتھ تعلق نہیں کیونکہ کلام لفظی تعبیر ہے اس کلام نفسی کی اور اسی وجہ سے اس کی اشاعت تعالیٰ کی طرف جائز ہے بلکہ واجب ہے بخلاف دوسرے مظاہر صفات کے مثلاً اکل زید کر مظہر قدرت حق ہے مگر اکل کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف جائز نہیں مگر یہاں تباہ نفس تعلق ظاہرعت و مظہرعت میں ہے اس تعلق ظاہریت و مظہریت کو صوفیۃ اصطلاح میں غیرت کہتے ہیں اور ہمہ اوست و وحدت الوجود جو کہ ترجمہ ہے غیرت کا اس سے بھی یہی مراد ہے بی سمع

سے بھی تعلق خاص مفہوم ہوتا ہے جو معنی اس تعلق سے مقابہ ہے۔

(۶۳) فرمایا ایک آدمی خاندان نقشبندی میں مرید تھا۔ لیکن اس کی طبیعت ذکر بالخبر سے مناسب تھی اور ذکر جبر سے اس کو لذت ملتی تھی۔ اس کے مرشد نے تلقین ذکر خفی کی کی ترک جبر سے انقابض ہو گیا اور وہ لذت جو حاصل ہوئی تھی جاتی رہی مجھ سے اپنا حال بیان کیا میں نے کہا کہ ہر شخص کو ایک ذکر مخصوص سے مناسب ہوتی ہے بعض کو خفی سے بعض کو جمل سے بعض کو خیال و تصور سے تمہارے لیے ذکر جل مناسب ہے نہ خفی اس نے مرشد کی تعلیم کا غذر کیا میں نے جواب دیا کہ جب یہ عذر تھابت عرض حال کرنا ضرور تھا جب مدیرہ منورہ میں پہنچے۔ ایک برادر ارشادی کے پاس ان کے حسب درخواست ضياء القلوب نقل کے واسطے لے گیا، وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کا ذکر کرنی و اثبات اس درجہ پر پہنچ گیا تھا کہ جب لا إلهَ كَيْفَتَهُ تَارِيْكَيْ ہو جاتی اور چادر وغیرہ کچھ نہ رہتی سب فنا ہو جاتی اور جب إِلَّا اللَّهُ كَيْفَتَهُ آیک نور ظاہر ہوتا یہ دونوں کیفیت معلوم ہوتی تھیں۔ ایک شخص یہ حالت دیکھ کر تمیز رہتا تھا جب تحقیق کیا امر واقعی دریافت ہوا کہ یہ آثار ان حضرت کا ہے۔ غرضیک انہوں نے ضياء القلوب لے کر ان نقشبندی کو واسطے نقل کے دی ہنگام نقل فیض ظاہر ہوا اور انہساط حاصل ہوا شکریہ بجالائے اور ضياء القلوب اپنے واسطے نقل کی۔ (حاشیہ) قوله سب فنا ہو جاتی اقول یعنی باعتبار اور اک کے نہ کہ واقع میں۔

(۶۴) فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے حالات کی چھان میں میں رہتے ہیں یہ امر نہ موم اور منسوع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لَا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بزرگوں کے حضور میں اپنے دل کی غمبداشت کرنا چاہئے۔
پیش اہل دل غمبدار یہ دل

ایک دن ایک صاحب ہمہ سے پاس آئے اور اپنی نسبت سے میر اتفیش حال کرنے لگے میں نے کہا کہ یہ امر بہت برا ہے اہل نسبت اگر اپنی پوچھی چھپانا چاہے تو پہنچ بھی نہ لگئے دے یہ سن کر میرے زانو پکڑ لیے اور عذر کرنے لگے۔ (حاشیہ) قوله قال اللہ تعالیٰ لَا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم اقول اس سے استدلال باشتراک علت ہے وہ وہ

الاطلاع ما لا يربد صاحب البيت الاطلاع عليه۔

(۲۵) فرمایا کہ الصنوة والسلام عليك يا رسول الله سیف خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں۔ یہ اتصال معنوی پر ہی ہے لہ الخلق والامر عالم امر مقید بجهت و طرف و قرب و بعد و غیرہ نہیں ہے پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے۔ (حاشیہ) قوله پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے اقول یعنی جس کو اتصال معنوی مع الكشف نصیب ہو وہ اس قرب کے مکشف ہونے پر بلا واسطہ خطاب کر سکتا ہے ورنہ یوں سمجھ لے کہ ملائکہ پہنچا دیں گے البتہ اگر اس خطاب سے عوام میں مفسدہ ہو تو اس کا اظہار منوع ہو گا۔

(۲۶) فرمایا کہ وظائف میں عدد طاق عمدہ ہیں تو ہوں یا گیرہ۔

(۲۷) ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم اوست ولا موجود کے کیا معنی؟ فرمایا کہ دونوں مرادوں ہیں جو کوئی طالب علم ہو اس کے معنی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے مہندس نقش کی عمارت کا اپنے ذہن میں خیال کرے اور تصور کرے پس اصل میں وجود و قیام عمارت کا ہو گیا بعدہ جو درود یا اور طاہر ہوں گے وہ پرتو حاضر فی الذہن کے ہوں گے۔ اسی طرح صفات اللہ کے ہیں مثل علم و قدرت اور تمایی کائنات پر تو انہیں دو صفت کے ہیں۔ تمام مخلوق علم حق تعالیٰ میں تھی اسی کے موافق ظاہر ہوئی بس یہ سب پرتو ظل علم الہی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں، لامحالہ لا موجود الا اللہ وہم اوست پیدا ہے جملہ اول فانی آخر فانی اور در میان میں جو کچھ ظاہر ہو ابھی خیال و تصور ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشفی ہے میں کہتا ہوں کہ کشفی بھی ہے اور عقلی و نعلیٰ بھی نہ صرف کشفی۔ عقل کے کئی اقسام ہیں عقل معاش و معاد عقل کل و جزو معقول جو عقل معاد نہیں رکھتے محض نامعقول ہیں۔ (حاشیہ) قوله اس کی مثال یوں ہے اقول یعنی تقریب فہم کے لیے ذکر بعیدہ بہی حال ہے تعالیٰ اللہ ۱۲ قوله اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں ہیں اقول بیجاں ایک مقدار مطبوی ہے وہ یہ کہ پرتو اور ظل کا وجود مستقل نہیں پس وجود حقیقی و مستقل صرف حق تعالیٰ کے لیے ہوا اور صفات کو پہلے ہی تھا ز نہیں پس وجود حقیقی واحد ہی ہوا ۱۲ قوله جملہ اول فانی آخر فانی اقول یعنی جملہ اشیاء اول بھی محدود تمیں پھر بھی محدود

ہوں گی جس سے ان کے وجود کا غیر مستقل ہونا ثابت ہو اپس وجود مستقل واحد ہی ہوا اور خیال و تصور شیہا فرمایا وجہ تشبیہ عدم استقلال کی صفت ہے جو کہ خیال و تصور میں اظہر ہے ۱۲ قوله عقل کل و جزو اقوال کل یعنی کامل۔ ۱۲۔

(۲۸) فرمایا کہ شیطان انواع و اقسام سے انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، کبھی بالکلیہ عبادت سے پھر دیتا ہے اور کبھی عبادت اعلیٰ سے ادنیٰ پر ماکل کرتا ہے۔

حج زیارت کردن خانہ بود حج رب البيت مردانہ بود
کبھی حج رب البيت سے باز رکھ کر رغبت حج مکان کی دیتا ہے اور جہاد اکبر سے جہار اصر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ (حاشیہ) قوله رغبت حج مَنَّانَ کی دیتا ہے۔ اقوال یعنی باوجود فرض نہ ہونے کے ۱۲۔

(۲۹) فرمایا کہ تمام لٹاف بالائے عرش ہیں۔ تصور کرنا چاہیے کہ ان کے حقائق سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ (حاشیہ) قوله تمام لٹاف بالائے عرش ہیں اقوال یہ کتابیہ ہے لامکانی ہونے سے اس لیے کہ وہ مجدد ہیں اور عرشِ حقیقی ہے انکہ کاپس وراء العرش کتابیہ ہوا لامکان سے۔ ۱۲۔

(۳۰) فرمایا کہ نہ بہ و ملت عشق جدائے جیسا کہ مولا ناروم فرماتے ہیں۔
ملت عاشق زلت ہاجداست عاشقان رامت و نہ بہ خداست

مجھ کو اس آیت سے تکین و تشغیل ہو گئی ماعلیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی۔ (حاشیہ) قوله نہ بہ و ملت عشق جدائے اقوال یعنی جب اس کا سکر و غلبہ ہو۔ ورنہ معدود ری کی کوئی وجہ نہیں ۱۲ منه قوله مجھ کو اس آیت سے تکین و تشغیل ہو گئی۔ اقوال یعنی اس مضمون میں کیونکہ آیت کا حاصل ان کی باطن کی تعریف نہ کرنا ہے۔ کما صرح المفسرون بہ اور یہی اس عدم تعریف کا اس جماعت کے باب میں ان کا عاشق ہونا ہے کما دل علیہ و صفهم بقولہ بربیدون وجہہ اس سے مستحب ہوا کہ اگر ان کی کوئی بالطفی حالات معدود ری کی ہو اور قرآن تو یہ اس پر دال ہوں تو ان کے باب میں کاوش نہ کی جائے۔ ۱۲۔

اس میں قابل کی تخصیص نہیں مقصود غالبہ یہ ہے کہ جب کسی کے قول کی تاویل ہو سکے اس پر لعن و طعن نہ کریں گو وہ قول غیر مفید ہی ہو۔ ۱۲

(۷۷) فرمایا عالم قدیم ہے مرتبہ اعیان میں کیونکہ یہ پرتو صفات الہیہ کا ہے اور صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں۔ (حاشیہ) قوله فرمایا عالم قدیم ہے اقول مقصود غالبہ یہ ہے کہ اگر کسی عارف کے کلام میں قدم عالم کا پایا جائے تو اس کی یہ تاویل ہے نہ یہ کہ بلا ضرورت قدم عالم کو گھٹا پھرے۔ ۱۲

(۷۸) فرمایا جو کچھ ایک نگاہ میں حاصل ہوتا ہے دیر پانیں ہوتا اور جو ریاضت سے رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے قائم رہتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللذین جاہدوا فینما پس مجاهدہ بہتر دخوب ہے اس آیت کے دو معنی ہیں اول یہ کہ مجھ میں مجاهدہ کر کے فنا ہوتے ہیں اور دوسرے معنی مشہور۔ (حاشیہ) قوله یہ کہ مجھ میں مجاهدہ کر کے فنا ہوتے ہیں۔ اقول یعنی جاہدوا حضمن ہے معنی فنا کو یعنی جاہدوا و یفتوں فیا اور معنی مشہور فی بمعنی لام یعنی لانا۔ ۱۲

(۷۹) فرمایا پاس انفاس جو صحبت شیخ میں دفعہ میر ہو جاتا ہے دیر پانیں ہوتا اور جو خیال سے رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے دیر پا ہوتا ہے اس میں اسرار ہیں ورنہ مکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اول سے تمام مخلوق کو عارف پیدا کرتا اور حاجت ریاضت کی نہ ہوتی۔

(۸۰) فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں سے مشقت نہیں ہو سکتی طلب کمال کرتے ہیں اور میں باو جو دفعہ کے ایک دم میں دوسو پچاس ضرب کرتا تھا مولوی نور الحسن صاحب کا نہ حلوی نے اس قدر کثرت درود شریف کی کی تھی کہ بے اختیار زبان پر جاری ہو جاتا تھا اور یہ قدرت نہ ہوتی تھی کہ زبان کو روک لیں۔ یہاں تک کہ پاخانہ میں زبان کو دانتوں سے دبائے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو درود شریف منہ سے نکل جائے۔

(۸۱) فرمایا میں نے مثنوی شریف تین بار حضرت مولانا عبد الرزاق تھنچانوی پر عرض کی اور تحقیق بعض مقامات کی مولوی ابو الحسن کا نہ حلوی سے کی۔

(۸۲) فرمایا کہ ایک مرید بہت غنی تھا مرشد نے چند اشغال تعلیم کے باو جو دم مشقت و چلہ کشی کچھ اثر و لذت پیدا نہ ہوئی۔ عرض کیا کہ اب کیا کرو؟ فرمایا دیوار میں سردے مارو

(۷۷) اور فرمایا کہ جو کچھ مثنوی میں ہے اس کی تعلیم روحاں مجھ کو حضرت مولانا روم نے فرمائی ہے۔

(۷۸) ذکر و قفات و حیات و مجددیت حضرت سید احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا ہوا فرمایا کہ معتقدین ان کو مجدد اس صدی کا کہتے ہیں اور بعضوں کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر قرآن و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور اس ضمن میں واقعہ دیوبند کا بیان فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ آدمیوں نے حضرت کا بدن پایا سر کہ بموجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا نہیں ملا۔ امر سنگھ نے جحظیم و اکرام عام حزار تیار کیا۔ (حاشیہ) قوله واقعہ دیوبند کا بیان فرمایا۔ اقول یعنی وہاں ایک بزرگ نے حضرت سید صاحب کو بعد شہادت دیکھا ۱۲ اقول سر کلہ بموجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا۔ اقول اس کی تحقیق میں نے نہیں سئی کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ۱۲

(۷۹) فرمایا کہ میں تین سال کا تھا کہ سید صاحب کی آنوش میں دیا گیا اور انہوں نے مجھ کو بیعت تحرک میں قبول فرمایا۔

(۸۰) فرمایا کہ انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق۔ (حاشیہ) قوله اور باطن حق اقول باطن حقیقت کو کہتے ہیں جس کا مظہر انسان ہے باطن کو جزو انسان نہ سمجھنا چاہیے ورنہ محال عقلی و نقلي لازم آؤے گا۔ ۱۲

(۸۱) فرمایا نظر عارف کی اول ظاہر پر پڑتی ہے بعدہ مظاہر پر اس لیے اول لہتا ہے هذا رتبی پھر کہتا ہے لا احب الافلين۔

(۸۲) فرمایا معنی ۔

مک آن وقت کردم خدارا ہجود کہ ذات و صفات خدا اہم نہ ہو
کے یہ ہیں کہ جس وقت ظہور یعنی ذات و صفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا۔ مخفی مرتبہ اعیان کا تھا اس وقت بھی اس مرتبہ میں میں اس کی عبادت میں تھا۔ (حاشیہ) قوله جس وقت ظہور یعنی ذات و صفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا اقول یعنی مدافع مخدوف اور اعیان ثابتہ کے مرتبہ میں عبادت کی تحقیق و تعلق علمی ہے حق تعالیٰ کا اس کی عبادت فی وقہا کے ساتھ اور

امداد المشتاق الى اشرف الاعلائق

طالبان حق ہوں جیسا آگے قول کوال ذکر کہا گیا اور اسی سے لازم آگیا کہ کوئی امر خلاف شرع نہ ہو۔ ورنہ ایسا شخص طالب حق کہاں ہو گا۔ ۱۲

(۸۶) فرمایا کہ اوسیہ وہ گروہ ہے کہ کسی بزرگ کی روح سے مستفیض ہوا ہو جیسے حضرت اویس قرقی زیارت جتاب رسالت تاب علیہ السلام بے مذور رہے مگر آنحضرت علیہ السلام سے فیضیاب ہوئے اسی مناسبت سے اوسیہ اوسی سے منسوب کیا گیا جیسا کہ حضرت حافظ روحاںیت حضرت علیہ السلام سے اور حضرت ابو الحسن خرقانی روحاںیت بازیزید بطاطی قدس سرہ سے کہ سو سال بعد وفات حضرت کی پیدا ہوئے تھے فیضیاب ہوئے اور بیعت عثمانی بھی اسی نوع سے ہے کہ جنگ حدیبیہ میں آنحضرت علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عثمن کی غیبت میں بیعت لی اور یہی توجیہ ہے بعینہ مشائخ کی کہ مرید کی غیبت میں کرتے ہیں۔

(حاشیہ) قوله بیعت عثمانی بھی اسی نوع سے ہے اقول یعنی من وجہ۔ ۱۳

(۸۷) فرمایا کہ قلندریہ وہ گروہ ہے کہ روشن ملامت اختیار کر لی ہے اور اس زمان میں قلندر اس کو کہتے ہیں کہ چند مختصر عادات و مہملات فرضی کا جواب ان کو دے سکے البتہ ان میں بھی بعض کامل و نیک ہوتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله قلندریہ وہ گروہ ہے اقول یہ بھی ایک اصطلاح ہے ورنہ حقہ میں کے زدیک قلندر مقلل اعمال کو کہتے ہیں اور ملامتی کا تم اعمال کو لیکن اس اصطلاح محدث پر وہ شخص مخالف شرع نہیں ہوتا اور مخالف شرع سے اس کی تفسیر کرنا لوگوں کو اس غلطی میں ڈالنا ہے کہ جن پہلے بزرگوں کا ذکر قلندروں میں دیکھا چاوے گا ان پر گمان خلاف شرع ہونے کا ہو گا۔ آگے جوان میں بعض کو نیک بتلایا ہے وہ واقع میں ان میں نہیں ہیں تستر حالت کے لیے اپنے کو ان میں داخل کر لیا ہے مگر مخالف شرع نہیں ہیں لیکن محققین اس کو بھی پسند نہیں کرتے بلکہ ان کا مسلک وہ ہے جو اس کے مابعد ملفوظ میں ہے۔

(۸۸) فرمایا صورت نیکوں کی اختیار کرنا چاہیے سیرت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا کیونکہ وہ وابہب و فیاض ہے۔ دریافت کیا گیا کہ ساحر ان موئی علیہ السلام مشرف بے ایمان ہوئے اور فرعونیاں کافر ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ساحروں نے صورت موسوی اختیار کی تھی

امداد المشتاق الى اشرف الاعلائق

وہ طالب صادق مستعد ہو کر دیوار کے پاس گیا اور قریب تھا کہ دیوار پر سرمار کر جان شارکر دے کے دفعہ بے ہوش ہو کر گر پڑا نہ آئی کہ اس سے (مرشد سے) کہو کہ میرے دوستوں کا سر پھوڑ داتا ہے۔ دونوں چیزوں میں مرید کیفیت وجہ میں ہو گئے۔ یہ لذت خطاب سے بیتاب ہو گیا۔

بدم گفتی و خرسند عفاک اللہ نکونتی جواب تلمیز سید لب لعل شکر خارا عبس و قولی ان جاءه الاعمعی اور مرید درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ (حاشیہ) قوله دیوار میں سردے مارا قول معنی حقیقی مقصود نہ تھے وہ تھا غبی معنی حقیقی سمجھ گیا اور اسی پر عتاب ہوا کہ غبی سے ایسی بات کہی کہ وہ غلط سمجھ گیا اس کو تعلیم حقیقت کی کرنا چاہیے تھا کہ کیفیت مقصود نہیں۔ (۸۳) فرمایا اصل ذوق شوق محبت ہے کشف و کرامات ثرات زائدہ ہیں ہوئے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے عارف اس کو ایک جو کی برادر نہیں سمجھتے بلکہ اکثر حجاب ہوتا ہے۔

(حاشیہ) قوله اصل ذوق شوق محبت ہے اقول عطف تفسیری ہے گو ذوق شوق درجہ شورش میں نہ ہو۔

(۸۴) فرمایا کہ تمام نون میں پندر (خود بینی) ہوتی ہے اور پندر حجاب ہے چونکہ علم میں زیادہ پندر ہے۔ لہذا العلم حجاب الاکبر کہا گیا پس دراصل حجاب غرور و پندر ہے اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ الغيبة اشد من الزنا کیونکہ غیبت میں پندر ہے اور زنا میں بجز و اکسار۔ آدم علیہ السلام والملیک علیہ المعن وقوں سے خطا ہوتی۔ آدم علیہ السلام بجهة بجز و اکسار مقبول ہوئے اور ابلیس اپنے حجاب کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ فرمایا گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں باہی و جانی آدم علیہ السلام کی خطاباً باہی ہے اور ابلیس کا گناہ جانی۔ زنا گناہ باہی ہے غیبت گناہ جانی اس لیے یہ اشد ہے۔

(۸۵) فرمایا کہ حلقة میں ذکر کرنا کچھ مفاسد نہیں۔ جیسے سماں چند شرطوں سے مضائقہ نہیں زمان یعنی وقت نماز نہ ہو مکان یعنی محفوظ جگہ ہو کر شور و شغب وہاں نہ پہنچ سکتا ہو اخوان یعنی تمام آدمی ہم جنس ہوں یہاں تک کہ قول بھی اہل ذکر تھوڑے سب با تمسیح بجا ہوتی ہیں لذت و کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ (حاشیہ) قوله تمام آدمی ہم جنس ہوں اقول یعنی

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

٢٧

تخلقو باخلاق الله اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے صرف اذکار کافی ہیں بلکہ اذکار میعنی ہیں اور نہ بیراس تخلق کی مجاہد ہے۔^{۱۲}

(۹۳) فرمایا کہ کوئی چیز قریب تر انسان کے خدا سے نہیں ہے لیکن دیدہ بینا نہیں ہے آئینہ جب صاف ہوتا ہے عکس نظر آتا ہے قلب جب صاف ہوتا ہے بصر ہوتا ہے اور اپنا چہرہ نہیں معلوم ہوتا مگر آئینہ کے ذریعہ سے اسی طرح مشاہدہ اللہ تعالیٰ کا بواسطہ قلب ہوتا ہے جب واسطہ درست ہوتا ہے کام آتا ہے مثل آئینہ کے فی الواقع آدمی خود اپنا حجاب ہے۔ پندرہ (خودی) حجاب اکبر ہے۔

(۹۴) فرمایا اذکار و اشغال کے لیے استعمال مغزیات و مرکبات ضرور رکھنا چاہیے اور نہ سہل الاصول و مفید یہ ہے شکر سفید ایک سیر و غن زرد ایک سیر مرچ سیاہ توں سونوں کر کے سب ایک جا کر لے ایک دو توں علی الصباح کھالیا کرے بدون مرکبات کے دماغ میں پوسٹ آ جاتی ہے اور دیوانگی و جنون عارض ہو جاتا ہے اور شیخ کو حکم ہوتا چاہیے تاک طالب کے علاج میں نشیب و فراز پر نظر کر کے حرارت (نار) کا طیف ہے ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ کثیف میں نہ مل جائے جیسے چڑاغ کہ بدون تیل وقتیہ کثیف روشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب و جسم کو رعناء سے مرکب ہے قیاس کرنا چاہیے۔

(۹۵) فرمایا کہ لوگوں نے تصور شیخ کو نفر و شرک لکھا ہے بدیل ماہذه التسائیل التي انتقام لها عاكفون اور تصور نور کو روا کہا ہے میں کہتا ہوں کہ عوام کی نظر ظاہر پر تھی الہذا زجر کیا گیا اور نظر صوفی کی باطن (وحقائق) پر ہوتی ہے شیخ چونکہ میراب رحمت اللہی ہے عارف اس سے آب فیض حاصل کرتا ہے اور میراب پر توجہ بالذات نہیں رکھتا۔ اگر شیخ غیر ہے نور بھی غیر ہے پس یہ ترجیح بلا مردح ہے۔ (حاشیہ) قوله اگر شیخ غیر ہے نور بھی غیر ہے تو اقول یعنی اگر واسطہ کے درجہ میں بھی اس کی طرف توجہ منوع ہے اس لیے کہ وہ غیر ہے تو وہ نور بھی غیر ہے اس کا تصور کیسے جائز ہے۔

(۹۶) فرمایا ایک درویش مجھ کو بھٹہ کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس میں ایک شخص نے جس دم کیا ہے جوگی وغیرہ تمام مخلوق پر پتش ختن (بگمان خود) کرتے ہیں اور اہل باطل کو

۶۶

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

اس کے طفیل میں وہ نیک ہوئے۔

(۸۹) فرمایا اولیاء اللہ اپنے کو چھپانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چھپانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو خدمت تعلیم و تلقین کی تفویض فرمائے ظاہر کرتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے کو چھپانا چاہیں گے گرمائے غمی هذا خلیفة الله المهدی راز ظاہر کر دے گی۔

(۹۰) فرمایا کہ کوئی جگہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ و ان من قربة الاخلاق فيها نذير حرم کہ مکرمہ میں نماز مسجدگان میں تین سو سانحہ اولیاء اللہ شریک ہوتے ہیں اور جب اولیاء اللہ باقی شریں گے قیامت واقع ہوگی۔ اولیاء اللہ دعا عالم کے ہیں یعنی ستون۔ (حاشیہ) قوله قال اللہ تعالیٰ و ان من قربة الاخلاق فيها نذير اقول تائید ہے اشتراک علت سے کیونکہ غایتہ ہدایت دونوں جگہ مشرک ہے ۱۲ قوله تین سو سانحہ اولیاء شریک ہوتے ہیں اقول غالباً یا باعتبار اکثر حال بعد گے ہو گا ۱۲ قوله جب اولیاء اللہ باقی شریں گے اقول کیونکہ ان کے باقی نہ رہنے سے پھر مومن بھی نہ رہیں گے اور مومنین کے باقی نہ رہنے پر قیامت آ جانا احادیث میں وارد ہے۔^{۱۳}

(۹۱) فرمایا کہ بالکل غذارتک نہ کرنا چاہیے نہ اس قدر کھانا چاہیے کہ نفس امارہ قوی ہو جائے اور اسی وجہ سے خصی (ہجرا) ہونا منوع ہے بلکہ ایک چوتھائی معدہ خالی رکھنا کافی ہے۔

(۹۲) فرمایا کہ صوفی نے اذکار اس لیے مقرر کئے ہیں کہ انسان صفات بشریہ سے نکل کر متصف صفات اللہ ہو جائے پس کوشش کرنا چاہیے:

مشکل نیست کہ آسال نہ شود مرد باید کہ ہر اسال نہ شود

ہمت مرداں مدد خدا راست بے کم و کاست ہے۔ اللہ حلقکم و ما تعلمون جو کچھ افعال وغیرہ سے ظہور میں آتا ہے مجانب اللہ ہے باوجود اس کے بھی توجہ و صرف ہمت بھی عجیب اعظم ہے ہمت شرط ہے بعد محنت و مشقت فیوض و برکات از جانب مبداء فیاض وارد ہوتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله متصف صفات اللہ ہو جائے اقول کما قبل

حیثیت سے مطلوب الذکر ہے وہ ولی نعم غیر مثالیہ ہونے کے اعتبار سے بدرجہ اولیٰ مطلوب الذکر ہو گا۔ ۱۲

(۹۹) فرمایا کہ عارف کو نعمائے دنیوی سے بھی ترقی ہوتی ہے کیونکہ نعمائے دنیوی عکس نعمائے اخروی ہیں جیسے کوئی شخص کسی بیان میں شدت حرارت سے بہت پیاسا اور تکلیف میں ہوا اور یکبارگی ایک پیالہ مٹھدا پانی اس کوں جائے تو وہ پی کر بے اختیار الحمد لله و سبحان اللہ کہنے لگے اور کیفیت ممتاز اس پر طاری ہو پس اگرچہ پانی نعمت دنیوی تھا لیکن باعث کیے امر نیک کا ہوا اسی طرح نعمت دنیاوی میں عارف کی نظر رہتی ہے۔

(۱۰۰) فرمایا ایک شخص کو خواب میں کیفیت حاصل ہوتی تھی خود دنوش و عبادت نفل بالائے طاق رکھ کر سویا کرتا تھا اسی طرح ایک آدمی بہت کھاتا تھا لوگوں نے سب دریافت کیا جواب دیا کہ پانی پینے میں کیفیت حاصل ہوتی ہے اور زیادہ خوری سے پانی زیادہ پیا جاتا ہے پس یہ ذریعہ قرب محبوب ہے۔ (حاشیہ) قولہ فرمایا ایک شخص کو خواب میں کیفیت حاصل ہوتی تھی اقول یہ کالمین کی حالت ہے ناقص کو قیاس نہ کرنا چاہئے۔

تو صاحب نفسی اے غافل میان خاک خون یخوار
کے صاحب دل اگر زہرے خور داں انہیں باشد

(۱۰۱) فرمایا فیضان کی تین قسم ہیں فیضان حالی جیسا کہ عبد اللہ نو مسلم حلقہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب میں آیا اور گریہ شروع کر دیا۔ حافظ صاحب نے اس کے آنسو اپنی افظیوں میں لے کر اپنی آنکھوں کے نیچے لگائے تھجھ داں کے ایک کیفیت ساری محفل پر طاری ہو گئی اور سب وجد میں آگئے۔ یہ فیضان حالی ہے قسم دوم فیضان قویٰ کہ کوئی عارف کچھ کہے اور اس سے وہ فائدہ مرتب ہو جو سالہا سال کی عبادت میں ممکن نہ ہو قسم سوم فیضان فعلیٰ کہ ریاء شیخ اخلاص مرید سے بہتر ہے جیسے کہ شیخ کوئی عمل اس نیت سے کرے کہ مرید بھی اس پر عمل کریں۔

(۱۰۲) فرمایا کہ ایک شخص محبت اللہ کے پہلے قوم ہندو سے تھا مجاهدہ کیا کرتا تھا اور منیٰ توحید کے پوچھا کرتا تھا اور کسی سے اس کا مطلب حاصل نہ ہوتا تھا میرے پاس آیا اور کیفیت

صفائے نفس حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ سیرا ممکن میں رہ جاتے ہیں۔ (حیثیت الحمقان) تک نہیں و پختہ بخلاف اہل حق کے کہ سیرا مہادی وغیرہ کی بھی کرتے ہیں اور اس سے مجاوز بھی ہوتے ہیں۔ چوں نہ یہ نہ حقیقت رہ افسانہ زدنہ

(حاشیہ) قولہ اہل باطل کو صفائے نفس حاصل ہو سکتا ہے اقول یعنی صفات رذیلہ سے گو بد و ن ازال عقائد رذیلہ کے وہ صفات موجب قبول نہیں ۱۲ قولہ اور اس سے مجاوز بھی ہوتے ہیں اقول تجاوز سے ترک مراد نہیں بلکہ سبق مراد ہے۔ کما قال تعالیٰ بعد ذکر اصحاب المیمنہ وال سابقون السابقوں اولنک المقربون پس اسم ہادی کا فیض اصلاح اعمال و احوال ہے جو کہ اختیاری ہے اور اس سے سبقت اجتہاء ہے جو کہ غیر اختیاری ہے و جمع بینہما فی قولہ تعالیٰ اللہ یجتھی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب جعل الاجتہاء ثمرة مشیة نفسه والہدایۃ ثمرة الا نابة ۱۲ قولہ چوں نہ یہ نہ حقیقت رہ افسانہ زدنہ۔ اقول یہ اہل باطل کے حق میں فرمایا۔ ۱۲

(۹۷) فرمایا کہ فلاں مولوی صاحب شیخ اکبر سے نقل کرتے تھے کہ نار موجب حیات ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ نار مظہر قابض ہو امظہر باسط آب مظہر بھی زمین مظہر میث اور سرادش کی نار سے حرارت غریزی ہے نہ یہ نار۔

(۹۸) فرمایا بعضی کثرت ذکر سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر دم ذکر کرنا بدعت ہے اور بے اصل میں کہتا ہوں آیات کثیرہ سے دوام ذکر ثابت ہے یہ ذکر و نار اللہ قیاماً و قعداً و علی جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض الایة پس احوال انسان اس ایک حالت سے خالی نہیں ہے اب وہ کون حالت ہے کہ جس میں ذکر نہ ہو گا اور فرمایا فاذکر و نی اذکر کم وہ کون آئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو خدا یاد نہ کرے اور فرماتا ہے قل اللہ ثم ذرهم فی خوضہم یلبعون اس سے ثابت ہے کہ ہر دم اللہ اللہ کرنا چاہیے اور ارشاد ہوا ہے و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔

(حاشیہ) قولہ اس سے ثابت ہے کہ ہر دم اللہ اللہ کرنا چاہیے اقول بھر اطلاق گو آیت میں ایک استفہام کے جواب میں ہے مگر جو ایک نعمت یعنی ازالہ کتاب کی ولایت کی

اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ وقت ذکر و غسل چشم و گوش وغیرہ میں روئی رکھ لے تاکہ کوئی خلل ذکر میں واقع نہ ہو، دوم یہ کہ تمام اعضا کو امور منوعہ سے محفوظ رکھیں آنکھ کو دید بد سے کان کو آواز نہ موم سے علی ہذا القیاس۔

(۱۰۶) فرمایا کہ جو خود حجاج و قائم بالغیر ہے دراصل وجود نہیں چیزے کاغذ پر جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ کاغذ سے قائم ہیں دراصل بے بنیاد ہیں۔ (حاشیہ) قوله دراصل وجود نہیں ہے اقول یعنی وجود معتقد بد مستقل نہیں۔^{۱۲}

(۱۰۷) فرمایا کہ قم باذنی قرب نوافل ہے مرتبہ الوہیت میں کہ عروج ہے پیش آتا ہے جیسا کہ شمس تبریز پر گزار اور قم باذن اللہ قرب فرائض ہے اور یہ زوال بعد العروج میں پیش آتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبہ میں تھے اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اول سے شرک و کفر کہنا اس کو بھی جمل ہے۔ (حاشیہ) قوله قم باذنی قرب نوافل ہے اقول جس کی تعبیر اصطلاحی اس عنوان سے کرتے ہیں کہ عبد فاعل ہو اور حق تعالیٰ آلل اور قرب فرائض کو اس عنوان سے تبیر کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ فاعل ہو اور عبد آلل اور یہ اول سے اعلیٰ ہے۔ سو قم باذنی میں احیاء کی اسناد عبد کی طرف ہے اور باذن اللہ میں حق کی طرف تفصیل و تحقیق اس مسئلہ کی مسائل مشتوی میں مذکور ہے^{۱۳} اقول شرک و کفر کہنا اس کو بھی جمل ہے اقول جس کا بنشانا واقعی ہے فن سے۔^{۱۴}

(۱۰۸) فرمایا کہ حضرت ابو بکر خاتم الصدیقین و حضرت رسول کریم ﷺ خاتم النبیین و حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الولایت ہیں اور اس کی تعلیم کریں گے۔

(۱۰۹) فرمایا بعض فقراء خلق سے خصوصاً امراء سے روپوشی کرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا بزرگوں نے نعم الامر علی باب الفقر جو امیر کہ مجھ فقیر کے پاس آیا فغم ہو کہ آیا اس سے پہیز کرنا خبث نفس ہے اور کبر و نحوت شیطان غرور میں ڈالتا ہے۔ حق تعالیٰ تو اپنے بندوں کو میرے پاس بھیجے اور میں ان سے اعراض کروں ظاہر میں خلق کے ساتھ رہنا چاہیے اور باطن میں حق کے ساتھ اگر پانی کشی کے اندر آوے کشی غرق ہو جاوے اور اگر باہر رہے باعث نجات کشی ہے۔

بيان کی۔ اثناء گفتگو میں ایک لفظ زبان سے نکل گیا اور وہی مطلب تھا اس نے درخواست اسلام کی میں نے فوراً مقرض لے کر اس کے سر کے بال تراش کر داخل اسلام کیا اور اس نے قبل اسلام اتنی محنت کی تھی کہ چودہ طبق تک نظر پہنچتی تھی بعدہ پہاڑ پر چلا گیا تھوڑے دنوں بعد زیارت سے مشرف ہوا اور پھر چلا گیا اس کو پہاڑ کے ساتھ نسبت ہو گئی اور وہاں کے راجہ والیان ملک اس کے بڑے معتقد ہوئے۔ (حاشیہ) قوله اس کو پہاڑ کے ساتھ نسبت ہو گئی اقول یعنی غیبی طور پر پہاڑی لوگوں کی نفع رسانی و کاربراری اس کے متعلق ہو گئی۔^{۱۵}

(۱۰۳) فرمایا کہ جتنے ہی شدائے مثل قرنطینہ وغیرہ حرم محترم کی راہ میں حائل ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی کشش زیادہ ہوتی جاتی ہے مقام حیرت ہے اور یہ حیرانی محمود ہے کہ علم سے ہوتی ہے اور حیرانی نہ موم وہ ہے کہ جمل کی وجہ سے ہو حیرانی عارف کی حیرانی محمود ہے اس میں ایک لذت و کیفیت پاتے ہیں اور یہ سر ایسکی صرف ظاہری ہے۔

(۱۰۴) فرمایا کہ جسجو سے حاصل نہیں ہوتا مگر کرنا چاہیے یہی سمجھی عبدیت کے ہیں۔

یا بم اور یا نیابم جسجوئے می کنم حاصل آئید یا نیاباً آرزوئے می کنم
(حاشیہ) قوله جسجو سے حاصل نہیں ہوتا۔ اقول یعنی جسجو موثر حقیقی نہیں مگر کرنا اس لیے چاہیے کہ حسب وحدہ حق موثر حقیقی یعنی عنایت حق کا سبب ہے۔^{۱۶}

(۱۰۵) فرمایا کہ ایک طالب ایک بزرگ سے نسبت رکھتا تھا میرے پاس آیا اس کے مرشد نے چونکہ ایک لطیفہ میں کچھ صفائی حاصل کی تھی دوسرے میں مشغول کر کے مرید کو سر اٹاکنے میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ اپنے پیر سے کہو کہ بہت اچھی طرح سے پہلے ایک لطیفہ کی صفائی کی کوشش کریں تو ذرا سی توجہ سے تمام لٹاکنے میں صفائی ہو جائے جب صفائی قلب حاصل ہو جائے گا تمام جسم و تمام لٹاکنے کی اصلاح ہو جائے گی تمام جسم ڈاکر ہے لیکن تو بے خبر ہے ان من شیء الا یسیح بحمدہ ولکن لا تفکهون تیحهم۔ انسان خود اپنا حجاب ہے۔

چشم بند و لب بند و گوش بند گرنہ یعنی نور حق برمن بخند

درحقیقت عالم کو قدم نہیں کہتے کیونکہ وہ عالم نہیں اعیان ثابتہ مرتبہ عالم کا ہے جو کہ صفت ہے اور عالم اس کا مظہر بھی اس کو عالم مجاز کہ دیا جاتا ہے۔ جیسے عالم جبروت و عالم لاہوت کے اطلاق میں۔^{۱۲}

(۱۱۳) فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک جو طور پر آواز آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطن سے آئی تھی سب انسان میں موجود ہے خلق اللہ ادم علی صورتہ نزدیک علماء ظاہر کے مرجع صورت کا آدم ہے یعنی خلق آدم کا اس کی صورت پر عجیب و عمدہ ہوا ہے۔ اور نزدیک صوفیہ کے صورت کا مرجع (لفظ) اللہ ہے۔ (حاشیہ) قوله حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطن سے آئی تھی۔ اقول باطن سے مراد جوف نہیں بلکہ وہ حقیقت مخفیہ جس کے مظہر موسیٰ علیہ السلام ہیں باطن اس کا لقب باعتبار حالت قبل ظہور کے ہے اور ظاہر اس کا لقب باعتبار حالت بعد ظہور کے ہے۔^{۱۳} قوله اور نزدیک صوفیہ کے صورت کا مرجع لفظ اللہ ہے۔ اقول مسئلہ مشکل ہے مگر اجمالاً اتنا سمجھنا ممکن ہے کہ صورت ظہور کو کہتے ہیں انسان چونکہ مظہر کا مل صفات خداوندی کا ہے اس لیے یہ فرمایا گیا۔^{۱۴}

(۱۱۴) فرمایا ہمارا دین معقول ہے نامعقول نہیں ہے البتہ عقل معاو درکار ہے۔ ایک قطرہ منی نکلنے سے تمام بدن بخس ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے (دوسرا دن) ارشاد فرمایا کہ منی ہر ہر جزو داعصاب سے نکلتی ہے بخلاف پیش اس کے کہ اس کے واسطے ایک مقام مقرر ہے۔

(۱۱۵) فرمایا کہ اولیاء اللہ کو مسراج روحانی ہوتی ہے اور مسراج جسمانی مخصوص حضرت رسالت پناہ علیہ السلام سے ہے بخلاف مسراج معنوی کے۔ (حاشیہ) قوله مسراج روحانی ہوتی ہے، اقول ایہام کے سبب اس کو عروج کہتے ہیں الصلوٰۃ مسراج المؤمنین اس کی اصل ہے۔

(۱۱۶) فرمایا ایک مرشد نے مراتب اللہ حاضری کا تعلیم فرمایا کہ مرید سے کہا کہ یہ کوترا ایسی جگہ ذبح کر جہاں کوئی نہ ہو۔ چونکہ تصور اللہ حاضری کا کیا تھا کوئی جگہ خالی نہ تھی کہ ذبح کرتا۔ واپس آ کر کہا کہ ہر جگہ اللہ حاضر موجود ہے کہاں ذبح کروں۔ مرشد نے کہا کہ اب تو پختہ

آب درکشی ہلاک کئی پشتی است آب ازیرون کئی پشتی است اسی طرح محبت مال و اولاد غیرہ دل سے دور کر دینا چاہیے کیونکہ موجب محاب ہے قلب میں سوائے محبت خدا کے کسی چیز کو جگہ نہ دینا چاہیے۔ (حاشیہ) قوله خصوصاً امراء روپیشی کرتے ہیں۔ اقول یعنی ان کو تغیر سمجھ کر ^{۱۲} قوله اور میں ان سے اعراض کروں اقول حالت کمال کی سیبی ہے لیکن ابتداء میں خلوت کی ضرورت ہوتی ہے ^{۱۳} قوله ظاہر میں خلق کے ساتھ رہنا چاہیے اقول جن میں امرا بھی آگئے ^{۱۴} قوله کسی چیز کو جگہ نہ دینا چاہیے اقول پس غیر کی محبت مضر ہے نہ کہ اس کا وجود اور تلبیس۔^{۱۵}

(۱۱۰) فرمایا طائف چانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزیں آدمی کے جسم میں موجود ہیں اگر سردی کا تصور کیا جائے جاڑا معلوم ہونے لگے۔

(۱۱۱) فرمایا کہ اس زمانہ میں نفع زیادہ ہوتا ہے جو چیز بزرگوں کو دس سال میں حاصل ہوتی تھی فی الحال دو تین برس میں مل جاتی ہے زمانہ نبوی علیہ السلام میں دس نیکیاں ایک کے برابر تھیں اور اس زمانہ میں ایک نیکی دس پر غالب ہے کیونکہ ہم لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں فضل الہی ادنیٰ ہمت میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ (حاشیہ) قوله دس نیکیاں ایک کے برابر تھیں اقول باعتبار ثواب کے نہیں اس میں تو ایک نیکی برابر دس کے ہے بلکہ باعتبار اثر کے چنانچہ حدیث میں ہے کہ میرے زمانہ میں اگر مامور بہ کاعشر بھی چھوڑ دے ہلاک ہو جائے یعنی وہ نو حصہ بھی کافی نہ ہو پورے دس کے دل حصے ہوں تب وہ سب مل کر ایک مامور بہ سمجھا جائے یہی مراد ہے اس عبارت سے اور دوسرے جملہ سے وہ مراد ہے جو اس حدیث کا تتمہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آؤے گا کہ اگر مامور بہ کاعشر بھی کوئی ادا کرے تو اس کو نجات ہو جاوے گی۔^{۱۶}

(۱۱۲) فرمایا کہ تمام عالم کہ اعیان ثابتہ تھے باعتبار باطن قدیم ہیں اور یہ باعتبار ظاہر حادث (نواتف) کہتے ہیں کہ مدہب صوفیہ مثل دہریوں کے ہے یہ غلط مخفی ہے صوفیہ باعتبار باطن (معنی) قدیم کہتے ہیں بخلاف دہریوں کے باعتبار اس صورت (وجود عالم) ظاہری کے قدیم کہتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله باعتبار باطن (معنی) قدیم کہتے ہیں اقول تو

ہے۔ (حاشیہ) قوله روبت حق تعالیٰ ہوتی ہے اقول رویت ذات کی مراد نہیں بلکہ حقیقی مثالی تکروہ مثال دوسرے مظاہر سے اقرب ہے اس لئے اس کو رویت کہہ دیا گیا۔ ۱۲۱
 (۱۲۲) فرمایا کہ مراتب (عرفا) چار ہیں۔ مجدوب، سالک، مجدوب سالک، سالک
 مجدوب اور یہ سب سے بڑا مرتب ہے۔ ایک آدمی قوم ہندو تائونا می خالت جذب میں تھا ایک دن مجھ سے کہا کہ اولے گریں گے ایسا ہی ہوا اگر کافر سے ایسا ظاہر ہو تو اسے استدرج کہتے ہیں اور ایسے آدمی خالت کفر میں مرتے ہیں۔
 (۱۲۳) فرمایا کہ اس شعر سے مجھے خلجان تھا۔

علم حق در علم صوفی گم شود۔ ایں خن کے باور مردم شود

حضرت مولانا روم کو عالم معاطلے میں دیکھا فرمایا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ قول بازیزید کا ہے تم نے نہیں سن۔ اس میں غور کرو فوراً معنی شعر کے سمجھ میں آگئے۔ ملک بازیزید کا خدا ہے اور ملک خدا تمام کائنات ہے اور خدا اعظم ہے سب سے پس ملکی اعظم من ملک اللہ کے معنی حاصل ہو گئے اور یہی معنی شعر کے ہیں علم صوفی خدا ہے (حق) اور علم خدا تمام خلوقات کے مظہر اس کے علم کی ہے۔ پس حق کے مقابلہ میں خلوقات کیا چیز ہے۔
 (۱۲۴) فرمایا کہ بوجہ نہ سمجھنے معنی وحدت الوجود کے بہت سے فرقے ہو گئے بعض قال بخلوں و بعضی اتحادیو ہوئے۔

(۱۲۵) فرمایا کہ مبتدی کی نظر اقل مظاہر پر پڑتی ہے اور متین کی نظر اقل ظاہر پر (حق پر) پڑتی ہے۔

(۱۲۶) فرمایا کہ اقسام تفصیلہ فنا کے بہت ہیں اوصاف ذمیرہ اوصاف حمیدہ میں فنا ہوتے ہیں جیسے قناعت میں حرص اور اسی طرح سے۔

(۱۲۷) فرمایا کہ مقام حق الیقین کا ہمیشہ نہیں رہتا ہے کبھی دن میں ایک بار اور کبھی ہفت میں ایک بار موافق قرب (مرتبہ) کے رہتا ہے اس مرتبہ میں تکالیف (شرعیہ) جاتے رہتے ہیں بعضے جب اس مرتبہ پر پہنچتے ہیں غلطی سے نماز روزہ وغیرہ سب ترک کر دیتے ہیں وقت غلبہ حوال و بخودی کے اگر نماز روزہ ترک ہو جائے معدودی ہے اور اگر بغیر اس

ہوا اللہ پاک سب جگہ موجود ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں جیسے کوئی شخص چلن ڈال کر بینتے وہ سب کو دیکھے گا اور اس کو کوئی نہ دیکھے گا۔
 (۱۲۸) ایک بزرگ مراقبہ اللہ حاضری میں مستقر تھے ہر دم تحریر ہتھ تھے۔ کوئی طواف میں کوئی نماز کوئی وظیفہ میں غرضیکہ ہر کوئی عبادت میں صرف رہتا تھا لیکن یہ اگر طواف کا قصد کرتے تو تحریر ہو کر کھڑے رہ جاتے اور نماز شروع کرتے تو حیرت میں رہ جاتے اقسام ارکان بکار۔ ایک عورت بھی اسی حال و حیرت میں تھی۔ جانور اس کے سر پر بینتے تھے، بگراں کو بخربند ہوتی تھی یہ حیرت محدود ہے۔

دیوانہ باش تاغم تو دیگر اس خورند

(۱۲۹) فرمایا کہ تمام عالم بر باد ہے کیونکہ زمین گاؤ پر ہے اور گاؤ پھیل پانی پر پانی ہوا پر بس تمام عالم بر باد (ہوا پر) اور ناپاسیدار ہوا۔ (حاشیہ) قوله پس تمام عالم بر باد اقول یہ لطیفہ ہے۔ ۱۲

(۱۳۰) فرمایا عماء ایک تجھی حق ہے اس کو بعضے مخلوق کہتے ہیں اور بعضے غیر مخلوق۔

(حاشیہ) قوله عماء ایک تجھی حق ہے اقول جو کہ حدیث کان فی عماء میں واقع ہے اس کی توجیہ مختلف ہے اگر کوئی مرتبہ الہیہ مراد ہے تو صفت کا تجھی ہونا ظاہر ہے اور اگر کوئی مرتبہ کوئی مراد ہے تو تجھی بمعنی مطلق ظہور ہے اور حدیث بھی ظہور ہے قدیم کا۔ ۱۲

(۱۳۱) فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجھی بصورت آگ (شعلہ) کے ہوئی جس صورت میں تجھی ہو حق ہے موسیٰ علیہ السلام مجاز (یعنی آگ ظاہری) سے حقیقت کو پہنچے۔ اس لئے کہ وہ تجھی ظہور نور الہی تھی۔ (حاشیہ) قوله جس صورت میں تجھی ہو حق ہے۔ اقول یعنی تجھی حق ہے گو بواسطہ حدادت ہے ہو بلا اعتماد بلا حلول۔ ۱۲ قوله (آگ ظاہری) سے حقیقت کو پہنچے۔ اقول یعنی وصل الی الحقیقت ہوئے باعتبار اور اس و توجہ کے۔ ۱۲

(۱۳۲) فرمایا کہ اس عالم میں بھی رویت حق تعالیٰ ہوتی ہے۔ لیکن انسان اس وقت آپ میں نہیں رہتا (حوال ظاہری و پندرہ خودی سے محظل ہو جاتا ہے) پس اور اس نہیں رہتا اور اس قام میں علم فنا باقی رہتا ہے اس سے بڑا کردہ مرتبہ ہے جس میں علم فنا بھی فنا ہو جاتا

در اصل وہ حجاب ہیں۔ (حاشیہ) قوله وہ حجاب ہیں اقول یعنی بعض حالات میں جبکہ ان ہی کو مقصود سمجھ لے۔ ۱۲

(۱۳۱) فرمایا کہ آدمیوں میں تین قسم کے لوگوں کا مجھے براخیال رہتا ہے: طالب علم اور وہ آدمی کر پصورت فقیر و درویش ہو۔ سید جو کوئی عمر میں اپنے سے براہو کہ اکثر ان میں صادق ہوتے ہیں ان سے خدمت لینا مجھے بہت شاق ہوتا ہے۔ (حاشیہ) قوله

اکثر ان میں صادق ہوتے ہیں اقول جس کے سبب سے قلب میں ان کی عظمت ہوتی ہے۔ ۱۲

(۱۳۲) فرمایا کہ ایک بزرگ نے ابلیس کو دیکھا کہ گرد میں لوٹ رہا ہے۔ پوچھا کہے ملعون تجھ پر کیا (آفت) پڑی کہا کہ جبیب عجمی کو چھینک آئی اس سے میں درہم و برہم ہو گیا۔

(۱۳۳) حضرت مولانا اشرف علی نے استفارہ کیا کہ بعض کتب میں مدح ابلیس کی پائی جاتی ہے کہ چونکہ تو حید و عشق اس کا اعلیٰ درجہ کا تھا۔ سجدہ آدم گوارانہ کیا فرمایا کہ ابلیس

ناکار نے ظاہر پر نظر کی اور کہا خلقتنی من نار و خلقته ... الایہ۔ یہیں سمجھا کہ یہ

خطاب کس نے فرمایا ہے اور واجب الاتباع ہے اور نظر باطن پر نہ کی کہ آدم مظہر کس کے

ہیں کیا ہم بیت اللہ کو وجہ کرتے ہیں حالانکہ وہ پتھروں سے بنایا گیا ہے نہیں لیکن چونکہ یہ اس کا (خدا کا) مظہر ہے پس مجددیہ ہوا وہ ناکار ابلیس مظہر مصلحت اپنی حقیقت میں

و اصل ہوا اور اپنی مراد کو پہنچا۔ ایک درویش بھی اس کو عاشق کہتے تھے۔ اور یہ کہ بے مراد

ہے غلط ہے کیونکہ معنی بے مرادی عاشق کے اور ہیں کہ وصال مسٹوق میں اس طرح سے فنا

ہو جاوے کے لذت وصال و مکالمت کی نہ پاوے (تمیز نہ کر سکے) اللہ تعالیٰ اس کے

(شیطان کے) مکر سے محفوظ رکھے۔ ایک دن میں پیشتاب کرتا تھا کہ ایک نور چاروں طرف سے محیط ہو گیا اور جملی نمودار ہوئی غیب سے القاء ہوا کہ لا حلول پڑھ چونکہ اس حالت

(پیشتاب کرنے کی) میں معدور (زبان سے پڑھنے میں) تھا۔ اپنے دل میں لا حلول کہا (نور) غائب ہو گیا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ پر ایک ابرسایہ ذاتا تھا ایک دن اس میں ایک چہرہ نورانی حسین نمودار ہوا۔ اور چونکہ حضرت پیاسے تھے سونے کے پیالے میں پانی پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا طلائی برتن میں پیاسا شریعت میں منوع ہے جواب دیا کہ میں

حالت کے ترک کرے گا عند الشرع گنگہار و ماذہ ہو گا۔ باوجود کھانے و پینے اور بولنے و پلنے وغیرہ کے ترک نماز گناہ ہے اگر اپنی حالت (اختیار) میں نہ رہے اور کوئی کام آپ سے نہ کر سکتا ہو اس حالت میں ترک نماز مضاائقہ نہیں ہے (بلکہ یہ ترک کیسے ہوا کیونکہ ترک تو قصدا ہوتا ہے اور یہ حالت بخودی میں واقع ہوا)۔ (حاشیہ) قوله نماز روزہ وغیرہ سب ترک کر دیتے ہیں۔ اقول جس کا منشایہ ہے کہ جہل سے اس کا اثر باقی کو جو کہ غلبہ کے درجہ کا نہیں ہوتا موثر کے حکم میں سمجھ جاتے ہیں جو کہ درجہ غلبہ تک تھا۔ ۱۲

(۱۲۸) فرمایا عارف کی نظر پہلے ظاہر پر پڑتی ہے پھر مظاہر پر اسی وجہ سے حضرت ابراہیم غلیظہ نے سورج و چاند کو دیکھ کر کہا ہزاربی جس چیز پر نظر کرو اس کے صفات کے مظہر ہیں دیواروں میں صفت قیومی ہے اور جامع وحی یہ سب کیا ہے اور کہاں سے ہے۔ (حاشیہ) قوله دیواروں میں صفت قیومی ہے اقول یعنی اس صفت کا ظہور ۱۲ قوله جامع وحی اقول بعض مخلوقات مظہر ہیں صفت جامع وصفت جی کے۔ ۱۲

(۱۲۹) فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے اصل میں یہ علم حق ہے۔ آنحضرت ﷺ کو حدیبیہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملات سے خبر نہ تھی۔ اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔ (حاشیہ) قوله علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا۔ اقول یعنی اسرار غیبیہ پر قصداً سے ان کو اطلاع نہیں ہو سکتی ۱۲ قوله ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے اقول یعنی بعض اوقات جیسے بعض مرکات عقل بعض اوقات فکر سے مدرک ہو جاتے ہیں ۱۲ قوله اصل میں یہ علم حق ہے اقول اسی کا ظہور اس محل میں ہو گا قوله علم کے واسطے توجہ ضروری ہے اقول اور عارف بلا اذن توجہ نہیں فرماتا سو ممکن ہے کہ آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے یہ تلازم نہیں آتا کہ توجہ سے کبھی اکشاف نہیں ہوتا ہو سمجھنے سے کبھی ہوتا ہو سمجھی نہ ہوتا ہو یہی دعویٰ موجہ جزئیہ کا ہے اور مبالغہ جزئیہ اس کا نقیض نہیں۔ ۱۲

(۱۳۰) فرمایا کہ نزدیک حضرات نقشبندیہ کے واسطے طبقات کے دو ائمہ مقرر ہیں

ہے ہوگا و نیز روح اعظم انسان پر کر ایک جگی حق ہے عذاب نہ ہوگا وہ مثل آنکہ کے ہے اور روح حیوانی مانند چراغ۔ (حاشیہ) قوله عذاب و ثواب اس جسم پر نہیں ہے اقول ورنہ اگر اس جسم کو درندہ کھا جائے یا وہ خاک ہو جاوے تو چاہیے کہ عذاب یعنی نہ ہو اور یہ باطل ہے ۱۲ قوله روح اعظم انسانی پر کر ایک جگی حق ہے عذاب نہ ہوگا اقول بلکہ اس روح انسانی پر ہوگا جو روح اعظم نہیں ہے بلکہ ہر انسان میں جدا جدا ہے اور روح اعظم واحد ہے اور ان سب ارواح کی مرتبی ہے اس کی شان مثل ملائکہ کے ہے کہ کائنات کے مدبر و مرتبی ہیں امر و نبی تکلفی کے وہ مخاطب نہیں اور اس روح کا وجود و کشف سے معلوم ہوا ہے روح حیوانی ان کے علاوہ ہے جس کو اطباء روح کہتے ہیں اور ظاہر اس عبارت میں روح حیوانی روح انسانی غیر مشترک کو جائز کہہ دیا ہے بقیرینہ مقابل ۱۲۔

(۱۳۷) فرمایا من عرف نفس فقد عرف ربہ میں نفس حقیقی مراد ہے اہل ظاہر کے نزدیک اس کے دوسرے معنی ہیں اور نزدیک اہل تحقیق و اہل باطن کے اور معنی ہیں دوسرے معنی جب دل میں آؤں گے بیان کروں گا۔ جب کوئی شخص طالب ہوتا ہے اور مجمع (صحبت) میں کوئی غیر نہیں ہوتا زبان پر (مطلوب) آتا ہے جیسے دو دھ کہ سب عورتوں کی پستان میں موجود ہے لیکن جب تک اس کا کچھ نہیں ہوتا نہیں لکھتا۔ جب لکھنے کا وقت آتا ہے کچھ نہیں والا پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱۳۸) فرمایا کہ اشیاء صیہ عالم مظہر نہیں ہیں مگر ان کو حق کہنا بے ادبی ہے۔ (حاشیہ) قوله ان کو حق کہنا بے ادبی ہے اقول یعنی عارف کے لیے گوہ اصطلاح اور تاویل سے کہتا ہو اور جاہل کے لئے تو بالکل ہی کفر و شرک ہے۔ کیونکہ وہ اصطلاح بھی نہیں جانتا جو تاویل کرے۔ ۱۲

(۱۳۹) فرمایا کہ عاشق کی کئی قسمیں ہیں عاشق ذاتی کہنا مراد ہو۔
گر مرادت راذاق شکر است بے مرادی شراؤ دلباست
اگر ایسا شخص پیمار ہو کر حرم میں نماز نہ پڑھ سکے کبھی تاسف نہیں کرتا ان کے نزدیک نعم و قم برائی ہے۔

جنت سے لا یا ہوں کیونکہ وہاں استعمال ظروف طلائی جائز ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک اس عالم ناسوت (دنیائے قافی) میں ہوں حرام ہے (چہہ نے) کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچالیا پیالہ پھینک کر غائب ہو گیا۔ مکائد شیطانی سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا لابدی ہے حضرت نظام الدین بنی حضرت عبد القدوں گنگوہی کی خدمت میں آئے فرمایا اذل تحصیل علم کر و عرض کیا کہ عمر شریف آخر ہو آئی ہے شاید حضرت کو پھر نہ پاؤں فرمایا میں موجود ہوں گا۔ جلال الدین تھا شیری میرا خلیف موجود ہے گویا کہ میں خود موجود ہوں اس سے تحصیل کرنا۔ (حاشیہ) قوله استفارہ کیا اقول مقصود یہ تھا کہ حقائق کی رو سے اس کا کیا جواب دیا جاوے ۱۲ اقول اور اپنی مراد کو پہنچا۔ اقول مراد مقتضائے استعداد ۱۲ اقول بے مراد ہے غلط ہے اقول ایک وجہ تو غلطی کی وجہ ہے جو حاشیہ سابقہ میں گزری یہاں دوسری وجہ ہے کہ اگر اس مراد سے قطع نظر کر کے مردودیت کو نامزادی کہا جائے تو بے بھی ہر نامزاد کا عاشق ہونا لازم نہیں البتہ ہر عاشق نامزاد ہے اور نامزادی کے وہ معنی ہیں جو آئندہ مذکور ہیں۔ ۱۲

(۱۴۰) فرمایا کہ مولوی املیل شہید رضا شیخ موحد تھے چونکہ محقق تھے چند سائل میں اختلاف کیا اور مسلک پیران خود مثل شیخ ولی اللہ رضا شیخ وغیرہ پر انکار فرمایا وحدت الوجود کے قائل تھے ان کے مرشد حضرت سید صاحب مسلک وحدت الشہود کا رکھتے تھے باہم گفتگو ہوئی سید صاحب کچھ کہیدہ ہوئے عرض کیا کہ یہ اور بات ہے کہ دن کورات کہئے یہ حکایت مقام حد میں واقع ہوئی۔ ایک شخص نے اس کو مجھ سے بیان کیا جو اس مجلس میں حاضر تھے۔ وحدت الوجود میں آپ نے (مولانا املیل نے) مشنوی بھی تصنیف فرمائی ہے۔

(حاشیہ) قوله مسلک پیران خود مثل شیخ ولی اللہ رضا شیخ وغیرہ پر انکار فرمایا اقول یعنی بعض سائل پر ۱۲ اقول مشنوی تصنیف فرمائی ہے اقول مقام آرہ میں چھپ گئی ہے۔ ۱۲

(۱۴۱) فرمایا کہ جعلی ذاتی سیاہ مثل غلاف خانہ کعبہ و دیہہ چشم کے ہے۔ (حاشیہ) قوله جعلی ذاتی سیاہ اقول یا ایک اصطلاحی امر ہے اس نوع کی جعلی کو جعلی ذاتی کہتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ خداۓ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ۱۲

(۱۴۲) فرمایا کہ عذاب و ثواب اس جسم پر نہیں ہے بلکہ جسم مثالی پر کہ خواب میں نظر آتا

پس زبون و سوس باشی دلا گر طرب ربابازدانی از بلا
اور عاشق صفاتی و عاشق احسانی چیزے ہم لوگ اور عاشق ہنی۔

(۱۳۰) شدائد حج کا ذکر چلا فرمایا یہ شدائد دلیل عظمت حرمین ہیں۔
رخ راحت شد چو شد مطلب بزرگ گرد گلہ تو تیارے چشم گرگ

اور جو لوگ طالب صادق ہیں ان شدائد کو حصول مطلب کے مقابلہ میں کچھ نہیں گئے۔

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی سستی ہے

(۱۳۱) فرمایا کہ حضرت شاہ محمد الحنفی صاحب نے مجھ کو چار چیزیں تلقین فرمائیں: ۱۔ مطلب
رزق حلال ۲۔ تمام عالم سے اپنے کو بدتر سمجھنا ۳۔ مراقب احسان ۴۔ ترک اختلاط غیر جنس۔

(۱۳۲) فرمایا کچھ موجود نہیں ہے سب فتا ہے جس چیز کے اذل و آخوندگی اس کی حالت
متوسط کا کیا اعتبار الوجود بین العدمین عدم کاظل طہرین الدمین دم۔
(حاشیہ) قول کچھ موجود نہیں ہے اقول یعنی موجود معتقد بقرینہ ما بعد۔

(۱۳۳) فرمایا کہ حضرت سید حسن دہلوی کے ملقب برسول نما ہیں دو ہزار روپیے لے کر
زیارت حضرت رسول اللہ ﷺ سے مشرف کرتے تھے یہ تدبیر و اسٹے مجاہدہ و ترکی نفس کے
کھی جب محبت مال کی قلب میں نہ رہی پس مجاہدہ نفس حاصل ہوا اور قابلیت زیارت حضور
پر نور پیدا ہو گئی میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ (حاشیہ) قولہ دو ہزار روپیے
لے کر اقول یا ایک ہزار کچھ بیک سا ہے۔

(۱۳۴) فرمایا فدا حسین رسول شاہی نام جو شخص دلی میں تھا صاحب باطن تھا شاہ عبدالعزیز
صاحب نے کسی کو مناظرہ کے لئے نہیں بھیجا جو مشہور ہے غلط ہے۔ (حاشیہ) قول
صاحب باطن تھا اقول یہاں باطن سے مراد ریاضت و مجاہدہ سے جو کشف و تصرف حاصل
ہو جاتا ہے خواہ مقبول نہ ہو کیونکہ قبول بدون اجماع شریعت حاصل نہیں ہوتا۔ ۱۲۔ قولہ جو
مشہور ہے غلط ہے اقول حضرت کو یہ روایت کسی غیر شفہ سے پہنچی ہو گئی اور اجتہاد اس کو
حضرت شاہ صاحب ﷺ کے طرز کے خلاف سمجھا ہو گا۔

(۱۳۵) فرمایا کہ مجدوب جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں زبان سے کہہ ڈالتے ہیں اور سالک

زبان کو رو کر رہتے ہیں لیکن لازم ہے کہ بزرگوں کے حضور میں دل کو خطرات و خیالات
ناہموار سے پاک رکھیں اپنے دل پر مراقب رہیں مبادا اثر دل مکدر قلب اہل باطن پر
پڑے اور کچھ اس کی زبان پر آ جاوے تو شرمندگی ہوا سی وجہ سے کہا گیا ہے۔
پیش اہل دل غمہدار یہ دل تابا شید از گمان بد جمل
(حاشیہ) قوله دل کو خطرات و خیالات ناہموار سے پاک رکھیں اقول اور ان کے
زبان پر نہ لانے سے یوں نہ سمجھیں کہ ان کو ادراک نہیں ہوا ممکن ہے ادراک ہو جاوے
اور ممکن ہے کہ کبھی زبان پر بھی لے آؤں۔ ۱۲

(۱۳۶) فرمایا کہ جب عرفان حاصل ہو جاتا ہے تمام اعتراض جاتے رہتے ہیں۔
(حاشیہ) قوله تمام اعتراض جاتے رہتے ہیں اقول مؤثر حقیقی کے مشاہدہ سے سب کو
 مثل مضطرب کے دیکھتا ہے اور حقیقت کو المضطرب نہ دیکھے مگر اس کا انکار اعتراض نہیں ہوتا اصلاحا
ہوتا ہے۔ ۱۲

(۱۳۷) فرمایا زمان ظہور مہدی بہت سخت و خوفناک ہے اکثر خلاف ہوں گے وہ خود امام
مستقل ہوں گے قلید ختنی و شافعی کی اس وقت نہ رہے گی اکثر علماء اسی وجہ سے خلافت
کریں گے اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان سلامت رکھے برحمته و بحرمه نیہ
المصطفی ﷺ

(۱۳۸) فرمایا کہ اس زمانہ کے بعض نقشبندیہ اپنے کو تمام خاندانوں سے افضل سمجھتے ہیں اور
پابندی شریعت کو دلیل لاتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے کہ
مخالف شریعت کا ہو اور اس کو کوئی لطف عرفان کا حاصل ہوا ہو۔

(۱۳۹) فرمایا انوار کی چار قسمیں ہیں: انوار ذاتی، انوار صفاتی، انوار آثاری، انوار افعالی
اور انوار لطائف انوار صفاتی کی قسم سے ہیں۔ (حاشیہ) قوله انوار لطائف اقول مراد
وہ انوار ہیں جن کا ادراک لطائف سے ہوتا ہے وہ جن سے خود لطائف متصف ہیں۔ ۱۲

(۱۴۰) فرمایا کہ بعض لوگ ہمارے قائلہ میں ایسے موجود ہیں کہ اپنے دل میں کچھ بات
خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں (دل ہی میں کہ) اگر یہ (حضرت صاحب قبلہ نبیہ) مطلع

(حضرت صاحب کا) ہے پڑھتا ہے اور اس پر کیف طاری ہے میں نے کہا کہ مجھ کو قال تھا اور اس کو حال ہے دوسرے دن پانی پت کے راستے میں بھی ایک آدمی کو اسی حالت سے دیکھ کر میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو وہ غصہ ہو کر کہنے لگا کہ اپنی راہ لو تم کیا جانو (کہ کیا پڑھتے ہیں) میں ہنسنے لگا جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مصنف رسالہ تھے حاضر ہو کر خطا معاف کرائی اور آمد و رفت رکھنے لگا۔

(۱۵۱) مولانا اشرف علی صاحب نے ایک حکایت بیان کی کہ حضرت فرید الدین عطار ریشیز نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد سے شکایت عدم رویت حق تعالیٰ کی کی جواب دیا کہ اس وقت نماز عشاء کی نہ پڑھو مقصد حاصل ہو جائے گا اس کو تعجب ہوا اور فرض کا ترک کرنا گوارانہ ہوا صرف سنت نہیں پڑھی رات کو حضرت رسالت پناہ ملکہ نجات کو دیکھا (خواب میں) کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کرتے ہیں میری سنت ترک کر دی صحیح کو اس (مرید) نے مرشد سے کیفیت بیان کی انہوں نے کہا اگر فرض (نماز) ترک کرتے خدا کا دیدار حاصل ہوتا فرمایا کہ گناہ کرنے سے بعد داعراض ہوتا ہے نہ کہ قرب و مصل لیکن چونکہ اس شخص کو خدا کی طرف سے کشش تھی اور مرتبہ محبویت میں تھا نماز ترک کرنے سے اس کا مرتبہ گھٹ جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کو گوارانہ تھا پس واسطے منیبہ کے لامحال جلی ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا۔ (حاشیہ) قوله جلی ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا اقول فی الواقع اسرار کو عاز فین سمجھتے ہیں ہم انہوں کو نہ چاہیے کہ وہ حقیقت کا بھر کر شریعت کے خلاف کریں پھر کو مرید کا مقام معلوم تھا کہ اس کی نماز وقت پر ضرور ہو جائے گی تو واقع میں ترک نماز کو جائز نہیں رکھا۔ ۱۲

(۱۵۷) فرمایا کہ مولانا فخر الدین و شاہ ولی اللہ و خواجہ میر درود مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شخص نے ضیافت کی اور اپنے گھر بھاکر خود غائب ہو گیا اور بہت دیر کے بعد یہاں تک کہ وقت نماز کا آگیا آ کر دودو پیسے سب کے ہاتھ پر رکھ دیئے مولانا صاحب پر چونکہ اخلاق رحمت و اغفار غالب تھا آپ نے اس کی تظمیم اور پیسوں کو سرو چشم سے لگا کر قبول کیا اور مرزا صاحب چونکہ بہت نازک طبیعت و لطیف مزاج تھے (یہاں تک کہ زمانہ تھیں میں

ہو کر بتلاویں تو البتہ شیخ چیز بزرگوں کا امتحان لینا بے ادبی ہے اُن کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے دل کا حال بیان کریں بزرگوں کے حضور میں چاہیے کہ کاسہ دل کو خالی آگے رکھ کے تمنا و آرزو اخذ فیض کی کریں شاید کچھ حاصل ہو جائے۔

(۱۵۱) فرمایا کہ بعضے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے سینے سے کوئی چیز (فیض) دیجئے۔ شیخ کا کام حجم ریزی ہے اور آپا شی وغیرہ کام مرید کا ہے مگر شیخ کی توجہ سے قلب ذا کر ہو گا دیر پانیس ہو سکتا۔ جب چھوڑ دیا جائے گا اور ذکر نہ کیا جاوے گا قلب اصلی حالت (سابق) پر رجوع کرے گا بعد اس کے پھر اس وقت ذا کر ہو گا جب نفع و اثبات کی مدد و معاونت کی جادے اور محنت کے ساتھ قلب ذا کر کیا جادے رفتہ رفتہ ذکر قلب حاصل ہو گا۔

(۱۵۲) فرمایا کہ اس زمانہ میں جہاں ذرا سا اثر ذکر کا قلب پر پیدا ہوتا ہے قبل اس کے پختہ ہونے کے دوسرے لطیفہ پر (طالب) متوجہ ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔

(۱۵۳) فرمایا کہ توجہ و شفقت بزرگان بیش فقیر پر (حضرت صاحب مدفیضہ پر) مبذول رہی ایک دن مدینہ منورہ میں حضرت شاہ احمد سعید ریشیہ کی خدمت میں عیادت کے لیے گیا انہوں نے اپنے بھائی شاہ عبدالغنی صاحب سے فرمایا کہ میری بیماری تک خدمت حاجی صاحب کی تمہارے ذمہ ہے۔

(۱۵۴) فرمایا کہ غیر مقلدین انکار تقلید کرتے ہیں یہ مونون بالغیب میں (صف اشارہ بلکہ تصریح) تقلید موجود ہے حقیقی و شافعی کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور اپنی تقلید کا حکم کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ تقلید کوئی چیز نہیں ہم تقلید نہیں کرتے تم بھی نہ کرو مسلسل اس کا ہے کہ ہمارے طریقہ پر چلو اور ہماری پیروی اختیار کرو۔ پس اس میں بھی حکم تقلید کا کرتے ہیں۔

(حاشیہ) قوله یہ مونون بالغیب میں (صف اشارہ بلکہ تصریح) تقلید موجود ہے اقول کیونکہ اکثر عوام مومنین دلیل نہ جانتے تھے اور نہ سب اہل مشاہدہ تھے پھر ایمان تقلیدی نہ ہوا تو کیا ہوا جب اصول میں تقلید شروع ہے فروع میں کیسے انکار کیا جاوے گا۔ ۱۲

(۱۵۵) فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دہلی کے بازار میں چلا جاتا تھا ایک عاشق مزادع کو دیکھا کہ ایک دکان پر بیٹھا ہوا بڑے ذوق و شوق سے رسالہ درود نامہ غناہ کر مصنفہ میرا

امر قابل سرت ہے نہ لائق رجح کہاں سے مجھ کو آرام تھا فرمایا جب وہ نتھی تب تیرا کام کیسے ہوتا تھا کہا پہلے سے میرے پاس ہے نہ کہ فرمایا کیا اس کے ساتھ لائے ہو؟ جب شکایت شروع کی فرمایا شکایات اس مقام کی بھلی نہیں معلوم ہوتی عرض کیا کہ میر ارادہ مدینہ طیبہ کا تھا فلاں شخص کفیل زادو سامان کا ہوا ہے اور وعدہ کیا ہے فرمایا یہ شرک کی باتیں مت کرو خاموش رہو۔ (حاشیہ) قوله کیا اس کو ساتھ نہے ہوا قول یعنی ماں کے پیٹ سے۔^{۱۲}

(۱۶۱) فرمایا کہ میں نے وقت تہجد کے ایک شخص قوی ہیکل رشت روکو دیکھا کہ داہنی طرف سے آ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہانا گاہ دوآ دی آئے اور اس کو پکڑ لے گئے اس کے بعد دیکھا کہ دوآ دی اور باہمیں طرف سے مجھ کو ایذا پہنچانا چاہئے ہیں میں نے ان کو جھڑک دیا وہ غائب ہو گئے ایک خادم نے عرض کیا کہ حضور کے دشمن ذمیل ہوں گے فرمایا نہش و شیطان بھی دشمن ہیں شاید یہی آئے ہوں اور اگر کوئی بنا بدہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدا اس پر اُلت پڑے گا۔

(۱۶۲) فرمایا کہ مرتبہ اولی رجاء و خوف ہے بعدہ قبض و بسط و بعدہ بیت و انس۔ بعض کو بیت ہوتی ہے اور بعض کو انس اور بعض کو دونوں حضرت سرور عالم ﷺ جامع تھے ان دونوں کے اسی وجہ سے جب انس غالب ہوتا تھا ارشاد فرماتے تھے گھمینی یا حسیرا تاکہ طرف اپنے منصب نبوت کے رجوع فرماؤں اور شفقت بر حال مخلوق کم نہ ہو اور جب بیت غالب ہوتی فرماتے ارجی یا بالات تاکہ توجہ الہ میسر ہو۔ (حاشیہ) قوله مرتبہ اولی رجاء و خوف ہے اقول یعنی اسی خوف و رجاء کو اگلے مقام میں قبض و بسط و انس و بیت کہتے ہیں۔^{۱۳}

(۱۶۳) (لطیفہ) ایک خادم (حضرت صاحب کے) نے کسی کتاب میں کہہ امداد اللہ پڑھا اور کہا نام نامی حضور کا اور مدح و ثنائے عالی پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہنس کر فرمایا، جیسا نظر کرو امداد اللہ ہے ظہور تمام (عالم) کامداد اللہ سے ہے اگر مدح و ثناء امداد اللہ نہ کریں بخوبی آؤ۔

(۱۶۴) ایک سائل آ کر بیخنا آپ نے کچھ بیش فرمایا وہ لے کر چلا گیا ارشاد فرمایا کہ وہی دیتا ہے اور وہی دلاتا ہے میں نے ہر چند چاہا کہ زیادہ ہاتھ میں آؤ۔ بار بار اسی قدر آتا

بد صورت دایی کی گود میں نہ جاتے تھے) کہنے لگے کہ میاں اگر یہی ارادہ تھا تو خواہ گواہ اتنی دیر کی اور دوسرے حضرات نے کچھ نہیں کہا۔

(۱۵۸) فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت مراضا صاحب سے شکایت میں خواجہ میر درد اللہ کی کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آنکھوں کا مرض ہوتا ہے اور کوئی کانوں کا اُن کو کانوں کا مرض ہے اور مجھ کو آنکھوں کا کہ حسن پرست ہوں۔ (حاشیہ) قوله اور مجھ کو آنکھوں کا کہ حسن پرست ہوں اقول یہ متفضی لطافت طبع کا تھا جیسا کہ دایی کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے نہ کہ خواہش نفسانی جو کہ اس وقت بلاۓ عام ہے۔ نعوذ باللہ^{۱۴}

(۱۵۹) فرمایا کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آؤے گا کہ نیک لوگ مکہ سے چلے جاویں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے اس زمانہ میں پورا دین نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں اس زمانہ میں دینداروہ ہے کہ پہاڑ پر جا کر صرف ذکر الہی ہوا ایک دہ زمانہ تھا کہ اہل مکہ بیچ و شرائیں ایک کلام کہتے تھے اگر کوئی کچھ کمی و میشی کہتا تھا تو دو کاندار تعجب سے اس کو دیکھ کر کہہ دیتا تھا روح (چلے جاؤ) اور اب ہندیوں کے اختلاط کی وجہ سے دروغ و فریب چل گیا ہے (وائے قسمت! ہندیوں بھی جاؤ)۔ دیکھو تمہارا کیا حال ہے اور کیسے الزام کے ملزم بنے ہو، افسوس! اور مظالم حکام و سچے خلقی عوام اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ ہر شے میں تشدد بڑھ گیا ہے ایک وقت کرایہ مدینہ طیبہ صرف پانچ چھوڑیاں اور اب نوبت چالیس تک پہنچ گئی ہے اور اگلے وقت میں کوئی حرم مدینہ میں دھمکی آواز سے بھی بات نہیں کرتا تھا اگر کوئی بولنا چاہتا تھا شف حیات النبی کہہ کر خاموش کر دیتے تھے اور سارے شہر میں زیاع و فساد اور زور سے بولنا معدوم تھا اتنا ادب نبوی ﷺ کرتے تھے اور اب بالکل حالت بدل گئی ہے تاہم اُن کے اخلاق باوجود تغیر و کمی کے اور یہیں اور اہل مکہ کے اور وہ (اہل مدینہ) نور اخلاق نبی کریم ﷺ سے منور ہیں اور یہاں (مکہ مکرمہ میں) ظہور صفات جلالیۃ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

(۱۶۰) ایک شخص آیا اور بے آواز بلند رونے لگا اور کیفیت علالت اپنی زوجہ کی بیان کرنے لگا فرمایا بھلا یہ کون سامو قبح رو نے کاروچ قبض سے رہا ہوتی ہے اور وہ میں اصلی کو جاتی ہے یہ

خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز اور شرک ہے اور دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے لوگ انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے جیسے قیام مولود شریف اگر بوج آنے نام آنحضرت کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس سردار عالم و عالیان (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ (حاشیہ) قوله اس پر مولانا (روم) کی نیاز بھی کی جاوے گی اقول یہ مطلب نہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر بلکہ اس موقع پر بلا اعتقاد توقف وصول ثواب شربت پر تلاوت ۱۲ قوله نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے اقول یہ حضرت ﷺ کی اجتہادی حقیقت ہے فتنہ میں اس میں تفصیل ہے کہ اس عمل کی مطلوبیت بالذات کے وقت تو یہی حکم ہے ورنہ صون عوام کے لیے اصل سے بھی منع کر دیا جاوے گا آگے تفریعات اسی حقیقت اجتہادی پر ہیں جس میں تفصیل مذکور کا قائل متفق نہ ہو گا مگر چونکہ حضرت کا اجتہاد بعض علماء کے موافق ہے اس نے حضرت کو مخدود رکھا جاوے گا۔ قوله اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ اقول البت اصرار کرنا کہ تاریکین سے نفرت کرے زیادتی ہے۔ ۱۲

(۱۷۰) ایک شخص نے اجیر شریف کہا دوسرے نے کہا کہ اجیر اجیر ہے شریف کیوں کہ ہو گی اس نے جواب دیا تمہارا مزاج تو شریف کہا جاوے اس پر خوش ہوتے ہو اور منع نہیں کرتے ہو اور اجیر کی شرافت پر کہ مقبولان اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی (شرافت) اس کا ایسا انکار۔

(۱۷۱) جب منکر نکیہ قبر میں آتے ہیں مقبولان اللہ سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس عرس کر رائج ہے اسی سے ماخوذ ہے اگر کوئی اس دن کو خیال رکھے اور اس میں عرس کرے تو کون سا گناہ لازم ہوں۔ مولانا محمد اسحاق صاحب عشرہ محروم کے دن بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے بادشاہ چونکہ سونے کے کڑے پہنے تھا آئین سے بند کر لیا اور جب تک مولانا (روم) کی نیاز بھی کی جاوے گی گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دو معنی ہیں ایک بجز و بندگی اور وہ سوائے

تحا۔ اس سے زیادہ اس کی قسم میں نہ تھا۔ بلکہ اسی قدر تھا۔ (۱۷۵) فرمایا جب تک کہ اپنی جنس کے لوگ رہتے ہیں طبیعت منبط و خوش رہتی ہے اور جب کوئی غیر آجاتا ہے متفعل و سست ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ جلد اس کو رخصت کیجئے۔ (حاشیہ) قوله فرمایا جب تک اپنی جنس کے لوگ رہتے ہیں اقول چونکہ وہ سائل طالب دنیا تھا اس لئے اس تقریب سے یہ مضمون فرمایا اور آئندہ مضمون تھاوت کے متعلق بھی اسی تقریب سے ارشاد ہوا اسی طرح اشیاء کا ذموم مطلق نہ ہونا بوج مظہریت صفت کمال کے۔ (۱۷۶)

(۱۷۷) گداسخاوت کا آئینہ ہے جسے چہرہ کے حالات بدون آئینہ کے معلوم نہیں ہوتے ایسے ہی صفت تھا مخفی ہے بدون گدا کے۔

(۱۷۸) اگر غور کیا جاؤے تو کوئی چیز من کل الوجہ ذموم نہیں ہے کیونکہ حقیقت تمام اشیاء کی اعیان ثابت ہے اور وہ علم الہی ہے اور علم الہی تمام تر محمود ہے پس کوئی چیز مخلوقات سے بہ نسبت حق تعالیٰ کے ذموم نہیں ہے ذم و مدح (بجلائی برائی) جو کچھ ہے باعتبار ہمارے ہے۔

(۱۷۹) فرمایا کہ ایک دن مجھ سے اور فلاں مولوی صاحب سے گفتگو ہونے لگی بڑا مجمع ہو گیا میں نے پوچھا کہ تحصیل علم سے کیا غرض ہے کہنے لگے مجبولات کا جانا۔ اتنا گفتگو میں نے کہا کہ حصہ تحصیل علم سے اگر صرف جانا ہے تو مسجد مہدم کر کے مدرس بنانے چاہیں۔ مولوی صاحب ساکت ہو رہے یوں ہی دریک گفتگوہی میں مختصر جواب دیتا رہا بعدہ تمام رات مولوی صاحب بے قرار رہے اور میں پشیمانی میں گرفتار ہا کہ مجھ کو زیبانت تھا کہ عالم سے مقابلہ کروں۔ صح کو مولوی صاحب نے آدی بیچح کر صلح کر لی۔ افسوس کہ اب میرے دوستوں میں کوئی نہیں رہا۔

(۱۸۰) جب مشتوی شریف ختم ہو گئی بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا (روم) کی نیاز بھی کی جاوے گی گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دو معنی ہیں ایک بجز و بندگی اور وہ سوائے

عرض کیا کہ اگلے بادشاہ درویش ہوتے تھے فرمایا بادشاہ دراصل وہی ہے جو گدا ہے۔
گدا بادشاہ سوت و نامش گدا

ابتداء مولود شریف میں اکثر ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جن میں پیغمبروں کی اہانت
ہوتی ہے یہ اگناہ ہے ایک خادم نے عرض کیا ملا جائی چشمی نے فرمایا۔
غلامے بود یوسف (علیہ السلام) زرخیدہ

فرمایا کہ یہ مقام توحید ہے خدا کے آگے بھی عزت ہے ذات نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام
کیا اگر جناب رسول کریم ﷺ کی نسبت کہا جائے تو بھی درست ہے۔ (حاشیہ) قوله
اگر کوئی اُس دن کو خیال رکھے اور اُس میں عرس کرے اقول تعین یوم میں آنے والوں کو
سہولت ہے باقی اس تعین کو مثل احکام مقصود کے سمجھنا غلو ہے اور یہاں بھی وہی حاشیہ
دیکھ لیا جاوے جو اس سے اوپر والے کے قبل کے مفہوم پر ہے۔ ۱۲ قوله یہ مقام توحید ہے
اقول یعنی حضرت رسالت پناہ ﷺ کے مقام توحید میں یہ کہا ہے تو اس مقام پر آپ
کے تعین پر نظر نہیں ہوگی بلکہ مبدأ تعین پر اور وہ حقیقت الہی ہے جس کے مظہر حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ۱۲

(۱) فرمایا کہ زدول مولانا حرم علی الرحمہ کا پنبدت زدول علیہ شیخ اکبر کے کامل ہوتا ہے۔
(۲) فرمایا کہ شیر خاں صاحب خلیفہ حضرت میانجی شاہ نور محمد صاحب قدس سرہ میرے
برادر ارشادی جب قریب رحلت ہوئی وقت نزع لوگوں نے تلقین کل شروع کیا اور وہ منہ
پھر لیتے تھے سب کو تعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی یہ حالت ہے کہ جس سے سوہ خاتمه کا خیال
ہوتا ہے۔ جب حضرت مرشد تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا الحمد للہ لیکن یہ
لوگ مجھ کو پریشان کرتے ہیں اور سمجھی سے طرف اس کے لاتے ہیں پس مرائب لوگوں
کے مختلف ہیں اعراض کلمہ سے سوہ خاتمہ پر استدلال نہ کرنا چاہیے ممکن ہے اس میں کوئی وجہ
خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ (حاشیہ) قوله ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا
اقول پس وہ شخص مخذور ہو گا لیکن اس سے زیادہ کمال جامعیت ہے کہ باوجود مشاہدہ مسکی
کے اسم کا حق بھی ادا کرے۔ ۱۲
(۳) فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پہنچتے تھے اور کھانا لذیہ کھاتے تھے یہ

اس روایت کی تحقیق نہیں ۱۲ قوله یہ خطاب حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے فرمایا۔
اقول وقت ترجیہ تنویر کے۔ ۱۲

(۴) فرمایا پسی عجیب چیز ہے زمین میں کہ پستی ہے کیسے کیسے پھول اگتے ہیں۔ اور
پھارڈوں و پھروں میں (با وجود نعمت) کچھ نہیں (بیدا ہوتا) اور پانی پستی میں ہوتا ہے اس
میں کیسے کیسے فائدے ہیں۔ (حاشیہ) قوله کچھ نہیں (بیدا ہوتا) اقول اور جہاں ہوتا
ہے انہیں اجزاء ارضیہ کی بدولت۔ ۱۲

(۵) فرمایا کہ جب آدمی کسی کام میں بخوبی مصروف ہو کر کوشش کرتا ہے اور بالکل اُسی
کا ہو جاتا ہے تو اُس کام میں صفت الہی ظہور کرتی ہے اور وہ کام عجیب الصنعت نظر آتا ہے
کیونکہ اُس میں خدا کی صنعت ہوتی ہے لیکن (افسوس) اس کا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے
کہ یہ میری کارگری ہے جیسا کہ اہل صنائع جدیدہ خیال کرتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله
اُس کام میں صفت الہی ظہور کرتی ہے اقول مراد صنعت کی شان خاص درنہ مطلق صنعت
کا ظہور تو ہر مصنوع میں ہے۔ ۱۲

(۶) فرمایا کہ زدول مولانا حرم علی الرحمہ کا پنبدت زدول علیہ شیخ اکبر کے کامل ہوتا ہے۔

(۷) فرمایا کہ شیر خاں صاحب خلیفہ حضرت میانجی شاہ نور محمد صاحب قدس سرہ میرے
برادر ارشادی جب قریب رحلت ہوئی وقت نزع لوگوں نے تلقین کل شروع کیا اور وہ منہ
پھر لیتے تھے سب کو تعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی یہ حالت ہے کہ جس سے سوہ خاتمه کا خیال
ہوتا ہے۔ جب حضرت مرشد تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا الحمد للہ لیکن یہ
لوگ مجھ کو پریشان کرتے ہیں اور سمجھی سے طرف اس کے لاتے ہیں پس مرائب لوگوں
کے مختلف ہیں اعراض کلمہ سے سوہ خاتمہ پر استدلال نہ کرنا چاہیے ممکن ہے اس میں کوئی وجہ
خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ (حاشیہ) قوله ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا
اقول پس وہ شخص مخذور ہو گا لیکن اس سے زیادہ کمال جامعیت ہے کہ باوجود مشاہدہ مسکی
کے اسم کا حق بھی ادا کرے۔ ۱۲

(۸) فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پہنچتے تھے اور کھانا لذیہ کھاتے تھے یہ

ہوئے اور سلام باضافہ الفاظ برکات و مغفرتہ وغیرہ عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا طوال بزرگوں کے سامنے کرتے ہو آپ (امام غزالی رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا کہ آپ نے حق تعالیٰ نے صرف اس قدر پوچھا تھا: ما تلک بیمینک یا موسیٰ تو آپ نے کیوں جواب میں اتنا طول دیا کہ ہی عصای التو کا علیہا و اہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اختری... الآية۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا ادب یا غزالی۔ (حاشیہ) قولہ ادب یا غزالی اقول یہ کی بزرگ کا کشف ہو گا اور یہ معراج جس میں مکالمہ ہوا نیز ان بزرگ کو کشوٹ ہوئی ہو گی جس میں ان ارواح کا اجتماع ہو گیا وہ معراج جسی حضور علیہ السلام کی مراد نہیں کہ بعد عن الانبعد ہے اور کشیاں میں ایسے واقعات بعد نہیں کہ حقیقت ان کی امثلہ ہوتی ہیں بعض حقائق کے۔ ۱۲

(۱۸۲) فرمایا کہ جنبلی کے نزدیک جمعرات کے وہ کتاب احیاء تمہر کا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تمہر کا دودھ لا یا گیا اور بعد دعا کے کچھ حالات مصنف کے بیان کئے گئے طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں اقول البت اصرار بالمعنى المذکور افراط ہے اور ملفوظ۔

(۱۸۳) کا حاشیہ یہاں بھی دیکھ لیا جاوے۔ ۱۲

(۱۸۴) ایک بزرگ نے خوب میں دیکھا کہ آنحضرت علیہ السلام اشریف رکھتے ہیں اور ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کو حضور کمال توجہ سے سن رہے ہیں دریافت فرمایا کہ یہ کون سی کتاب ہے کہا گیا احیاء العلوم جو جو الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ کی ہے، فرمایا یہ لقب عطیہ حضرت علیہ السلام ہے۔

(۱۸۵) فرمایا کہ نیستی و عدم ایک لذتی چیز ہے ہر شخص اپنے عدم کا عاشق ہے دیکھو جب تعب ہوتا ہے سونا اختیار کرتا ہے اور نیندا ایک قسم کا عدم ہے۔

(۱۸۶) فرمایا کہ اگر تماہی جسم و صفات سے ایک چیز کو لو اور اس میں غور کر و مثلاً تکلم میں فکر کرو کہ کہاں سے آتا ہے اور کون کہتا ہے آخر نوبت خدا تک پہنچ گئی اور ماسوائے خدا معلوم و فاصلہ معلوم ہو گا مجھ کو رُگ میں وہی نظر آتا ہے۔ (حاشیہ) قولہ تکلم میں فکر کرو اسرالیل جو آپ نے کہا ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے حضرت جو جو الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ حاضر

سے عکس نہمائے اخروی تھا اور وہ عکس صفات حق تعالیٰ تھی۔ حضرت شیخ ان عکس میں معائنہ اصل کا کرتے تھے پس یہ چیزیں ان کے واسطے بجز لہ آئندہ کے تھیں۔

(۱۷۸) فرمایا کہ عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد مظہر حق ہے عورت آئینہ مرد اور مرد آئینہ حق پس عورت مظہر و آئینہ حق تعالیٰ ہے اور اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہیے۔ (حاشیہ) قولہ فرمایا کہ عورت مظہر مرد کی ہے اقوال یعنی بلا واسطہ و رشد عورت بھی مظہر ہے حق کی مگر بواسطہ اور منشا اس کا نکون حوا کا ہے آدم علیہ السلام سے قولہ ملاحظہ کرنا چاہیے اقوال یعنی حلال عورت میں اور حرام سے بجز بعد و حرام کے کیا میسر ہے۔

(۱۷۹) فرمایا کہ جب میں (حضرت صاحب) پہلے کہ آیا تو نوبت فاقوں کی پہنچ گئی کئی کئی دن تک اتفاق کھانے کا نہیں ہوتا تھا میں نے عرض کیا کہ بارا تھا مجھ میں طاقت امتحان نہیں ہے بعدہ حضرت خواجہ مسین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ کا خرچ تمہارے ہاتھوں مقرر ہو گا میں نے عرض کیا کہ اس مہم کی طاقت نہیں رکھتا ہنس کر فرمایا کہ تمہاری حاجت بند نہیں رہنے کی اس وقت سے خرچ ماند کہ اقل مرتبہ سور و پیہے ہے خدا اپنے خزانہ رحمت سے پہنچتا ہے۔

(۱۸۰) فرمایا کہ اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنی.... الآية۔ اس آیت میں ایک راز مکون ہے۔ پہلے نفی غیر کی فرمکر اثبات وحدۃ الوجود کا فرمادیا ہے بعدہ فرماتا ہے کہ سوانیے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہے یعنی جو کچھ غیر ذات اُس کے معلوم ہو وہ سب مظاہر صفات ہیں۔ (حاشیہ) قولہ وہ اسماء و صفات میری ہے اقوال مطلب یہ ہے کہ جب لا اله الا هو سے غیر کی نفی ہو گئی تو سوال وارد ہوا کہ یہ کائنات کیا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی میں اس کا جواب ہے کہ اُن کے جو اسماء ہیں یہ کائنات اُن کے مظاہر ہیں موجود مستقل نہیں یہ باب اشارہ سے ہے تفسیر نہیں۔ ۱۲

(۱۸۱) فرمایا متفق ہے کہ شب معراج کو جب آنحضرت علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلاقاًت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفار فرمایا کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرالیل جو آپ نے کہا ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے حضرت جو جو الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ حاضر

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

٩٣

ورنه نہیں اقول یعنی علی الاطلاق کیونکہ ایسا شخص خلاف اللہ و رسول ﷺ کے ہرگز نہ کہے گا ورنہ انہوں مخالف للشرع میں ظاہری اولی الامر کی بھی اطاعت واجب ہے البت لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق۔^{۱۲}

(۱۸۹) فرمایا کہ اوتاد جمع وتد کی ہے بعین مخچ کیونکہ ان کی بدولت آفات و زلزلات سے حفاظت رہتی ہے لہذا اوتاد کہتے ہیں اور ابدال کسات ہیں اور ہر قلمیں مقرر ہیں جب ایک ان میں سے فوت ہوتا ہے دوسرا قائم کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں میں نے دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا ایک آن واحد میں مختلف متنامات پر دیکھا جاتا تھا۔

(۱۹۰) فرمایا کہ اولیائی تحت قبائل اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو خفی فرمایا۔ اس میں ایک مصلحت ہے کیونکہ اگر لوگ باوجود ظہور ان کی مخالفت کرتے تو معاتب اور معدنہ ہوتے اس لئے کروہ (اولیاء) متصف بصفات الہی ہیں ان کی مخالفت (گویا) مخالف حق ہے اور جو کوئی مخالف حق ہو وہ مردود و مقصوب قابل عذاب ہے اور حالت ناواقفیت میں محدود ہیں۔ (حاشیہ) قوله اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو خفی فرمایا اقول یعنی ان کی ولایت کو ان کی ذات کو۔^{۱۳}

(۱۹۱) فرمایا کہ حریمین میں بعض امور عجیب و پسندیدہ ہیں۔ وحدت الوجود لوگوں میں بہت مرکوز ہے۔ میں مدینہ میں مسجد قبا کی زیارت کو گیا ایک آدمی کو دیکھا کہ اندر مسجد کے جاروب کشی میں مشغول ہے جب زیارت لے فارغ ہو کر میں باہر آیا اور جو تا پہنچے کا قصد کیا تو نما کہ کہتا ہے یا اللہ یا موجود اور دوسرا جو بیرون مسجد تھا کہتا تھا بل فی کل الوجود اس کو سن کر مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی بعدہ لڑکوں کو شغوف میں دیکھا کہ کھیل رہے ہیں اور ایک لڑکا کہہ رہا ہے یا اللہ لیس غیر ک اس سے میں نہایت بیتاب ہوا اور کہا کیوں ذبح کرتے ہو اور تازع کی حالت میں جب کوئی صل علی النبی کہہ دیتا ہے غنیض و غصب بالکل کافور ہو جاتا ہے اور درود پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اتنی محبت آنحضرت ﷺ سے رکھتے ہیں اور شجاعت و سخاوت عرب کی مشہور ہے۔ رجی میں بڑی خوشی کرتے ہیں اور جو کچھ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں مدینہ منورہ میں جا کر خرچ کر

کہ کہاں سے آتا ہے اقول یعنی مؤثر کون ہے اور اس کے مشاہدہ کا جب غلبہ ہوتا ہے مظہر کی طرف الفتا نہیں رہتا اور اس کی صفت کی استاد غلبہ کے سبب مؤثر کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے جملہ کون کہتا ہے کامشاہی ہے۔^{۱۴}

(۱۸۶) فرمایا کہ چونکہ آنحضرت ﷺ واصل بحق ہیں عباد اللہ کو عباد رسول ﷺ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل یا عبادی الدین اسرفا على انفسهم مرجع ضمیر متكلّم آنحضرت ﷺ ہیں۔ مولا نا اشرف علی صاحب نے فرمایا کہ قریبہ بھی انہیں معنی کا ہے آگے فرماتا ہے لا تقطروا من رحمة الله اگر مرجع اس کا اللہ ہوتا فرماتا من رحمتی تا کہ مناسبت عبادی کی ہوتی۔ ارشاد فرمایا اے۔ (حاشیہ) قوله مرجع ضمیر متكلّم آنحضرت ﷺ ہیں اقول یعنی اور بزرگوں کے کلام میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ یہ مرتبہ حقیقت میں ہے جیسا اس کا مبنی واصل بحق ہونا اور فرمایا ہے جس کو عارفین ہی بھی سکتے ہیں اور باعتبار ظاہر کے چونکہ عبد بمحض عاید آتا ہے اس لئے احتیاط کی جاتی ہے البت عبد بمحض ملوك لے کر توجیہ ممکن ہے مگر عوام کو ابہام سے بچانا بھی واجب ہے۔^{۱۵} قوله مولا نا اشرف علی صاحب نے فرمایا اقول مثنا اس تقریر کا فاء فی الشیخ ہے اس لئے جنت نہیں۔^{۱۶} (۱۸۷) ایک دن فرمایا کہ یہ مکان جس میں میری نشست ہے نشست گاہ حضرت شیخ اکبر رضویہ کی ہے۔

(۱۸۸) فرمایا کہ یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای من المتقین یہ خطاب اُن مومنین سے ہے کہ جو ایمان کامل رکھتے ہوں نہ مطلق مومنین پس جو کوئی اولی الامر صاحب باطن ہو اور ترکیہ نفس و تصفیہ قلب کر چکا ہو وہ واجب الاطاعت ہے ورنہ نہیں کیونکہ منکم فرمایا ہے یعنی اے صحابہ جیسے کہ تم کامل الایمان صاف القلب پاک طینت ہو ایسے ہی اگر اولی الامر بھی ہوں تو واجب الطاعت ہیں ورنہ نہیں و ہکذا المؤمن مراد اس سے مومن کامل ہے نہ مطلق مومن کیونکہ مرآۃ وہی ہو گا جو کہ صاف و شفاف ہو پس جس شخص کا قلب صاف ہو وہ قابلیت مرآۃ (آئینہ) ہونے کی رکھتا ہے ورنہ نہیں۔ (حاشیہ) قوله وہ واجب الاطاعت ہے

ذالیتے ہیں اور بعد وابھی کے شکریہ کی دعوت کرتے ہیں اتنی الفت و محبت حضرت (رسول نباد) کے ساتھ رکھتے ہیں نیک بات جس طرح کی جائے عمدہ ہے۔ (حاشیہ) قوله نیک بات جس طرح کی جائے عمدہ ہے اقول ملفوظ (۱۹۲) کا حاشیہ یہاں بھی دیکھ لیا جائے۔ ۱۲۔ (۱۹۲) فرمایا کہ تطویل دعا واسطے عوام کے ہے اور عارف کے لیے اس قدر کافی ہے اللهم انی اسئلک رضاک والجنة واعوذ بک من سخطک والنار۔ (حاشیہ) قوله عارف کے لیے اس قدر کافی ہے اقول کیونکہ اس کی اصل عبادات ذکر ہے جس کی اصل حدیث میں بھی ہے من شغل قراءۃ القرآن عن دعائی و مسننی الخ اخر جد العراقي عن ابن شاهين۔ ۱۲۔

(۱۹۳) فرمایا کہ آیت انک لا تسمع الموتی میں نبی صالح حواس خسہ ظاہرہ سے مراد ہے نہ مطلق اسامی اور استماع موتی حواس باطنیہ سے پیغمبروں و اولیائے کرام کو ممکن ہے جیسا کہ حدیث قلیب میں مصرح ہے وہ کہنا قوله تعالیٰ لا تذر کہ الابصار... الایہ نیز رویت حق تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے آیت میں نقی اور اک کی فرمائی ہے نقی رویت کیونکہ جب رویت حاصل ہوتی ہے فناختی محیط ہو جاتی ہے اور ہوش و حواس کچھ باقی نہیں رہتے پھر اور اک کیسے ہو سکتا ہے بعضوں کا گمان ہے کہ اس دیدہ ظاہرہ سے رویت میسر ہوئی۔ یہ غلط ہے رویت اس کے حواس باطنیہ سے متعلق ہے نہ حواس ظاہرہ سے اور جیسا کہ حواس ظاہرہ کے لیے نور آفتاب وغیرہ شرط ہے ویسے ہی حواس باطنیہ کے لئے نور حلقہ تعالیٰ شرط ہے فانہ ینظر بدور اللہ و رایت ربی بوبی کے لیکن معنی ہیں اگر مرشد کچھ تعلیم کرے اور وہ خلوت میں کسی تاریک جگہ میں کیا جائے تو انوار کا مشاہدہ ہوتا ہے اللهم ارزقنا۔ (حاشیہ) قوله جیسا کہ حدیث قلیب میں مصرح ہے اقول یعنی یہاں بھی نقی باعتبار بصر حسی کے ہے نہ مطلق اور یہ ایک توجیہ ہے تمہلہ توجیہات رافعہ اشکال کے اور متعمین نہیں یہ اس وقت ہے جب اور اک رویت کو عام لے لیا جائے وہ راجوہ آگے ہے یعنی اور اک کی نقی سے رویت کی نقی لازم نہیں آتی مگر یہ رویت آخرت کی سی نہیں ہے محض تجلی مثالی ہے اے اقول بعضوں کا گمان ہے کہ اس دیدہ ظاہرہ سے رویت میسر ہوئی اقول یقنزیع ہے ما

قبل پر باعتبار توجیہ اذول کے اقولہ اگر مرشد کچھ تعلیم کرے اقول یہ مضمون نور حلقہ کے مناسبت سے فرمایا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ای انوار انوار حلقہ ہوں کبھی طائف کے انوار ہوتے ہیں بھی اخلاط کا اشتغال اور یہ مشاہدہ لازم نہیں۔ ۱۲۔

(۱۹۴) فرمایا کہ زَبَّتَا لَا تُرِغْ قُلُوبُنَا بَعْدَ اذْ خَدَيْتَنَا ... الایہ یہ دعائے جامع و کافی ہے ایک آدمی بہت روتا تھا پوچھا کہ اس کی ذات رحیم و غفور ہے کیوں انواروں تے ہو۔ اس نے کہا کہ اپنے گناہوں سے ڈر کر میں نہیں روتا کیونکہ اگر میرے گناہ آسمان و زمین و پہاڑوں کے برابر ہوں تو بھی خدا کی رحمت اس پر غالب ہے اس کی دعوت رحمت سے میں ذرا بھی (گناہوں کا) خوف نہیں کرتا لیکن جو نکلہ ایک ذرہ محبت و معرفت حاصل ہوئی ذرتا ہوں کہ مباراز اہل و سلب نہ ہو جائے اسی وجہ سے روتا ہوں پس یہ دعا اس میں کافی ہے۔

(۱۹۵) فرمایا کہ علماء ظاہرہ کے نزدیک تفسیر آیت فمنکم کافر و منکم مؤمن کی وہ ہے جو مشہور ہے اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ذات واحد میں کافر و مؤمن موجود ہیں خوف کرنا چاہیے کہ رُگ کفر جہنم کی طرف نہ لے جاوے۔ مولا نا اشرف علی صاحب مدفیہ نے مشتوی کا شعر عرض کیا اور حضرت نے مسلم رکھا۔

علت ابلیس انا خیر بدست ایں مرض در نفس ہر مخلوق ہست

موی و فرعون درستی تست

(حاشیہ) قوله صوفیہ کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے اقول باب اشارہ کو تفسیر جائز فرمایا اور من عجیبیہ کا استعمال اس معنی میں بھی آتا ہے۔ ۱۲۔

(۱۹۶) فرمایا کہ جب حالت ظاہری فرش و فروش و تکیوں سے درست تھی سب تو گمراہ کر قصداً عطا نہ کرتے تھے اس وقت کمتر زیارت انبیاء و اولیاء و ملائکہ سے مشرف ہوتا تھا بھوک عجیب چیز ہے۔

(۱۹۷) فرمایا کہ جو کوئی ہم پیش آوے سورہ نبییں پڑھیں اور ہر بہن پڑھنے کی رسات بار سورہ فاتحہ مع تفسیر پڑھیں اور اذول و آخر سورہ کے درود شریف پڑھیں درود حلقہ صندوق کے ہے

دیگر) ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ ہمارے (عوام) کے واسطے یہ ہے کہ موت کو تہلکہ سمجھتے ہیں اور عارفین زندگی کو (یعنی بر عکس)۔
(۲۰۵) ایک صاحب علم مدینہ سے آئے فرمایا۔

خوش سعادت آں بندہ کہ کرد نہ دل گئے پہ بیت خدا گئے پہ بیت رسول
بعدہ اس راہ کا سوال کیا داشتندے عرض کیا کہ فلاں بزرگ ہمارے ساتھ تھے ہم مع الخير
پہنچ فرمایا تب کیسے اس نہ ہوتا اور یہ شعر پڑھا۔

صاحب وہ بادشاہ جسم ہاست صاحب دل شاہ ادبیاے ثانت
(حاشیہ) قولہ تب کیسے اس نہ ہوتا اقول اتفاقے اصلی کبھی عارض کے سب طاہر نہیں
ہوتا فلا ایراد۔ ۱۲
(۲۰۶) ربائی۔

بحدر جوش کہ آں گوہر نایاب کجاست چرخ سرگشته کو خوشید جہاں تب کجاست
دیریزیں غصہ در آتش کہ چرگنگ سست ضم کعبہ زیں در دیسہ پوش کو محراب کجاست
(حاشیہ) قولہ کعبہ زیں در دیسہ پوش کو محراب کجاست اقول یعنی سب طالب ہیں اپنی
اپنی استعداد کے موافق قال تعالیٰ کل قد علم صلاحہ و تسبیحہ۔
(۲۰۷) فقیر کو چاہیے کہ نطبع کرے نمنع کرے۔

(۲۰۸) عارف اگر ہذیان بھی کہے تو وہ بھی معرفت ہی ہوتا ہے کیونکہ علم باشیاء حجاب
حقیقت ہے۔

عشق من پیدا و معاوضہ نہاں یار بیرون فتنہ اور جہاں
(حاشیہ) قولہ علم باشیاء حجاب حقیقت ہے اقوال اور عارف سے یہ حجاب ہر حالات میں
مرتفع ہے پس وہ ہر حالات میں حقیقت پر واصل ہے تو اسی کے ساتھ تکلم کرے گا اور نہاں
ہوتا ان ہی جب یعنی علم باشیاء سے ہے۔ ۱۲

(۲۰۹) شیخ فرید الدین روحشیہ کا مکاشفہ ہے کہ میرا سلسلہ مغرب تک پہنچ گا ایک بزرگ نے
فرمایا کہ یہ کشف آپ کی نسبت ہے کہ بواسطہ آپ کے فیض چشتیہ اقصائے عالم میں پہنچا۔

کہ اپنے اندر لپیٹ کر (وفیضہ دعا کو) لے جاتا ہے دیا سورہ مزمل سات بار پڑھیں کہ
معمولات مشائخ سے اور مجرب ہے اور سورہ فاتحہ اکتا لیں بار جو میں نے اپنے آدمیوں
(مریدوں) پر لازم کیا ہے اس سے بہتر امور دینی و دنیاوی کے لئے کچھ نہیں ہے فقط۔

ترجمہ بعض ملفوظ نو شیۃ مولانا اشرف علی صاحب مدظلہ

(۱۹۸) فرمایا عشق ساعت عشق معاونہ سے زیادہ قوی ہے کیونکہ معاونہ صرف آنکھوں سے
ہے اور ساعت دل سے متعلق ہے۔ (حاشیہ) قولہ کیونکہ معاونہ صرف آنکھوں سے ہے اقول
یعنی غالب اس میں اور اک حسی ہے غالب کو مبالغہ کل کہہ دیا اور عشق ساعت میں غالب
اور اک قلبی اور یہ توازن عشق میں ہے نہ کہ ہوئی نفسانی میں کہ اس میں اس کا عکس ہے۔ ۱۲
(۱۹۹) اگر طلب دنیا کی ہو تو اس کو (دنیا کو) ترک کرے تاکہ در پے اس کے (ترک
کرنے والے کے) ہو۔

(۲۰۰) شعر میں تین باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے: وزن، زبان، مثال۔

(۲۰۱) ۔ پیش اہل دل نگهدار یہ دل۔ تانہ باشید از گمان بدھن

(۲۰۲) اخلاق جبلی زائل نہیں ہوتے البتہ درویشوں کی صحبت سے ان میں تہذیب آجائی
ہے۔

(۲۰۳) مولوی اسحیل صاحب روحشیہ نے فرمایا ہے کہ حب ایمانی بعد وصول رو بہ ترقی ہوتی
ہے اور حب عشقی زائل ہوتا ہے مگر میری رائے بر عکس ہے قال علی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى
لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً اور مولانا روم فرماتے ہیں ۔

عشق دریائیست قعرش ناپدید
البتہ مولوی صاحب کا قول باعتبار عشق مجازی صحیح ہے کہ اس میں محبوب کے کمال کی حدود
انجما مقرر ہے: والمحبوب الحقيقة لا يتناهى كمالاً۔

(۲۰۴) تمام اعمال میں وجہت ہوتے ہیں مثلاً زکوہ کہ عوام کے لئے وہ قاعدہ (اور عمل)
ہے، جو مشہور ہے اور خواص کو قل الحفا اور اخص الخاص یعنی صدقیقین کو تمام مال دینا (مثال

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

- (۲۱۷) لذت دیدار بہت دور ہے طالب کولذت نام کافی ہے۔
- (۲۱۸) ابراہیم و انجن میں بہت سی مشاہدے تھے واسطے فرقہ کے دعا فرمائی بال سفید ہونا شروع ہوئے۔ (حاشیہ) قوله بہت سی مشاہدے تھے اقول مجھ کو اس روایت کا مأخذ معلوم نہیں۔
- (۲۱۹) فرمایا کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ گمان نیک ہے ظلوا المومین خبر امید ہے کہ تمہاری گواہی سے خدا مجھ کو اور تم کو (سب کو) بخش دے۔
- (۲۲۰) فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہر حوالہ اپنے ہیں۔ مولوی روم فرماتے ہیں۔
گرد و پندری قیچ آمد نہ خوب

شاه عبدالعزیز فرماتے ہیں ب
بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ منحصر

- حضرت ابوالارواح و مرتبی ارواح ہیں اگر جملہ انبیاء کی طرف توجہ فرمائیں کیا عجب ہے۔
- (حاشیہ) قوله گرد و پندری قیچ آمد نہ خوب اقول غیریت اصطلاح کی نفی ہے۔ یعنی مظہریت و ظاہریت کا تعلق نہ ہونا اور باوجود اس تعلق کے عام ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقیت فی المظہریہ کا انتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ ابوالارواح ہونا اسی پر متفرع ہے نہ کہ تغیر کی نفی کہ دوسرا مصرع ثابت ہے تغیر کا لفظ بعد اس میں نہیں ہے۔^{۱۲}
- (۲۲۱) جوانی میں خوف اور پیری میں رجاء غالب ہونا چاہیے مولوی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعائیں اپنے موئے سفید کو وسیلہ کرتے تھے۔ (حاشیہ) قوله مولوی مظفر حسین صاحب اقول یقیرفع ہے غلبہ رجاء پر۔^{۱۳}
- (۲۲۲) فرمایا کہ کل ذنب الاذنب العاشق کل دم دم الادم الشہید ۔
ملت عاشق زمجه جداست عاشقان راملت و مذهب خداست
- قال اللہ تعالیٰ ماعلیک من حسابهم من شیء وما من حسابك عليهم من شیء بے خودی میں بعض امور ظاہر اخلاف شرع سرزد ہو جاتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله کل ذنب ذنب الاذنب اخن اقول وجد استثناء بے خودی کا غالب ہے جو آگے مذکور ہے کرامی مولی علیہ السلام تحقیق اس کی (ملفوظ ۶۹) کے حاشیہ میں گزری ہے۔^{۱۴}

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

- (۲۱۰) ایک درویش صاحب سلسلہ خاندان مولویہ نے بلا دروم سے آ کر بیعت کی اور اشائے مذکورہ میں عرض کیا کہ میں کچھ نہیں ہوں تعمیر کر کے (حضرت نے) فرمایا کہ یہ درویش اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں کیونکہ کچھ نہ ہونا (مدارج) فنا سے ہے۔
- (۲۱۱) هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مومن کی تفسیر نزد یک علماء ظاہر مشہور ہے اور علماء باطن کہتے ہیں کہ ہر کوئی مومن و کافر ہے کیونکہ سب میں قویٰ محمودہ و نعمودہ ہوتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله سب میں قویٰ محمودہ و نعمودہ ہوتے ہیں۔ اقول ملفوظ (۱۱۹) میں گزر چکا ہے۔
- (۲۱۲) ایک شخص نے امن راہ مدینہ طیبہ کے لئے دعا پوچھی فرمایا لا الہ ... اخْ بِقَدْ نَفِی
بلیات ولایاف ستر بار اور صلوٰۃ تھجیبا پڑھا کرو۔
- (۲۱۳) موت مدینہ سے مراد مقام عبدیت ہے۔
ہر کجا دلیر بود خرم نشیں فوق گردوں سنت نے قعرز میں
ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ جنت است آں گرچہ باشد قصر چاہ
مگر جامیت اس میں ہے کہ مدینہ میں وفات پائے۔
- (۲۱۴) فرمایا کہ میں نے چھ بار حرف احرفاً مشتوی مطالعہ کی ہے۔
- (۲۱۵) فرمایا کہ مولوی قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہر روز زیارت رسول اللہ علیہ السلام کی ہوتی تھی ایک دن کسی جمال کے لڑکے کو کسیدھا طماقہ مارا اس دن سے زیارت منقطع ہو گئی مدینہ منورہ کے مشائخ سے رجوع کیا، انہوں نے ایک زن دلیل مجددہ کا حوالہ فرمایا جب وہ عورت مسجد نبوی میں آئی مولانا نے عرض کیا سنتے ہی جوش میں آئی اور مولانا کا ہاتھ پکڑ کر کہا شف هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مولانا نے) بیداری میں چشم ظاہر سے زیارت کی اس لڑکے سے خطابی معاف کرائی تھی مگر کچھ مفید نہ ہوا تھا۔
- (۲۱۶) دعائے مشرد ضرور صحاب ہے اور غیر مشرد کافروں کے حق میں اکثر مستحب ہوتی ہے۔

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

من عالم الامر (یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک خادم نے عرض کیا کہ اگر فرم خواجگان باقی ہو میں تمام کروں) اور حضرت قریب بہ فراغ تھے۔

(۲۳۰) امامہ الہیہ غیر متاثر ہیں اور نو دو نہ نام کلی واجہانی ہیں۔

(۲۳۱) مذاق ہونے کی یہ صورت ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے افضل خیال کرے۔

(۲۳۲) الفقر فخری عارف کے واسطے ہے کہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اور الفقر سواد الوجه فی الدارین محظوظ کے واسطے ہے۔ (حاشیہ) قولہ الفقر فخری عارف کے واسطے ہے اقول روایت بالمعنى کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اقولہ محظوظ کے واسطے

ہے اقول کیونکہ وہ فقر سے معاصی میں بچتا ہو جاتے ہیں۔^{۱۲}

(۲۳۳) فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا انبیاء و محبوبان خود کو بلا میں کیوں ڈالتا ہے یہ نہیں صحیح کہ اس میں مشاہدہ جمال و جلال ہے جمال بدن اور جمال روح پر بدن روح کے واسطے بخزلہ آئین کے ہے اگر پہاڑ ڈالا جائے تو (صلحاء و محبوبان) کچھ پرواہیں کرتے۔

(۲۳۴) الحزم سوء الظن ای بنفسہ لا بغیرہ۔

(۲۳۵) رزق چار قسم کا ہے: (۱) حضرون و مقصوم و ماسن دایہ، (۲) موعود و من حق اللہ۔

(۳) معلوم جائد و نوکری وغیرہ (۴) بسط اللہ یسط الرزق لمن یشاء۔

(حاشیہ) قولہ رزق چار قسم کا ہے اقول ان اقسام میں تفاہ اعتباری ہے حقیقی نہیں زانہ باہم مجتمع بھی ہوتے ہیں۔^{۱۳}

(۲۳۶) وابغوا من فضل اللہ ای صحبۃ عباد اللہ۔ (حاشیہ) قولہ ای صحبۃ عباد اللہ، اقول تاویل بلسان الاشارة اراد بہ ان الرزق المفسر بہ فضل اللہ ہو الرزق المعنوی۔^{۱۴}

(۲۳۷) معالجہ میں یہ حکمت ہے کہ اسم شافی ظاہر ہوتا ہے اور اگر صحت نہ ہو، قدرت ثابت ہوتی ہے۔

(۲۳۸) ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے مقام عروج میں تھے اسے بپندرہ فرمائی اور جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح پر مامور ہوئے۔ تو مقام نزول میں تھے

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

(۲۲۳) ایک درویش کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حال شل حال وزیر خادع کے ہے کہ مشنوی شریف میں قصہ اس کا نام کور ہے۔

(۲۲۴) فرمایا کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر طواویلیت ایک چیز تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بٹھل خزر ہو کر گوہ کو کھایا پھر بصورت آدمی ہو کر طواویلیا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ (حاشیہ) قوله انہوں نے بٹھل خزر ہو کر گوہ کھایا اقول اس معرض کی غباء کے سبب اس تکلف و تصرف کی ضرورت پڑی ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ کہ احکام وہ کثار میں۔^{۱۵}

(۲۲۵) فرمایا کہ مجھ کو فخر ہے کہ تھانہ بھون میں ایسے ایسے عشاں گزرے ہیں کہ عشق میں اپنے سردے دیئے ہیں جیسے مشنوی عاشق تھانہ بھون مشہور ہے۔ (راقم) مولانا اشرف علی صاحب سے فرمایا تھا۔ (حاشیہ) قوله مجھ کو فخر ہے کہ تھانہ بھون میں ایسے ایسے عشاں گزرے ہیں اقول یہ فتنہ نفس عشق پر ہے نہ کہ اس کے محل کی قید کے ساتھ جیسے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک مصلوب سارق کے پاؤں چوے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس کے استقلال کی تعظیم کرتا ہوں قطع نظر اس کے مصرف کے۔^{۱۶}

(۲۲۶) فرمایا کہ مرض بھی رزق ہے اس کو نعمت شمار کرنا چاہیے۔

(۲۲۷) مومن خاں (دہلوی) مجھ سے بہت اعتماد رکھتے تھے میں نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشنوی کی نظم ست ہے جواب دیا کہ کوئی جمال کہتا ہوگا اساتذہ کے نزدیک مشنوی سند ہے بعد انتقال خاں صاحب کے لوگ حسب وصیت ان کی قبر پر گئے، ان کا حال عمدہ پایا۔

(۲۲۸) فرمایا حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے ایک کتاب سامنے سے گزرا، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کئے اس کے پیچھے دوڑے، وہ ایک جگہ بیٹھے گیا سب کتوں نے اس کے گرد حلقة باندھ کر مرافقہ کیا۔ (حاشیہ) قوله اس قدر صاحب کمال ہو گیا اقول کمال خاص مراد ہے نہ کمال مطلوب۔^{۱۷}

(۲۲۹) جب نسبت روحانی حاصل ہوتی ہے وقت میں وسعت ہوتی ہے لامہ ای الروح

لکن تھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ فقرہ اولیٰ صریح ہے وہ راجحی قدرے تغیر سے صریح ہو سکتا ہے مثلاً بفضلت حاجت اور ابراری۔ فرمایا کہ ہاں بھائی تم شاعر ہو ہمارے نزدیک تو کمی و بیشی رو انہیں ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو گل حوالہ تعلیم کیا اُس نے قل حوالہ اللہ پڑھا کچھ اثر نہ ہوا فرمایا کہ میری زبان سے پڑھو (جبکہ کہ تعلیم کیا ہے)۔ (حاشیہ) قوله قل حوالہ اللہ پڑھا کچھ اثر نہ ہوا قول ظاہر اثر نہ ہونے کا سب اس فرض کا اعتراض ہے بطور تدقیق کے اُس بزرگ پر کہ اُن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا حالانکہ معدود پڑھات جائز نہیں اور یہ فرمانا کہ میری زبان سے پڑھو یہ لطیفہ ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ باوجود صحیح پڑھ کنے کے نہلٹ پڑھنا فرمہ مطلوب ہے بلکہ غلط پڑھنا بُرَبَّ نسبت اعتراض و تدقیق کے اہون ہونے کے سب مطلوب اضافی ہے اس مضمون کو اس عنوان سے بطور لطیفہ کے تعمیر کر دیا۔ ۱۲

(۲۳۵) بوجہ ادب کے تعویذ میں بجائے حروف ہندہ لکھنا مقرر کیا گیا ہے۔

(۲۳۶) کسی شخص نے خط میں کوئی فرمائش عرض کی تھی فرمایا کہ میں بہت کامل ہوں لوگ کیوں مجھے کسی کام کو کہتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله لوگ کیوں مجھ سے کسی کام کو کہتے ہیں اقوال یعنی ایسے کام کو جو ضروری نہ ہو اور مذاق کے خلاف ہو جیسے اکثر لوگ فضول دنیا کے لئے بزرگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ ۱۲

(۲۳۷) فرمایا کہ مولوی محمد قاسم صاحب نے پوچھا کہ میں تو کری چھوڑ دوں، میں نے (حضرت نے) جواب دیا کہ جب ایسی حالت ہو کہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو چھوڑو یو۔

(۲۳۸) نسبت شریعت و طریقت کی مثل وضو و نماز کے ہے۔ (حاشیہ) قوله نسبت شریعت و طریقت کی اقوال شریعت کے وہ معنی مراد ہیں جو عرف عام میں ہیں اس میں اور طریقت میں شرط و شروط کا تعلق ہے ورنہ عرف خاص میں جو اُس کے معنی ہیں وہ تو مجموعہ ہے اصلاح ظاہر و باطن کا اُس میں اور طریقت میں جزو کا تعلق ہے۔ ۱۲

(۲۳۹) فرمایا کہ بتابے مدارس دین فقیر نے آغاز کی ہے۔ (حاشیہ) قوله بتابے

محبوب افرمایا فانظر ماذا تری اور اس وقت اشعیل علیہ السلام مقام عروج میں تھے پس مقام ابراہیم علیہ السلام اکمل ہے۔

(۲۴۰) حدیث ہے: انا عند المنكسرة قلوبهم ای الذین افت قلوبهم الحقيقة قلوبهم الصنوبرية۔ (حاشیہ) قول حدیث ہے انا عند المنكسرة الخ، اقول المراد الحديث القدسی لکن لامن النبی ﷺ بل عن موسی عليه السلام كما في شرح الاحیاء روى ابو نعيم في الحلية بسنده عن مالك بن دينار قال قال موسى عليه السلام يا رب این ابغیک قال عند المنكسرة قلوبهم۔ ۱۲ قوله ای الذین افت قلوبهم الحقيقة قلوبهم الصنوبرية اقول حاصله ان هذا الانکسار هو الذى حصل بالكسر وهو من باب الاشارة۔ ۱۲

(۲۴۰) فرمایا کہ حافظ غلام مرتفعی صاحب علم جذب میں لوگوں کو پھر مارنے تھے اور جب میں حاضر ہوتا تھا شفقت فرماتے تھے اور بشارت دیتے تھے کہ تو حیدر تم پر مکشف ہو گی۔

(۲۴۱) مولوی قلندر صاحب کسی کو یہاں نک کر بھنگ پینے والے کو بھی محمد نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ یہ نہ کوہ کہ بھنگ پیوں گاہاں لو اور خرچ کرو فرمایا کہ یہ حیات الہی ہے اور حیات محمدی ﷺ احتظاحد و دو کہتے ہیں۔ (حاشیہ) قوله یہ حیات الہی ہے۔ اقول لانہ لا یستل عما یفعل ولم یکلف العبد بهذا بل قد نہی عنہ فی بعض الاحوال یعنی اس حیات کی بعض احوال میں اجازت نہیں خواہ حق سے ہے۔ ۱۲

(۲۴۲) العلم حجاب اکبرای للعبد لانہ یورث الحجب او القرب کما للسلطانین اور مسمی ثالث بطرز حقائق ہیں کہ علم باشیاء حجاب حقیقت ہے۔

(۲۴۳) ۔

پتو حست ن محجد در زمین و آسان در حرمیم سین حرام کہ چوں جا کر دہ

حسن خویشا روزے خوبی آنکارا کردا پس پچشم عاشقاں خود را تماشا کردا

(۲۴۴) فرمایا کہ سید صاحب بجائے تعویذ کے خداوند اگر منظور داری حاجیش رابراری

ا قول یعنی اگر عقیدہ فاسد نہ ہو التزام وغیرہ کا تو یہ اس آیت کے عموم کے تحت میں آ سکتا ہے۔ ۱۲

(۲۵۸) توجہ امراء بدر و لیش اس کی دلیل ہے کہ اس درویش میں رُگ دنیا باتی ہے،
الجنس یعمل الى الجنس۔

(۲۵۹) ایک عالم کا فتویٰ کہ قبول حج بدل میں عذر پیش کرتے تھے نقل کیا کہ شاید سلطان پر
حج فرض بھی نہ ہو۔ (حاشیہ) قوله شاید سلطان پر حج فرض بھی نہ ہو قول کیونکہ وہ
اموال میں ملک ہے ماں کی نیس فقهاء نے بھی اس سے تعریض کیا ہے۔ ۱۲

(۲۶۰) و اخاف ان یا کلہ الذب ای الحسد۔ (حاشیہ) قوله و اخاف ان
یا کلہ الذب ای الحسد اقول هذا بلسان الاشارة و كان هذا واقعاً لم
یا کلہ الذب السبع۔ ۱۲

(۲۶۱) ا قول مدارج وحدت اخوة ہے پھر کفیس واحدۃ۔ (حاشیہ) قوله ا قول مدارج
وحدت اخوة ہے ا قول جس میں تغایر غالب ہے۔ ۱۲

(۲۶۲) صوفیہ کے نزدیک مشابہات ظاہری المعنی ہیں۔ (حاشیہ) قوله مشابہات
ظاہری المعنی ہیں ا قول یعنی بعض۔ ۱۲

(۲۶۳) سبقت رحمتی على غضی سبق زمانی بھی ثابت ہے کہ اولاً اسماے
حالیہ ظاہر ہوتے ہیں عالم عدم سے باہر آتے ہیں جب اہلاک نزدیک ہوتا ہے
اسماے حالیہ قہر وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اس میں زمان قریب ہے لہذا عارف شکوہ نہیں
کرتا۔ (حاشیہ) قوله اس میں زمان قریب ہے۔ ا قول شبہ ہوتا ہے کہ ناخ سے
کچھ تغیر ہو گیا ہے اگر بھی عبارت ہے تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ سبقت میں ماضی کا زمان
عارف کو قریب نظر آتا ہے جس میں وہ بلا میں بھی آثار رحمت کو مشاہدہ کرتا ہے اس
لئے شکوہ نہیں کرتا۔ واللہ اعلم (۲۶۳) دعائیں درود مش مصدقہ کے ہے۔

(۲۶۴) اپنے شیخ کے حق میں ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بہتر میری کوشش سے نہ
باہم آؤے گا۔

مدارس دین فقیر نے آغاز کی ہے ا قول جو مدارس دین کھلائے جائے ہیں ان سب میں
اذل مدرسہ دیوبند ہے اور بانی اس کے سب حضرت مولانا کے خواص ہیں جن کو حضرت
رشیذہ نے متوجہ کیا تھا۔ ۱۲

(۲۵۰) تصوف چار علم سے ہے: سیر، اخلاق، سلوک، حلقہ۔
(۲۵۱) زمین مظہر چند صفات کی ہے: علم، صنع، عدل، امانت۔ زمین عجب چیز ہے کہ مظہر
زمیں مظلوم ہے۔

(۲۵۲) قضا کا علاج بھی قضا ہے۔
ہم در تو گریزم ار گریزم

(۲۵۳) مولوی بحر العلوم صاحب پر توحید ایسی غالب ہو گئی تھی کہ مدارس میں بجائے قرآن
کے منشوی شروع کرو گئی تھی۔

(۲۵۴) یوسف ہمدانی نے خواب میں مولا ناروم سے اجازت وظیفہ منشوی شریف حاصل
کی تھی۔

(۲۵۵) مواخذہ انا پر ہے اس کو محکرے اور بے سلطنت ہو جاوے مواخذہ جاتا رہے۔ یہ محو
ہستی جبر محمود ہے اور دعویٰ محض جبر نہ موم تو بھی اگر کوئی قصور ہو جائے اپنی طرف نسبت
کرے یہ ادب ہے کادم علیل اللہ اور ایاز الغلام۔

(۲۵۶) مثال شیخ مثال طویل و آئینہ کے ہے کہ وجود مطلق بہاس بجانس میں فیض دیتا ہے۔
(حاشیہ) قوله بہاس بجانس میں فیض دیتا ہے ا قول یعنی اس مثال میں معلم انسان ہوتا
ہے لیکن طویل کی رعایت ہے آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں اس کا بجانس نظر
آتا ہے انسان جو کچھ بھلا کتا ہے وہ طویل اپنے بجانس کو ناطق بمحاجہ کر سکے یعنی ہے اس طرح
فیاض حقیقی حضرت حق ہے مگر درمیان میں واسطہ مستفیض کے بجانس کو بنا دیا وہ شیخ ہے اور
بہاس سے مراد مظہر۔ ۱۲

(۲۵۷) معمول مشائخ کا ہے کہ بعد نماز کے تین بارٹی واثبات کرتے ہیں: فاذا قضیتم
الصلة فاذکروا اللہ۔ (حاشیہ) قوله فاذا قضیتم الصلة فاذکروا اللہ۔

میں اپنے شہر میں اپنے رفقاء کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا ایک شخص اپنی چہرہ چھپائے ہوئے آئے اور مسجد میں سلام کر کے چلے گئے۔ کھانے کے وقت میں نے ان کو بلا بیجا انہوں نے اپنا کھانا مسجد میں طلب کیا وہیں بحیثی دیا گیا وہ تن دن بھی دستور رہا تیرے دن میں سروری میں (کہ مصل مسجد کے میں نے بنوائی تھی) بعد نماز عشاء کے قبل سونے کے مشنوی شریف (مولانا روم) دیکھ رہا تھا اور سروری میں پرده پڑا تھا ان صاحب نے آ کر آہستہ سے پرده اٹھایا میں نے پوچھا کون ہے کیا شاہ جیو ہیں بولے اگر اجازت ہو تو کچھ شمع کے سامنے لکھ لوں میں نے کہا آئیے اندر آ کر انہوں نے قلم دوات نکالی زعفران کی روشنائی اور انار کی لکڑی کے قلم سے کوئی نقش لکھ کر فرمایا کہ یقیناً اگر روز لکھا جاوے تو ہر روز پانچ روپیہ فتوح ہوتا ہے اور اگر بھی کبھی لکھا جاوے تو بھی ایسا ہی روپیہ آتا ہے غرضیکہ ہر بار لکھنے میں پانچ روپیہ ملتے ہیں میں نے جواب دیا کیا شک ہے بزرگوں کے پاس ایسے ایسے عمل ہوتے ہیں ان کی یہ غرض تھی کہ فقیر (حضرت صاحب) امتناع کرنے اور میں مضاف میں مشنوی شریف میں غرق تھا کچھ اتفاقات نہیں کیا انہوں نے پھر کہا کہ اس میں کچھ وقت و مشقت بھی نہیں صرف نقش کو زعفران کی روشنائی اور انار کے قلم سے لکھ کر فلاں دعا پڑھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جب پانچ روپیہ لینا ہوا یا کرے میں نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا آخر الامر انہوں نے کھل کر کہا کہ آپ کے لنگر خان میں ایسا عمل ہونا ضروری ہے اکثر مہمان آتے ہیں یہ عمل باعث اطمینان ہے فقیر نے کہا کہ جو کچھ آپ کے سیند میں ہے وہ عنایت فرمائیے تو البتہ ورنہ ایسے علموں کی بھجھے ضرورت نہیں ہے ابھی میرا اعتماد اس رازق حقیقی پر ہے کہ جو میرے رزق کا ذمہ دار ہے اور پھر میرا اعتماد اس عمل پر ہو جائے گا۔

مجھ کو غیر پر اعتماد کی ضرورت نہیں کیونکہ اسی لیے میں نے اپنی جائیداد وغیرہ ترک کر دی مسجد میں قیام اختیار کیا ہے ان بزرگ نے میری ہمت کی تحسین کر کے دعا دی اور فرمایا کہ ایسا شخص محروم نہیں رہتا۔

(۲۷۲) مولوی عبدالرحمن صاحب جلال آبادی کا قصہ یہاں کیا کہ جمال شاہ مجذوب جلال آباد میں مقیم تھے مولوی عبدالرحمن صاحب باوجود فضل و کمال چندے اُن کی صحبت میں

(۲۶۶) کشف میں خطرات کی تیز بہت دشوار ہے۔

(۲۶۷) قادریانی اگر راہ پر بھی ہوتا ہم ہم بوجا پہنچنے علم کے انکار پر معدود ہیں۔ (خاشیہ) قوله قادریانی اگر راہ پر بھی ہو اقول نہایت بلغ اصلاح ہے جس سے دوسرا کی جڑی قطع ہوتی ہے یعنی اگر کسی کو وہ ہم ہو کہ شاید وہ حق پر ہو تو ہم انکار میں گنگہار ہوں گے جواب میں تقریر ظاہر ہے تو یہ اگر بسبب احتمال نہیں بلکہ بطريق فرض حال ہے۔ ۱۲

(۲۶۸) ایک شخص نے دہلی میں فقراء کو جمع کر کے دیریں بخمار کھادیوں کے بعد دودھ پیے سب کو دیئے مرزا سلطبر جان جانتا ہے فرمایا کہ مردا دی اگر بھی مظہور تھا تو اتنا حرج کیوں کیا اور جو چشمی (فقراء) تشریف فرماتے بدیں وجہ کہ اُن کا شعار ہے ایک لفظ بھی نہ بولے بلکہ خاموش رہے۔

(۲۶۹) کسی نے مرزا صاحب سے عرض کیا کہ میر درد ~~وہ~~ سامع سنتے ہیں فرمایا کہ کوئی آنکھ رہ ہوتا ہے اور کوئی کان رہ کیونکہ مرزا صاحب بغایت جمال پسند تھے حتیٰ کہ اگر کوئی چیز بے موقع دیکھتے تھے تو مکدر ہوتے تھے۔ (خاشیہ) قوله کوئی آنکھ رہ ہوتا ہے اقول یعنی میں آنکھوں کا بیمار ہوں مجھے کانوں کے بیمار کی ٹکایت کرتے ہو اور دو ہوں بزرگوں کی صورت پسندی و صوت پسندی از راه فلسفہ نہ تھی۔ ۱۲

(۲۷۰) اهدنا اور ربنا لا تزع غلوبنا کا درود ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ فقط

مقالات شریفہ حصہ سوم

بسم اللہ الرحمن الرحيم

(۲۷۱) فقیر (مولانا احمد حسن صاحب راوی مخطوطات) خدمت میں حاضر تھے ایک شخص پانی دم کروانے کو لایا حضرت نے بعد مرمٹ کرنے کے فرمایا کہ مجھ کو تعمیذ گذہ کچھ نہیں آتا، اکثر مشائخ کے تعمیذ گذہ سے خوب چلتے ہیں (بعض کاتاں بھی لیا وہ حضرت کے متولین و معتقدین میں ہیں)۔ بعض مشائخ نے مجھ کو عنایت کرنا چاہا میں نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ

خوازی اس کتاب میں مولانا احمد حسن صاحب مراد ہیں کیونکہ آپ ہی راوی ہیں۔ ۱۲

ایک دن فرمانے لگے کہ ہند میں ایک بونی ہے اس سے کیا خوب نہیں ہے بلکہ اسی وجہ سے مغربی لوگ الال ہند کو کیا گر جانتے ہیں تم اس کے الال ہو چاہو تو کیے لوئیں نے عرض کیا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے دنیا لے کر جانا نہیں چاہتا اگر کچھ باطن سے عنایت فرمائیے زہے قسمت یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دعا دی۔

(۲۷۳) فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور حافظ ضامن صاحب تھا نے راپور یا نافوت جاری ہے تھے جب جلال آباد پہنچے خیال آیا کہ اگر شاہ جمال صاحب مجذوب سے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہواں وقت (مجذوب صاحب) ایک گلی سے نکل کر پہنچے ہوئے سانے آگئے۔

(۲۷۴) فرمایا کہ ایک دفعہ میرے حوالی قلب میں بشدت درد تھا اس حالت میں بعض اوقات مجھے قیقهہ شروع ہو جاتا تھا اگرچہ شدت قیقهہ سے درد زیادہ ہو جاتا تھا مگر میں مجبور تھا۔ روک نہ سکتا تھا۔

(۲۷۵) فرمایا کہ حضرت داؤد طالی کی ہمیشہ کو ایک دفعہ چلنے میں خوکر لگی جس سے ناخن الگ ہو گیا ان کو قیقهہ شروع ہوا رفقاء نے سوال کیا کہ یہ وقت روئے کا ہے نہ ہنسنے کا۔ جواب دیا کہ مجھے اس کی پارادیش نظر آگئی اس کے رو برویہ درد کچھ معلوم نہیں ہوتا۔

(۲۷۶) فرمایا کہ جبریل امین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بعد صحبت دریافت کیا کہ مرض میں آپ کا کیا حال تھا، اور اب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مزہ یہاری میں تھا، وہ تندرنی میں نہیں ہے۔ یہاری میں ہر صبح کو حضرت حق سے آواز آتی تھی کہ اے ایوب علیہ السلام کیسے ہو؟ اس کے نشہ میں شام تک مت رہتا تھا۔ اور شام کو بھی ایک آواز اسکی ہی آتی تھی کہ صبح تک مست رہتی تھی بعد صحبت کے یہ آواز بھی نہیں آئی۔

(۲۷۷) فرمایا کہ جو مزہ میں نے فقر و فاقہ میں دیکھا اور اس میں میرے مراب کی ترقی ہوئی اور انہیاء تھیں اور ملاجک مقرر ہیں کی زیارت ہوئی اور انوار و تجلیات مجھ پر نازل ہوئے وہ امور پھر فراغت میں میسر نہ ہوئے۔ فرمایا فقر و فاقہ بڑی نعمت ہے حضرت رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں افقر فخری۔ (حاشیہ) توں افقر فخری اقول روایت بالمعنی کے اعتبار سے

پیشے کچھ حالت جذب کی ہو گئی پھر تو مولوی صاحب ہر وقت مجذوب جمال شاہ کی خدمت میں رہنے لگے بایں بہت کذائی کر کوئوں کا تھیلا لگے میں اور ناریل ہاتھ میں ان کے پیچے پیچے پھرتے تھے جب مجذوب صاحب کو حقد کی ضرورت ہوئی آپ (مولوی عبد الرحمن) ناریل تیار کر کے سامنے رکھ دیتے تھے جب مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا (وہی) مجذوب صاحب آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارا بوجہ نہ اخھا سکے دفعہ بوجہ اخھا لیا اگر تر بھجا اخھا تے تو سنجال لیتے فرمایا کہ مولوی عبد الرحمن صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے سطرا کھا تھا اخھا کر ایک نقش اس کی پشت پر لکھ کر مجھے فرمایا کہ یہ نقش پندرہ دفعہ زمین پر لکھ کر منادیا جاوے پھر لکھا جاوے میں نے کچھ توجہ نہیں کی اتفاقاً ایک مرتبہ آٹھ روز کا فاقہ ہو گیا میں نے اس نقش کو جیسا انہوں نے کہا تھا لکھا (اگرچہ انہوں نے کچھ تاثیر نہ بیان کی تھی مگر میں نے احتمال سے اس کو استعمال کیا) بہت فتوح ہوئی معلوم ہوا کہ نقش فتوح کا تھا میں نے دو چار مرتبہ لکھ کر پھر ترک کر دیا اور باوجود فقر و فاقہ کبھی استعمال نہیں لایا۔ چنانچہ ۱۲۹۹ھ میں جب میں (مولانا احمد حسن) حضور میں حضرت کے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اول مکہ مکرمہ آیا فقر و فاقہ کی بیان تک نوبت پہنچی کہ نو روز تک بجز رزم شریف کے کچھ نہ ملا تین چار دن کے بعد بعض احباب سے قرض مانگا انہوں نے باوجود وسعت انکار کیا مجھے معلوم ہوا کہ یہ امتحان ہے پس عہد کر لیا کہ اب قرض بھی نہ لوں گا اور ضعف سے یہ حالت تھی کہ نشت و برخاست دشوار تھی آخونوں میں حضرت خواجہ اجمیری عالم و اقعد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امداد اللہ تم کو بہت تکالیف اخھانی پڑیں اب تیرے ہاتھوں پر لاکھوں روپیہ کا خرچ مقرر کیا جاتا ہے میں نے انکار کیا کہ یہ امانت بہت سخت ہے ارشاد ہوا کہ اچھاتھماری مرضی مگر اب ماجراج خرچ تھیں ملا کرے گا تب سے بلا منت دیگرے مصارف روزمرہ چلتے ہیں۔

(۲۷۸) احضر (راوی) نے عرض کیا کہ بھی کوئی کیا گر بھی آپ کو ملا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں ملا بھی اور کیا بھی دینا چاہی مگر میں نے منظور نہیں کیا۔ چنانچہ جب میں مدینہ منورہ گیا اور کچھ روز قیام ہوا ایک بزرگ مغربی کو نے میں حرم کے بیٹھا کرتے تھے ان سے بھی ملتا تھا

امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق

رکھی ہے جب چاہیں گے مستفید ہوں گے آپ کی باتوں سے ہمارا دل پاش پاٹ ہوا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا گھبراو نہیں میرے بہت سے یار تھارے پاس موجود ہیں۔ ان کو میرا قائم مقام سمجھو خصوصاً حافظ ضامن صاحب کو حضرت پیر و مرشد نے مجع عالم میں تو بالصرع خلیفہ بنایا اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا۔ البته خاص لوگوں نے بالصرع یہی فرمایا کہ ہم نے فلاں فلاں کو اجازت عام دی ہے۔ بعد اس کے حضرت یہاں ہوئے فرمایا کہ مجھے میرے طلنِ حجھنجانہ لے چلو۔ جب چلتے وقت آپ تھانہ بھون تشریف لائے اور مسجد کے پاس میانہ رکھوا دیا۔ میں بھی حاضر خدمت شریف ہوا حضرت نے فرمایا کہ تم بحد تھے اور حافظ ضامن و مولوی شیخ محمد صاحب عیالدار میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و ریاست لوں گا مشیت باری سے چارہ نہیں ہے عمرنے وفات کی جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا میں پئی (میانہ) کی پکڑ کر رونے لگا۔ حضرت نے تشقی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے۔ صرف ایک مکان سے دوسرا مکان میں انتقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہو گا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا (حضرت صاحب نے) کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا، جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔

(۲۸۲) بیان فرمایا کہ میرے بڑے بھائی شیخ ذوالفقار علی صاحب جب ملک ہنگاب سے واپس آئے اور مجھ کو اور ادا کاشائی پایا۔ فرمانے لگے کہ مجھ کو ایک فقیر نے ایک عمل بتالیا ہے تم سیکھ لو میں نے اس کو ان سے لے لیا۔ ایک مرتبہ میرا دلی جانا ہوا۔ وہاں عبداللہ مند شین درگاہ حضرت صابر بخش نے تقریب عرس میں مجھ کو بلوایا اور کسی اپنے مرید کا ہاتھی سواری کو بھیجا جب میں ان کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بڑی شان و شوکت سے جمع ہیں میں فقیرانہ حالت سے گیا تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی تمام لوگ انھ کھڑے ہوئے اور دست بوی کر کے مند صدر پر بھایا۔ مجھ کو بڑا تعجب تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جب رات کو وظیفہ پڑھنے لگا۔ تب خیال ہوا کہ یہ سب اسی وظیفہ کا اثر ہے۔ خواب میں حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ اس اعزاز سے کیا حاصل مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس عمل سے ناراض ہیں اسی وقت ترک کر دیا پھر نہیں پڑھا۔ (حاشیہ) قوله تقریب عرس میں مجھ کو بلوایا، اقوال مکن ہے

حدیث فرمادیا گیا۔ ۱۲

(۲۷۹) فرمایا کہ میرے حضرت یعنی میاں جیو صاحب باوجود اختاء احوال کے ایسا تصرف قوی رکھتے تھے کہ جنم سے عقل جنم ہو جاتی تھی۔ حافظ محمود صاحب داما مولا نا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبہ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں بعد بیعت کے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھے تصور شیخ کی اجازت دیجئے تا کہ تصور شیخ کیا کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب محبت و عقیدت غلبہ کرتی ہے تب تصور شیخ کون کرتا ہے غلبہ محبت سے تصور شیخ خود بخود بڑھ جاتا ہے حضرت کے اس فرمانے سے ایسا تصور شیخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگہ صورت شیخ کی نظر آتی تھی چلتے چلتے جنم ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ صورت شیخ کی سامنے کھڑی ہے جہاں نہ مرمٹ رکھتے ہیں وہاں بھی صورت شیخ موجود ہے نماز میں بجہہ کی جگہ صورت شیخ دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دیتے تھے۔ حضرت سے عرض کیا کہ اب تو نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے کس کی نماز پڑھیں حضرت کی ادنیٰ توجہ سے جیسے یہ حالت پیدا ہوئی تھی جاتی رہی اور دوسری حالت ہو گئی۔

(۲۸۰) اسی ضمن میں اپنے دادا ہیر کا بیان فرمایا کہ ایک ڈوم آپ سے مشرف بہ بیعت ہوا اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی وظیفہ بتالیے حضرت نے کسی امر شنیع سے منع نہیں کیا صرف یہ فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنواں وقت نماز میں شامل ہو جاؤ چاہے جس شغل میں ہو اسے ترک کر دیا کرو بعض معتقدین نے عرض کیا کہ اس کو گانے بجانے سے کیوں نہ منع فرمایا جواب دیا کہ میرے دل میں القا کیا گیا کہ ان الصلة تھی عن الفحشاء والمنکر اس ڈوم نے حضرت کے حکم کو اپنے اوپر واچب کر لیا اور بفور نہیں اذان کے مسجد میں چلا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب گانے بجانے کا وقت ہوتا تھا تو کسی سے کہہ دیتا تھا کہ اذان ہو تو مجھے بتا دینا ایسا نہ ہو کہ شور و غل میں اذان نہ سنوں اور حضرت کے حکم کی قیل نہ ہو سکے۔ تھوڑے دنوں میں وہ ڈوم سب باقی ترک کر کے حضرت کی خدمت میں آ بیٹھا۔

(۲۸۱) فرمایا کہ ایک دفعہ میرے حضرت بعد نماز جم کوئی وہیست کرنے لگے جس سے لوہا دی والے بہت مغموم ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں دولت

گھوڑے کی ٹاپ سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پر شرہ مجبت کا ہے۔

(۲۸۶) فرمایا کہ مفتی الہی بخش صاحب حدیث کامستن پڑھار ہے تھے۔ طلبان کے گردان بیٹھتے تھے اور خود تخت یا پلٹک پر لیٹئے تھے۔ اسی حالت میں حدیث شریف کا سبق ہو رہا تھا۔ حضرت دادا بیر صاحب سبق سننے کے لیے اس حلقة میں تشریف لے گئے۔ مفتی صاحب گھبرا کر بیٹھ گئے۔ اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب حضرت کو دیکھا تو فرمائے گئے کہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں یا انوار و برکات آپ کی تشریف آوری کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔ (حاشیہ) قوله اور خود تخت یا پلٹک پر لیٹئے تھے۔ اقول ممکن ہے کہ کتابیں اونچی رہتی ہوں ہاتھوں میں یا کسی تپائی اونچی پر۔ ۱۲۔

(۲۸۷) فرمایا کہ مولانا مولوی محمد صادق صاحب بیان فرماتے تھے کہ چالیس برس سے مجھ سے میا بھجو نور محمد صاحب سے ملاقات ہے اس چالیس سال میں کبھی آپ کی عجیب اولی فوت نہیں ہوئی۔ الاستقامة فوق الكرامة۔ آپ کی استقامت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

(۲۸۸) فرمایا کہ میں نے ایک بار حضرت پیر دمرشد کی شان میں ایک شخص کہا چونکہ مجھے میں تاب سنانے کی نہ تھی، کسی اور کی معرفت حضرت کو سنوایا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا اور رسول ﷺ کی صفت و ثانیان کرنا چاہئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے غیر خدا اور رسول کی مدح نہیں کی تیرے رے روز حضرت نے فرمایا کہ شاہ عبدالریم صاحب نے تم کو سرخ رنگ کا جوڑا عنایت کیا ہے گویا وہ خلعت صد اس شخص کا تھا۔ فرمایا کہ کپڑے رنگیں سرخ کنایا یہ دو امر کا ہوتے ہیں ایک مرتبہ محوبیت دوم شہادت محوبیت کا مرتبہ تو ہر دو لوگوں کو ملتا ہے تم کیسے اس کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ البتہ مرتبہ شہادت عطا ہو تو یہ نہیں (یہ شخص آپ کا انکسار ہے۔ ورنہ رتبہ محوبیت میں کیا کلام ہے تمام مخلوق عوام و خواص کا آپ کو نظر مجبت سے دیکھنا اس کی دلیل ہے جیسا کہ صحافت میں حدیث وارد ہے کہ جب خدا کسی کو اپنا محوب بناتا ہے جبراً ایں امین سے کہتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو اپنا محوب بنایا ہے تم اس کو اپنا محوب سمجھو اور آسان و زیمن میں اس کی محوبیت کی منادی کر دو۔ پھر تمام مخلوق اس سے بنظر مجبت پیش آتی ہے)۔ اس شخص کے چند اشعار یہ ہیں۔

کہ مکرات سے خالی ہو۔ پس اس سے استدلال نہ کیا جاوے۔ ۱۲۔

(۲۸۹) فرمایا کہ میرے دادا بیر حضرت شاہ عبدالریم صاحب و شیخ محمد جان صاحب ولایت سے خدا کی طلب میں ہندوستان تشریف لائے اور رحم علی شاہ سے خاندان قادریہ میں بیعت کی۔ بعد ان کے انتقال کے پھر طلب کا تقاضا ہوا پھر تے پھر تے امر وہ پہنچ دہاں حضرت شاہ عبدالباری کی شہرت تھی۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند دن بعد شاہ عبدالباری صاحب کو مطالعہ مشنوی شریف کی کیفیت ہوئی۔ خدام سے کہا کہ محمد جان سے کہہ دو کہ تمہارا حصہ شاہ غلام علی صاحب دہلوی کے یہاں ہے اور شاہ عبدالریم صاحب کو میرے پاس بلا لاو۔ جب شاہ عبدالریم صاحب حاضر ہوئے حضرت نے ان پر اسی کیفیت میں نظر ڈالی۔ پہلے تو شاہ صاحب کو حالت گریہ طاری ہوئی بعدہ قیقهہ شروع ہوا مگر دوسری حالت شاہ عبدالباری صاحب کی بھی ہوئی دونوں صاحب باغ میں تشریف لے گئے اسی حالت میں شاہ عبدالریم صاحب کا مقصد دلی حاصل ہوا۔ غالباً ۱۲۶۱ھ میں شیخ محمد جان سے کہ جبل ابو قبیس پر رہتے تھے اور مریع خلائق تھے وقت زیارت خرمن سناء ہے۔

(۲۸۴) فرمایا کہ مومن خان صاحب دہلوی فرماتے تھے کہ ایک بار چند حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث شریف پڑھ رہے تھے شاہ صاحب نے تذکرہ اکابر دین کا کیا ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرسوں ہمارے پاس فلاں خلیہ کا ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آؤے گا۔ وہ مرد کامل ہے اور مست وقت بھی معین کر دیا۔ ہم لوگ روز موعود میں زینت المساجد میں کہ کنارے جمنا کے واقعہ ہے ان کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ وقت مقررہ پر دریا کے کنارہ سے اسی خلیہ کے ایک بزرگ صاحب نمودار ہوئے ہم لوگ دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے وہ شاہ عبدالریم تھے۔ مومن خان صاحب اس واقعہ کی وجہ سے مجھ سے بہت مجبت کرتے تھے۔

(۲۸۵) فرمایا کہ جزء علی خان رئیس لوہاری حضرت عبدالریم صاحب کے مرید تھے ان پر ایسا رعب غالب تھا کہ حضرت کو دیکھنے سکتے تھے۔ دیکھتے ہی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ لہنکا اگر زادہ مکان میں ہوتے اور حضرت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لاتے تو وہ

تم ہوئے نور محمد خاص محبوب خدا ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ بن علیہ السلام تم مدگار مدد امداد کو پھر خوف کیا عشق کی پرسن کی باتیں کاپنچے ہیں دست و پا اے شفیع محمد وقت ہے امداد کا جام الافت سے ترے میں ہی نہیں اک جرجعنوش سینکڑوں در پر ترے مدھوش ہیں اے فرش دل میں ہے ان کے محبرا اک بادہ وحدت کا جوش پر یہی کہہ اٹھے ہیں جب ہے آیا ان کو ہوش اے شفیع محمد وقت ہے امداد کا

آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم اوروں سے ہرگز نہیں ہے ابھی بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا اے شفیع محمد وقت ہے امداد کا

(حاشیہ) قوله غیر خدا رسول کی مدح نہیں کی اقول یعنی جب مشاء اس مدح کا آپ کا تعلق خدا اور رسول کے ساتھ ہے تو آپ کی مدح خدا اور رسول ہی کی مدح ہے۔ ۱۲

(۲۸۹) فرمایا کہ حضرت شیرخال صاحب جب حالت نوکری میں وقت شب ذکرنی داشت کرتے تھے تو ان کے منہ سے ظلمت و نور و نوں نکلتے تھے۔ مدت تک کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں ذکر کر رہے تھے ایک شخص کا اوہر گزر ہوا اس نے دیکھا کہ مسجد میں کبھی اندر ہمیرا ہو جاتا ہے اور کبھی روشنی ہو جاتی ہے تھیر ہو کر سبب دریافت کرنے کو مسجد کے اندر آیا۔ آپ کو دیکھا کہ ذکر میں مصروف ہیں جب لا الہ کہتے ہیں منہ سے ایک تار کی نکلتی ہے اور جب الا اللہ کہتے ہیں روشنی نمودار ہوتی ہے بعدہ اور کئی آدمیوں نے دیکھا اور اس کا چچا ہونے لگا جب شیرخال صاحب کو اطلاع ہوئی چونکہ آپ کو توبہ پر تو پھر و مرشد کے اظہار کمال سے تغیر تھا گمرا کرنے کی چھوڑ دی۔ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کی حیات ہی میں انتقال فرمایا۔ (حاشیہ) قوله منہ سے ایک تار کی نکلتی ہے اقول یہ صورۃ مثایہ تھی نئی کی اور روشنی صورۃ مثالی تھی اثبات کی اس کا ظہور کرامت تھی شیرخال صاحب کی ورنہ یہ ظہور نہ لازم ہے نکمال۔ ۱۲

(۲۹۰) میں (راوی مخطوطات) حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت

شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سارہ تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روئیوں کا محتاج ہوں، کچھ دیگری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھ آنے روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی خاطر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ (حاشیہ) قوله وظیفہ مقررہ، اقول یہ مجملہ کرامات کے ہے۔ ۱۲

(۲۹۱) فرمایا کہ جہاں میرے حضرت پیر و مرشد کا مزار ہے وہاں ایک احاطہ امام سید محمود صاحب کا مشہور ہے اور اس احاطہ میں کسی خی قبر کا حکم نہ تھا۔ آپ وہاں اکثر جایا کرتے اور دیر یک مشغول رہتے تھے۔ انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ اگر ممکن ہو مجھے اسی جگہ جہاں میں اکثر جاتا ہوں۔ فتن کرنا وہاں سے مجھے بوئے انس آتی ہے۔ الحاصل وہاں کے مجاہروں کو کچھ دے کر آپ کا مزار وہاں بنا یا گیا۔ لیکن مجاہروں میں باہم تکرار ہوئی کہ نئی قبر کس نے بنوائی اور سر بازار زراعت ہوئی اسی حالت تکرار میں ایک آدمی کو کچھ غنومنگی کی طاری ہوئی دیکھا کہ حضرت پیر و مرشد و سید محمود صاحب فضیل احاطہ پر کھڑے ہیں اور حضرت اپنا ہاتھ سید صاحب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے بعض مجاہروں ناراض ہیں اب ہم یہاں نہ رہیں گے لیکن سید محمود صاحب نہیں چھوڑتے اور فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک ہی تو یار غار ملا ہے ہم کسے چھوڑیں گے اور اس تکر کو بہت لعن کیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے انکار سے بازاً یا اور یہ کیفیت عام طور سے مشہور ہو گئی۔ اور جنہوں نے بابت فتن کے روپ یہ لیا تھا بہشت و سماجت و اپنیں کیا۔

(۲۹۲) فرمایا کہ مزار مقدس آپ کا خام ہے البتہ حلقہ پختہ ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ ایک ہاتھ سے اونچا کر دیں۔ آپ نے کسی کو خواب میں اشارہ کیا کہ خلاف سنت نہ کرو۔ ایک ہی با تھکا اونچا رہنے دو۔

(۲۹۳) فرمایا کہ حضرت پیر و مرشد کے کوئی قریب جو کو تشریف لائے مجھ سے دریافت کیا کر اجازت ہو تو قبر مبارک از سر نو درست کر دی جائے۔ میں نے کہا کیا مضاائقہ ہے بعض

امداد المنشاق الى اشرف الاخلاق

۱۷

(مولانا احمد حسن صاحب نے) عرض کیا کہ کیا مجرد محبت بدول ذکر و شغل کے بھی مفید ہوتی ہے۔ فرمایا مفید ہوتی ہے۔ بلکہ شیخ کامل کی پیچان کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شیخ کی محبت سے دنیا سے دل سرد ہوتا جاتا ہو۔ اور عقیقی کی طرف میلان زیادہ ہو تو وہ شیخ کامل ہے۔ اور اگر وہ شیخ مکار ہے تو اول بابت تشبیہ ظاہری کے دل میں پہنچا انوار ظاہر ہوں گے۔ مگر بعد کو تیرگی ہو جاوے میں مناسب اس کے حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امام حسن بن علوی کثرت سے نکاح کرتے تھے اور بہت جلد طلاق دے دیتے تھے، ایک شخص کی کئی لڑکیاں تھیں اس نے حضرت سے یہے بعد دیگرے سب کا نکاح کر دیا، اس کے احباب نے پوچھا کہ باوجود دیکھے حضرت امام حسن بن علوی کمہاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتے ہیں پھر کیوں دوسرا لڑکیوں کا نکاح ان سے کرتے ہو۔ اس میں کیا اسرار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت امام صاحب حسب ارشاد نبوی ﷺ جتنی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا جسم شریف میری لڑکیوں سے مس ہو جاوے تاکہ وہ سب کی سب بدولت آپ کی محبت کے پاک و جنتی ہو جائیں۔ (حاشیہ) قول فرمایا مفید ہوتی ہے۔ اقول یعنی یہ فائدہ عمل سے مستغفی نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے استعداد عمل کی قوی ہو جاتی ہے پھر وصول الی المقصود عمل سے ہوتا ہے۔ اقول وہ سب کی سب بدولت آپ کی محبت کے پاک و جنتی ہو جائیں۔ اقول اس فضیلت صحابی پر غیر صحابی کا قیاس مع الفارق ہو گا۔ کیونکہ یہ برکت منصوص ہے مگر مقصود اس سے مطلقاً برکت کا اثبات ہے۔^{۱۲}

(۲۹۸) فرمایا کہ جب ۱۴۶۱ھ میں حج کو آیا تھا تو بذریعی میں اتر کر حضرت ابو الحسن شاذی کی زیارت با سعادت سے شرف اندوز ہوا اور حضرت زین الدین منذشین درگاہ حضرت ابو الحسن سے بھی ملاقات ہوئی ان سے حزب البحر کی اجازت حاصل ہوئی۔ اگرچہ اس کی اجازت مجھے حضرت پیر و مرشد سے تھی۔ مگر تیرکا دوسرا اجازت بھی ان سے حاصل کر لی۔ کیونکہ جامع حزب البحر کے حضرت ابو الحسن شاذی تھے۔ ان کے خاندان سے اجازت لینا نور علی نور ہے۔ طریقہ زکوٰۃ جوان سے مجھے حاصل ہوا ہے بہت سہل ہے اور حزب البحر کے ساتھ طبع ہو گیا ہے۔

فقہاء جائز کھتھی ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے منع کر دیجا۔ جس حزار سر اپا انوار سے میں نے فیض حاصل کیا ہو میرے نزدیک اس کی درستی و اصلاح تو فرض ہے۔ (حاشیہ) قوله میرے نزدیک اس کی درستی و اصلاح تو فرض ہے اقول جائز ہے اور درستی سے پچھلی لازم نہیں تطمیں بھی کافی ہے۔ آگے عموم کا فعل ہے جس کی اجازت ثابت نہیں۔^{۱۳}

(۲۹۹) فرمایا کہ امر وہ میں ایک ہندو تھا وہ حضرت عبدالباری رضی اللہ عنہ سے کمال اعتقاد رکھتا تھا۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے تو عویذ دیجئے۔ حضرت نے توعیذ دے کر فرمایا کہ ابھی تو اپنی بیوی کے بازو پر باندھ دو اور بعد تولد فرزند اس کے بازو پر باندھ دینا۔ توعیذ کی برکث سے اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ سن تیز کو پہنچا بغواۓ بعض ہنود اس توعیذ کو کھول ڈالا۔ اس میں ازری بھنیری ساون آیا لکھا تھا یہ پڑھ کر اس نے توعیذ پھینک دیا۔ توعیذ پھینک کر وہ نہانے کو گیا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ (حاشیہ)

قولہ ازری بھنیری ساون آیا اقول اس میں خلاف شرع تو کوئی بات ہے نہیں رہ گئی مناسبت مخصوص کی سو یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں مقصود تسلی ہوتی ہے حاجت مند کی سودہ بدول مناسبت بھی حاصل ہے۔^{۱۴}

(۳۰۰) اس امر کا تذکرہ تھا کہ عارف جنتی و دوزخی کو اسی عالم میں جان لیتا ہے مناسب اس کے حکایت بیان فرمائی کہ ہمارے پیر بھائی شیخ امام الدین تھانوی ایک مرتبہ پیر و مرشد کے ساتھ حجحانے گئے تھے اور وہ زمانہ حضرت کے مرض الموت کا تھا۔ جب شیخ صاحب اپنے دل و اپس آنے لگے حضرت نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہواں کو دیکھ لے۔ (حاشیہ)

قولہ عارف جنتی و دوزخی کو اسی عالم میں جان لیتا ہے اقول یعنی ظنانہ کے قطعاً۔^{۱۵}

(۳۰۱) فرمایا کہ حضرت حافظ خاص میں صاحب میرے پیر بھائی مقام منصور میں چھ مہینے رہے مگر بسبب توجہ پیر و مرشد ماما الحنف کا نہیں مارا اور کبھی کلمات شطبیات زبان پر نہیں لائے۔ بلکہ اس کی میں مستغفی رہتے تھے اور ذکر قلبی ولسانی دونوں ایک وقت میں کرتے تھے۔ اور یہ اجتماع بہت مشکل ہے۔

(۳۰۲) مثنوی معنوی کے درس میں شیخ کامل کی محبت کے فوائد کا بیان تھا۔ میں نے

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۱۱۹

(۳۰۲) فرمایا کہ میں دوسری مرتبہ مکرمه میں داخل ہوا، مجھے منتوی معنوی کا براشون تھا اور حرم شریف میں چند موضع میں درس منتوی شریف ہوتا تھا۔

(۳۰۳) فرمایا کہ حافظ غلام مرتضی مجدوب پانی پت سالک مجدوب تھے۔ حال سلوک میں ان کو جذب ہو گیا تھا۔ ہماری بستی میں اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک بار غل ہوا کہ غلام مرتضی پھر مار رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ مجھ کو دیکھ کر انہوں نے پھر مارنا چھوڑ دیئے اور مجھے قریب بلایا میرے ہاتھ میں کوئی کتاب عشق کی تھی اس کے اوراق کھلوائے گئے۔ جب یہ شعر نظر پڑا۔

عشق اول عشق آخر عشق بکل عشق شاخ عشق خل عشق گل

مجھ کو اشارہ کیا اور بشارت غلبہ توحید کی دی۔ فرمایا کہ جو اسرار توحید میری زبان سے پیساختہ نکل جاتے ہیں، یہ اسی بشارت کا شہر ہے۔

(۳۰۴) فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے حافظ غلام مرتضی سے ملاقات ہوئی۔ مجھے بشارت دی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے حوصلہ کے موافق یا آپ کے؟ فرمایا میرے موافق میں بہت خوش ہوا۔

(۳۰۵) فرمایا کہ ایک دفعہ میں صحراء میں پھر رہا تھا۔ ایک جھاڑی میں کچھ آثار آدمی کے معلوم ہوئے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ وہی مجدوب صاحب ہیں۔ مجھ کو دیکھ کر بیندھ گئے۔ میں بھی بیندھ گیا۔ مجھ کو توجہ جذب کی دینا شروع کی۔ جب مجھے آثار جذب معلوم ہونے لگے میں نے حضرت پیر و مرشد کا تصور کیا اسی وقت حضرت میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجدوب صاحب تبسم کرنے لگے میں نے عرض کیا کہ تمہاری طرح مجھ کو دیوار گئی پسند نہیں ہے۔

(۳۰۶) فرمایا کہ ایک بار میں ان مجدوب کے پاس گیا میرے پاس ایک لگنی تھی۔ فرمانے لگے کہ اس کو بچا دو۔ مولوی قلندر صاحب مع اپنے معشوق کے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب کہاں ہیں۔ فرمایا بھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مولوی قلندر صاحب مع محمد حسین صاحب کے کہ ان سے محبت کرتے تھے آئے مجدوب صاحب نے ان کو میری

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۱۱۸

(۲۹۹) فرمایا کہ جب میں مکرہ میں مہاجر ہو کر آیا یہاں کے اکثر مشائخ سلسلہ ظاہریہ و باطنیہ کے تھے وہ مجھ سے بالفت تمام پیش آتے تھے ایک بار میں عمرہ کے لیے تعمیم کو جارہا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ میں تازہ ہند سے آیا تھا ایک مرد صالح مجھ کو دیکھ کر اپنی سواری پر سے اتر پڑے اور جب میں آگے نکل گیا، تب وہ سوار ہوئے لوٹتے وقت پھر وہ ملے اور ایسا ہی کیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کے بعد ایک شخص نے میری دعوت کی جب میں ان کے مکان پر پہنچا، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو مسجد تعمیم کی راہ میں ملے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ بڑے نای گرامی و صاحب سلسلہ بزرگ مکہ مظہر میں ہیں نام مبارک ان کا ابراہیم رشیدی ہے۔ جو ملاناوب صاحب و محمد اسماعیل صاحب کے بیوی و مرشد ہیں فرمایا کہ ابراہیم رشیدی صاحب آغا الماس کی رباط میں کئی بار میری خلوت میں تشریف لائے۔ اور بہت عنایت فرماتے تھے اور جب ملے تھے تو فرماتے تھے: محبتک فی فوادی اور اپنے قلب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

(۳۰۰) فرمایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی۔ میں نے حظیم میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ تین سو سانچہ یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو۔ اور تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو۔ یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی کالا سا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہو گیا اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی جب میں نے نماز ختم کی وہ بھی سلام پھیر کر چلا گی۔ (حاشیہ) قوله تم لوگ تین سو سانچہ یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو، اقول اہل کشف کو اتنے عدد میں اولیاء کا اکثر اوقات حاضر حرم رہنا معلوم ہوا ہے اور غالباً یہ مشکل باطنی تھی۔ ۱۲

(۳۰۱) فرمایا بلکہ مطابق میں بعض وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے انوار میں طواف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سبھی دل چاہتا ہے کہ ان کے انوار و تجلیات کو دیکھا کرے اور بعض وقت ایسی ظلمت افعال شنیدہ طائفین کی ہوتی ہے کہ قلب مکدر ہو جاتا ہے اور طواف میں لذت و حظ نہیں آتا۔

لئگی پر بخانا چاہا۔ مولوی صاحب نے انکار کر کے کہا کہ مجھ سے رسول مقبول ﷺ کو ناراض کرنا چاہتے ہو۔ مجدد صاحب مولوی قلندر صاحب کی بڑی تعظیم کرتے تھے حتیٰ کہ اگر ننگے ہوتے تو اسی وقت کل اپنی شرمگاہ پر ڈال لیتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مولانا قلندر صاحب کو جذاب سرور عالم ﷺ سے نسبت حضوری تھی۔ (حاشیہ) قوله اگر ننگے ہوتے اقول یعنی بے خبری میں بدن کھل جاتا اور شرمگاہ سے مراد کل بدن مستور اور اتنی خبرداری سے مکف ہونا لازم نہیں۔ کیونکہ اتنی خبر درستی حواس سے بھی ہو سکتی ہے اور مدار تکلیف کا درستی عقل کی ہے۔ ۱۲

(۳۰۹) فرمایا کہ اسی سال ایک شخص محمود رافع نام باشندہ طراملیں نے ہماری مولوی عبد الوہاب صاحب میرے پاس آ کر استدعاۓ بیعت کی اور بیان کیا کہ میرے والد مفتی عبدالغنی صاحب نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ تم مکر مہ میں بیٹھے کیا کرتے ہو، حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کیوں نہیں کرتے۔

(۳۱۰) فرمایا کہ میں حرم میں بیٹھا تھا۔ ایک شخص مسکی عبدالحنن باشندہ آسام میرے قدموں پر آ کر گرا اور کہنے لگا کہ میرے والد اولیاء کرام سے تھے۔ مجھ کو آپ کی صورت مقدس دکھا کر حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت کروں، اسی حلیہ خواب کو آپ سے موافق پا کر حاضر ہوا ہوں۔

(۳۱۱) فرمایا کہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں۔ محجوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا آگبٹ کوتباہی سے نکال دیا۔ (حاشیہ) قوله خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور آگبٹ کوتباہی سے نکال دیا۔ (حاشیہ)

(۳۱۲) فرمایا کہ خدا جانے تو یہ موقع اچھی خاصی شہادت کا تھا۔ ۱۲

(۳۱۳) مولوی غلام خیں صاحب نے مک مظلوم میں خواب دیکھا کہ ایک جمع میں حضرت صاحب کا ایک مرید کہہ رہا ہے کہ حضرت ختم الرسلین ﷺ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب دیگر اولیاء سے سبقت لے گئے ہیں۔ (راوی ملفوظات نے کہا کہ مرید کو اپنے پیر سے ایسا ہی اعتقاد رکھنا چاہیے) مولوی صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنا اعتقاد تو بیان نہیں کرتا، بلکہ حضرت رسول مقبول ﷺ کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ خواب عرض کیا گیا فرمایا کہ عجب معاملہ ہے کہ تم لوگ کیا کیا دیکھتے ہو اور مجھے کیا کیا اعتقاد ذمہ ہے۔ بعد صحت کے میں خود دیکھ لوں گا۔ حضرت صاحب نے اس کیفیت کو مجھ سے بھی

(۳۰۸) فرمایا کہ شاہ احمد سعید مجھ سے پہلے مدینہ منورہ تعریف لے گئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ بہت مریض تھے۔ ترک لوگ قلعہ میں معافی کے لئے اخراج لے گئے تھے۔ ترک ان کی بہت تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ کیونکہ ترک اکثر خالد یہ ہیں اور خالد صاحب نے شاہ غلام علی صاحب دہلوی سے طریقہ نقشبندیہ اخذ کیا تھا اور شاہ احمد سعید صاحب شاہ غلام علی صاحب کے باتوسط مرید و خلیفہ بلا واسطہ تھے جب میں ان کو دیکھنے لگا جاؤ جو جود بقاہت مجھ کو دیکھ کر کہا کہ مجھے بخواہ، حاجی صاحب آتے ہیں بعد سلام مسنون کے شاہ عبدالغنی صاحب سے کہا کہ جب تک میں مریض ہوں حاجی صاحب کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ بعد صحت کے میں خود دیکھ لوں گا۔ حضرت صاحب نے اس کیفیت کو مجھ سے بھی

کرتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا حالانکہ خدا کی لوئیں لگ جانا اس کی یاد میں مشغول ہونا بڑی نعمت ہے۔ اگر خداوند کریم خود جذب نہ فرماتا تو کوئی کیسے اس کی یاد کرتا۔ بندہ کو بندگی کرنی چاہیے خداوندی خدا کے اختیار میں ہے اس سے پہلے رات کو حرم شریف میں بعض لوگوں نے شکایتا آپ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ہمارے حال پر کچھ توجہ نہیں فرماتے۔ صحیح کو حضرت نے انہیں سے مخاطب ہو کر یہ راز فرمادیا۔

(۳۱۷) فرمایا کہ بدول مجاهد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے: والذین جاهدوا فیلنا لنھدینهم سبلنا۔ پھر اسی کے موافق فرمایا کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں کہ یہ فقیر عالم شباب میں اکثر راتوں کوئیں سویا۔ خصوصاً رمضان شریف میں بعد مغرب دو لڑکے نابالغ حافظ یوسف ولد حافظ ضامن صاحب و حافظ احمد حسین میرا بھیجا سوا اپارہ عشاء تک نہ سناتے تھے، بعد عشاء دو حافظ اور سنا تے تھے، ان کے بعد ایک حافظ نصف شب تک اس کے بعد تجدید کی نماز میں دو حافظ اور غرض کے تمام رات اسی میں گزر جاتی تھی۔

(۳۱۸) فرمایا کہ اکثر لوگ توحید وجودی میں غلطی کر کے گراہ ہو جاتے ہیں تمیل بیان فرمائی کہ کسی گروکا ایک چیلہ توحید وجودی میں مستغرق تھا راستے میں ایک فل مسٹ ملا اس پر فل بان پکارتا آتا تھا کہ یہ ہاتھی مسٹ ہے میرے قابو میں نہیں ہے۔ اس (چیلہ) کو لوگوں نے بہت منع کیا، مگر اس نے نہ مانا اور کہا وہی تو ہے اور میں بھی وہی ہوں خدا کو خدا سے کیا ذر۔ آخر ہاتھی نے اسے مارڈا لاجب اس کے گرونے یہ خال سا گالی دے کر کہا کہ ہاتھی جو مظہر مضل تھا، اس کو تو دیکھا اور فل بان کو کہ مظہر ہادی تھا نہ دیکھا ہادی و مضل اوپر نیچے جمع تھے۔

گرفق مرائب نکنی زند یعنی

(۳۱۹) مشنوی معنوی کے درس میں جذب کا ذکر تھا۔ حضرت نے جذب کی تعریف کر کے فرمایا کہ خاندان چشتیہ میں آخر کو اکثر جذب غالب ہو جاتا ہے مناسب حال حکایت حضرت علام الدین علی احمد صابر قدس سرہ کی بیان فرمائی کہ ایک خادم قول نے حضرت عجیح شکر سے اجازت ناگئی کہ آپ کے خلفاء کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ بعد اجازت کے وہ

کرتے ہو۔ حالانکہ مجھ میں کچھ بھی کمال نہیں ہے صرف اللہ کی ستاری ہے۔ میرے عیوب چھپا رکھے ہیں۔ امید ہے کہ اسی طرح عاقبت میں بھی اپنے فضل و کرم سے میرے جرام کسی پر ظاہر نہ کرے گا اس خواب کا تذکرہ کتنی بار حضرت نے فرمایا۔ (حاشیہ) قوله اس خواب کا تذکرہ کتنی بار حضرت نے فرمایا، اقول یہ تحدث بالعمدة ہے ورنہ افباء دعوے تو اور پر کے ارشاد سے ظاہر ہے۔ ۱۲

(۳۲۰) فرمایا کہ دہلی میں چند مشائخ کامل معاصر تھے، چشتیہ نظامیہ میں حضرت فخر الدین صاحب اور قادریہ میں حضرت میر درود صاحب نقشبندیہ میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور صابریہ میں حضرت غلام سادات صاحب۔ فرمایا کہ حضرت غلام سادات صاحب کے تھانے بھومن میں اکثر لوگ مرید تھے، اس وجہ سے وہ اکثر یہاں تشریف لاتے تھے، ایک مرتبہ آپ آئے تو تمام لوگ ملاقات کو گئے مگر حافظ ضامن صاحب کے دادا میر عبدالغنی حاضر نہ ہوئے، آپ نے دریافت کیا کہ میر عبدالغنی کیوں نہیں آئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا ایک حسین و جميل جوان لڑکا انتقال کر گیا ہے اس وجہ سے وہ محبوب المواس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار انہیں میرے پاس لاؤ، مگر وہ نہ گئے۔ اتفاقیہ راستے میں حضرت غلام سادات کو لے گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ عشق برمردہ نباشد پائیدار۔ اسی وقت ان کا خطب جاتا رہا اور عشق حق غالب ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھ رہے اور خدا کی یاد میں راہیں ملک بقا ہوئے۔

(۳۲۱) فرمایا کہ رامپور میں ایک شخص یوسف نام میرے مرید رہتے تھے ان کو کسی سے عشق تھا۔ اتفاقاً میر اور ہان جانا ہوا۔ میری طبیعت میں گری غالب تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جس صورت پر تم عاشق ہو، وہ یہاں بھی تو موجود ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا حال بدل گیا۔ اور پہلی محبت محو ہو کر جدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب تک میرا قیام رامپور میں رہا مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ جب میں مکان پر چلا آیا تو وہ اکثر وہاں آتے تھے اور تھوڑے دن رہ کر پہلے جاتے تھے۔

(۳۲۲) فرمایا کہ اکثر لوگ ناشرکی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں کہہتے ہیں کہ ہم ذکر و غفل

ہے وہ بہتری ہے اور تیز عاشق کے رنج و راحت مرض و محنت دونوں یکساں ہیں جو لطف و مزیدار کے انعام و اکرام میں ہے وہی الطف و چین اس کے قبودایزہ امیں ہے۔

(۳۲۱) فرمایا کہ ایک سال یا دو سال ہوئے مصر سے ایک پاشا آیا اس کو مجھ سے لئے کا بہت شوق تھا۔ رات کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تھا۔ صبح کوئی بارشی خارہ کے ذریعے سے میرے مکان پر دریافت کرایا کہ شیخ بالاخانہ سے اترے یانہیں۔ میرے نیچے آتے ہی وہ بھی بھر اسی شیخی خارہ آئے، بیاس شاہی میں فقیر کاں تھے، مجھ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا روم کے خاندان میں بیعت رکھتے تھے، چند اشعار منشوی معنوی کا مطلب مجھ سے دریافت کیا اور بعد دریافت مطلب بہت مسرور ہوئے اور ان کو زیادہ عقیدت ہو گئی۔

(۳۲۲) فرمایا کہ نماز کا کشف بہت صحیح ہوتا ہے اس لئے کہ نماز مضر ارجمند ہے اس میں حضوری حق ہوتی ہے۔ میں دربار خداوندی سے جو کشف ہوگا، وہ ضرور موافق نفس الامر کے ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب امیر جپوش جہاد کی حالت نماز میں کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ خیالات نماز میں کچھ نقصان نہیں دیتے ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب کے واقعہ کی مدد لاتے ہیں اور یہ نہیں بحث کرو۔ حضوری حقی خیالات غیریت نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ فیضان باری تھا کہ یعنی حالت مناجات و حضوری میں حضرت عمر بن الخطاب کو کشف ہوتا تھا۔

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گر نماید در نوشتن شیر و شیر
آں کیکے شیرے کہ مردم می خورد والیں کیکے شیرے کہ مردم می خورد
(حاشیہ) قولہ وہ ضرور موافق نفس الامر کے ہوگا۔ اقول یہ ضرورت فی نفسہ ہے باقی کسی مانع خاص کے سبب موافقت نہ ہونا اس کے منافی نہیں۔ باقی چونکہ مانع کا اتفاقہ یقینی نہیں، اس لیے یہ کشف ظدیت سے متجاوز نہ ہوگا۔ ۱۲

(۳۲۳) فرمایا کہ راؤ عبد اللہ خاں مغرب کی نماز پڑھتے تھے اپنے بیٹے امیر علی خاں کو پکارنے لگے۔ امیر علی امیر علی میرے خداوند نے آج مجھ کو دکھایا ہے کہ حاجی میاں کو مسجد سکتے تھے۔ ایک بار خود حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنے اعمال کی پاداش نظر آ جاتی

حضرت مخدوم صابر کی خدمت میں آیا۔ آپ بیان کیا کہ استراق و کمال جذب کے کسی کے آنے جانے سے واقف و آگاہ نہ ہوتے تھے۔ حضرت شمس الدین "ترک" نے (جو خدمت میں رہتے تھے) باؤز بلند ہوشیار کیا اور عرض کیا کہ حضرت مجدد مرشد کا خادم آیا ہے اور حضرت کا سلام مسنون لایا ہے آپ نے بعد جواب سلام کے اتنا دریافت کیا کہ میرے شیخ کیسے ہیں اور حضرت شمس الدین صاحب کو تاکید فرمائی کہ اس کی تو قیر کرو اور گولوں میں (کہ آپ تناول فرماتے تھے) آج تک بھی ذالما۔ یہ کہہ کر پھر حالت استراق میں ہو گئے۔ اس کے بعد وہ قوال حضرت سلطان الاولیاء کے یہاں حاضر ہوا یہاں تو شاہی کارخانے تھے، بہت تنظیم و تقویر اس کی ہوئی۔ اور حضرت نے عمدہ عمدہ کھانے کھلوائے اور بہت کچھ تقدیر و ہدیہ عنایت کیا۔ جب قوال حضرت فرید الدین شیخ شکر کے حضور میں حاضر ہوا آپ نے دونوں صاحبوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے حضرت سلطان الاولیاء کی بڑی تعریف کی، اور مخدوم صاحب کی شان میں عرض کیا کہ وہ تو کسی سے بولتے بھی نہیں۔ ندوہاں کچھ ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ ہمارے حق میں کچھ بولے تھے، کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تکر فرمایا کہ آخر کچھ کہا؟ عرض کیا کہ صرف یہ پوچھا تھا کہ میرے شیخ کیسے ہیں۔ آپ چشم پر آب ہو کر فرمانے لگے کہ آج وہ ایسے درجہ میں ہیں کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہے یہ نہیں کا استقلال اور میرے ساتھ کمال محبت ہے کہ ایسی حالت میں بھی مجھے پوچھا اور یاد کیا۔

(۳۲۰) شیخ عبد اللہ خادم خاص حضرت صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت کو پیاری شدید لاحن تھی۔ اس وجہ سے بالاخانہ پر تشریف نہ لے جاتے تھے اسی دیوان خانہ میں رہتے تھے تین میئنے کامل بھی حالت رہی اکثر ذکر جہر ہاؤز بلند کرتے تھے مولوی اسماعیل صاحب کو جب معلوم ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ذکر جہر بہدت اس مرض میں مضر ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ میں نے کیا ذکر کب اور کس کیفیت سے کیا۔ اسی حالت میں آپ کو شدت سے بھی بھی آتی تھی۔ مگر ہم لوگ بوجہ ادب کے نہ دریافت کر سکتے تھے۔ ایک بار خود حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنے اعمال کی پاداش نظر آ جاتی

آدی کو چاہیے کہ ہر وقت خدا سے دعا مانگتا رہے کہ وہ ہم غرباء کو اپنے ابتلاؤ امتحان سے محفوظ رکھے میں نے (راوی ملفوظات) عرض کیا کہ اس فقیر تیرنے تو آپ کا داس پڑا ہے اس کی گرفتاری و حفاظت آپ کے ذمہ ہے مجھ کو کچھ اختیار نہیں ہے۔

سپرہم ہتو مایہ خویش را تو دالی حساب کم و بیش را فرمایا کہ یہ تمہاری محبت و عقیدت ہے اللہ کے ساتھ جیسا آدی غلن رکھتا ہے اس کے ساتھ خدا و یا ہمی معاملہ کرتا ہے رزق کا کفیل و ذردار خدا ہے ہم پر تمام مصائب ہمارے اعتقاد سے یہ اسماء اللہ میں ہم کو ایک اسم کی بھی معرفت کامل نہیں ہے جیسے رزاق اگر ہم اس کو رزاق قیینا جائیں تو پھر روزی کے لئے کیوں جیران و پریشان پھریں۔

(۳۲۶) دریافت فرمایا کہ چلد میں کچھ پرہیز بھی کرتے تھے کہا گیا بجز حاجت انسانی کے غلوت سے باہر نہیں نکلتے تھے فرمایا کہ خور دنوں کی کیا صورت تھی کہا گیا کہ محض توکل تھا بھی کھانا میسر ہوتا تھا کبھی نہیں فرمایا کہ صاحب چلد کو چاہیے کہ اول انتظام اکل و شرب کا کرے تب چلد اختیار کرے توکل تو عمده چیز ہے مگر اس میں امتحانات بہت ہوتے ہیں فرمایا کہ اکل توکل کو ثابت قدم ہونا ضروری ہے اگر ثابت قدم رباتو سارے صعبات آسان ہو جاتے ہیں۔

(۳۲۷) فرمایا کہ جب یہ فقیر مکرمہ میں وارد ہو کر صفا کی ربانی میں مقیم ہوا اس زمان میں ایک فقیر تھا اس کے پاس بہت سی اشرفیاں تھیں اس میں سے اس کا کھانا پینا چلتا تھا مگر رات کو پہاڑت اس کی گرفتاری کے اس کو نیند پڑنا دشوار تھی مجبور ہو کر بیجارے نے سب اشرفیاں تقسیم کر دیں اور اپنے حوانج کا خدا پر بھروسہ کیا امتحان باری شروع ہوا پندرہ روز متواتر کھانا نہیں ملا مگر زرم شریف کے الزہم لما شرب لہ وارد ہے پی کر بر کرتے رہے پندرہ دن بعد ان کو کھانا ملا پھر آٹھ روز بعد ملنے کا پھر چار روز بعد پھر دو روز بعد وہ فقیر ان مصائب میں راضی برخسار ہے اور باب صفا کے قریب نشست و برخاست رکھتے تھے جب ان کا امتحان پورا ہوا خدا نے ان کی روزی کا سبب پیدا کر دیا ایک ترکی لزکا ان کے پاس آ کر لکھنے لگا انہیوں نے اس کو قلم بنانے سکھایا اور کسی حرف میں اصلاح وی اس

میں بند کر کے قتل لگادیا ہے اور مولوی رشید احمد کے ہاتھ میں کتاب دے کر درس کو کہہ دیا ہے۔ یہ بات حاجی میاں کو کہہ دو کہ وہ اس کا مطلب سمجھ لیں گے میتوں (بربان پنجابی بمعنی مجھے) کچھ خوب نہیں ہے اس کا کشف پورا نکلا کر مجھے تو مکہ مکرمہ میں کہ اشرف المساجد ہے مقید کر دیا ہند کا خواب و خیال بھی نہیں آتا۔ اور مولوی رشید احمد کے ہاتھ میں کتاب دے کر درس بنادیا ہمیشہ احادیث نبوی کا درس دیتے ہیں۔ فرمایا کہ رواۃ عبد اللہ اپنے پیر حاجی عبدالرحیم صاحب کو خادندے سے تعمیر کرتے تھے اور زبان پنجابی بولتے تھے۔

(۳۲۸) فرمایا کہ جب میں مکہ مکرمہ میں بھرت کر کے آیا تھوڑے ورن بعد میرے نکاح کے لیے پیغام آنے شروع ہوئے گو کہ میری جوانی جو نکاح کے واسطے مناسب حالت تھی تجد میں گزر گئی تھی لیکن بھیال سنت نبوی میں نے قبول کر لیا۔ جہاں میرا پہلا نکاح ہوا تھا انہیں دلوں انہیوں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند آ گیا ہے ان کی والدہ نے مولوی سید حسین صاحب مجدد سے اس خواب کی تعمیر پوچھی سید صاحب نے فرمایا کہ ان کا نکاح ایسے شخص سے ہو گا جو چاند کی طرح شرق و غرب میں مشہور ہو گا جب ان کا نکاح مجھ سے ہو گیا سید صاحب نے کہا کہ جو تعمیر میں نے دی تھی وہی تھیک نکلی حاجی صاحب بیٹک چاند ہیں کہ ان کے قور سے ہزار ہا آدی مستفید ہوئے اور ہوتے ہیں اور ہوں گے اور ان کی شہرت بھی ہر چند ہے۔ تمام علمائے کرام و مشائخ عظام ان کو بنظر اکرام دیکھتے ہیں۔

(۳۲۹) فرمایا کہ فقر و فاقہ بڑی نعمت ہے، مجھ پر یہ حالت اس طرح گزری ہے کہ میرے احباب مجھ کو قرض نہیں دیتے تھے اور ظاہری حالت میری بھی امیراذ تھی یعنی لباس بھی عمده ہوتا تھا اور مند تکیہ بھی درست اور بھوک کے بارے یہ حالت ہوتی تھی کہ زینہ پر چڑھنا دشوار ہوتا تھا بلکہ بارہا گر بھی پڑتا تھا اس حالت میں عجائب و غرائب و اقدیش آتے تھے کہ جن کا مزہ نہیں بھولتا مگر یہ لطف حالت تجد میں ہے اہل و عیال دالے کو مشکل ہے پھر میری (مولوی احمد حسن صاحب کی) طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے باوجود عیال دار ہونے کے ولولہ عشق میں آ کر سب کچھ چھوڑ دیا اور چلا آیا مجھ کو اس کا خیال ہے کہ —

عشق آس اس نمود اوقل دلے القد مشكبا

بدون اطمینان کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

(۳۲۰) فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص نے توکل اختیار کر کے ایک جنگل میں سکونت اختیار کی۔ تین روز تک اس کو کھانا نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے اس کی شکایت کی آپ نے خدا سے عرض کیا۔ جواب ملا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ عالم اسے اپ کے میرے اسماء صفات کا مظہر ہے اور سراسر حکمت ہے مث جادے اس سے کہہ دو کہ بھی میں جا کر قیام کرے یہ بھی ایک سبب ہے سب کا مرٹکب ہونا توکل کے منافی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون وارد ہے۔

ع بر توکل زانوے اشتربند

(۳۲۱) فوائد صحبت میں فرمایا کہ حضرت جنید پر ایک بار حالت طاری تھی ایک کتاب سامنے آ گیا اس پر ایسا اثر پڑا کہ چیخنا ہوا کھلا اور باہر جا کر مراقب ہو کر بینے گیا اور شہر کے کے اس کے گرد مانند طالب صادق کے بغرض استفادہ جمع ہوئے۔

(۳۲۲) تعبیر روایا کا بیان تھا فرمایا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی حرگیا اس کا جنازہ حرم شریف میں آیا اور لوگوں کا اس کے گرد جمیع ہے۔ میں نے اس کی تعبیر دی کہ دنیا میں اس جنازہ کا بہت کچھ عروج ہو گا چند سال بعد اس کا ایسا عروج ہوا کہ کسی ہندی کا مکہ معظمه میں ایسا عروج تھا حتیٰ کہ شیخ ہبود ہوا اور شرقائے عرب میں اس کی بہت تعظیم و توقیر ہوئی۔ فرمایا کہ یہی مرناسا لک کے حق میں تعبیر اس کے نفس کا مرنا ہے اور کامل کے لیے تعبیر اس کی غفلت یادِ الہی سے ہے۔ اس کے مناسب حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص کسی کامل کی زیارت کو چلا راستہ میں ایک درخت کے پیچے آرام کیا۔ اس درخت پر جانوروں نے آپس میں کہا کہ افسوس فلاں فضیر جس کی زیارت کو یہ آدمی جا رہا ہے فلاں روز مر گیا۔ یہ سن کر اس کو تکھر ہوا مگر عزم فتح نہیں کیا۔ جب ان بزرگ کے یہاں پہنچا تو ان کو صحیح و سالم پا کر راستہ کا حال بیان کر کے کہا کہ جانور تک جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جانور پیچے ہیں اس دن میں ذکرِ الہی سے غافل تھا جو میرے واسطے مرگ سے بدتر ہے۔

لڑ کے کا باپ یہ سب دیکھ رہا تھا فقیر صاحب سے عرض کیا کہ آپ اس لڑکے کو کچھ بتلادیا سمجھئے اور جب اس کو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی سامان خورد نوش کا نہیں ہے اپنے گھر سے دونوں وقت کا کھانا مقرر کر دیا۔ ایک مدت بعد وہ ترک کا تعلق بھی جاتا رہا مگر غیب سے ان کو دو دو قوت کھانا جاری رہا۔

(۳۲۸) فرمایا کہ لوہاری میں ایک فقیر وارد ہوا مولوی محمد صادق صاحب نے حسب عادت اہل محلہ سے کہا کہ مہمان آیا ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ فقیر بولا کہ میرے کھانے کی آپ فکر نہ کریں میں تو بغیر مرغ پلاو کے کھانا نہیں ہوں، مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہاں گاؤں میں مرغ پلاو کہاں ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا کہ آپ کو فکر کی کی ضرورت ہے۔ بعد نمازِ عشاء جب سب لوگ سونے کو تیار ہوئے ایک شخص نے مسجد کے کواڑ کھلوائے اور مولوی صاحب کی خدمت میں مرغ پلاو لَا کر عرض کیا کہ میرے یہاں ایک مرغ کا بچھ تھا اور میں نے نذر مانی تھی خدا نے پوری کرداری کھانا لایا ہوں مولوی صاحب نے فرمایا فقیر کو دے دو اسی کا حصہ ہے بھیرا اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے واسطے لایا ہوں مگر آپ نے فقیر کو دلا دیا اس کے بعد فقیر سے اس کا واقع پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر مجھ کو کھانا کھلانا منظور ہے تو مرغ پلاو کھلا اور کچھ نہ کھاؤں گا جوک سے مر جاؤں گا پہلے تو بہت کچھ امتحان ہوا آٹھ آٹھ روز فرانے ہوئے بعدہ غیب سے سامان ہو گیا ہمیشہ مرغ پلاو ملتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا معاملہ ہر کسی سے جدا جا ہے کسی کو مرغ پلاو کھلاتا ہے کسی کو روکی روٹی دیتا ہے اور کسی کو فاقہ ہوتا ہے۔ لا بستل عمای فعل وهم بستلون۔

(۳۲۹) فرمایا کہ میں نے ایک بار چلہ کا ارادہ کیا اور اس کے واسطے آٹھ آٹھ کے جو خریدے تھے میری بھاونج نے کہا کہ جو کی روٹی کھانی مشکل ہو گی میں نے کہا جس طرح بننے گا کھاؤں گا انہوں نے جو کوٹ چھان کر گیہوں کی طرح بنادیے۔ ہر روز مجھے ایک روٹی ملتی تھی وہی کافی ہوتی تھی اس بیان سے یہ غرض ہے کہ چلکش کو لازم ہے کہ اول اکل و شرب کا انتظام کر لے ایسا نہ ہو کہ ماہین چلہ کے اس فکر میں پڑ کر اطمینان جاتا رہے کیونکہ

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۱۳۱

ہیں مگر اس پر اطمینان کامل نہیں ہے ورنہ روزی کے لیے کیوں ایسے پریشان پھرتے اور اہل دول کی خوشامد کرتے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ مولوی عبدالقیوم صاحب مقیم بھوپال داماد شاہ محمد اسحاق صاحب جب مکہ مرد آئے میرے پاس رباط آغا الماس میں جہاں میں مقیم تھا اکثر آتے تھے بھی ظہر سے عصر کے اور بھی عصر سے مغرب تک ایک مردہ وہ اور میں عمرہ کو جاتے تھے راستے میں انہوں نے حکایت بیان کی کہ ایک شہر میں ایک امیر اور ایک مفلس عالم رہتے تھے امیر کا نام لٹکر اور زانی و شراب خوار تھا اور مولوی صاحب حسین صاحب وستی تھے ایک فقیر وہاں آئے تمام اہل شہر ان کے پاس جاتے تھے۔ مولوی صاحب بھی گئے اور کہا کہ مجھے ایک شہر ہے اس کے محل کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے شہر میں فلاں شخص میں تمام عیوب ہیں اور مجھے سب طرح کے کمالات حاصل ہیں۔ مگر نان شبینہ کو محتاج ہوں یہ کیا انصاف ہے مجھے اس میں برا خلجان ہے۔ فقیر نے بعد تاہل جواب دیا کہ کہو تو تمام عیوب بدل کر تم کو اس امیر کے موافق کر دوں اور اس کو تمام عیاس دے کر تم ساقیر کر دوں مولوی صاحب نے کہا مجھے یہ منظور نہیں کہ عیوب لے کر مالدار ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ خود انصاف کیجئے کہ آپ کو اتنے کمالات عنایت ہوئے ہیں اگر ایک فاقہ ملا تو کیا حرج ہے اور اس امیر میں تمام عیوب کے ساتھ ایک امیری ہوئی تو کیا ہوا انصاف یہی ہے جو موقع میں آیا اور اگر آپ کی خواہش کے موافق ہوتا تو اس میں گمان نا انصافی کا بھی ہوتا۔

(۳۲۷) فرمایا کہ ایک بار ہمارے وطن میں کوئی تقریب تھی دافظ وزیر علی صاحب وغیرہ احباب موجود تھے اتفاقاً قول حافظ ضامن علی صاحب (جن کا دیوان مشہور ہے) کے آئے اور درخواست کی کہ کچھ قصائد نعمتیہ و عشقیہ سن لجئے۔ میری عادت تھی کہ توالوں کو کچھ دے کر تباہ دیتا تھا ماس نہیں مبتدا تھا اس دین حافظ وزیر علی صاحب وغیرہ مصر ہوئے کہ مجرد شاعر میں کیا حرج ہے اس کا ثبوت احادیث صحیح ہے اور یہ قول بھی صوفی مشرب ذا کرو شاغل تھے توالوں نے ایسی غزل شروع کی کہ سب لوگ تڑپ گئے حافظ عبدالرحیم صاحب کو کہ بہت ہی ذا کرو شاغل تھے ایسا تفہیہ شروع ہوا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ محلہ کی عورتوں نے جو سناتو کو شے پر آ کر سننے لگیں ان میں سے ایک عورت بیویوں ہو گئی لوگوں کو

(۳۲۸) فرمایا کہ کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ تکوں میں تسلیم ڈال رہا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب سے تعبیر پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں ہے بعد تحقیق معلوم ہوا کہ فی الواقع اس کی زوجہ اس کی ماں ہے کیفیت یہ تھی کہ وہ عورت اپنا لڑکا خاؤنڈ چھوڑ کر چکلہ میں کسب کرنے لگی تھی جب یہ لڑکا جوان ہوا اس عورت سے آشنا ہوئی پھر وہ عورت اس کے گھر چلی آئی۔ پھر فرمایا کہ یہ تعبیر بدون کشف و کرامات کے نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب بہت بڑے عارف تھے اور طریق توسط پر چلتے تھے میرا مسلک بھی ”انہیں“ کے انداز پر ہے۔

(۳۲۹) انشاء سبق مشنوی معنوی میں فرمایا کہ منی میں ایک فقیر جاج کا منہ سکتا پھر تا تھا کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا دیکھتے ہو۔ جواب دیا خدا کو دیکھتا ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضرت حق صورت و شکل سے پاک ہے اس کی صورت اگر ہے تو یہی انسان کامل ہے پس انسان کامل حق نہیں صورت حق ہے اگر حق کی مجالست و مکالمت منظور ہوا ولیاے کرام در غفاریہ عظام کی محبت اختیار کرے۔

ہر کہ خواہد کا وضیدہ با خدا گونشید در حضور اولیا (حاشیہ) قوله حضرت حق صورت و شکل سے پاک ہے اقول یہاں صورت کے معنی شکل کے ہیں اور یہ عطف تفسیری ہے اور آگے صورت کے معنی مظہر کے ہیں فلا اشکال۔ ۱۲ (۳۲۵) (راوی نے) ایک خط اپنے دوست کا حضرت کوستایا مضمون یہ تھا کہ میرے لیے حضرت کی خدمت میں استدعاۓ دعا کرنا کہ مجھے دسواس کراطہار ان کا موجب کفر ہے کثرت سے آتے ہیں اور روزگار کے واسطے مدت سے پریشان ہوں اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اگر کوئی وظیفہ ارشاد ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا انشاء اللہ جاتا رہے گا ان کو لکھ دو کہ پاس انفاس کا خیال رکھیں یا حوالاظا ہر حوالا باطن کا مراقب کریں اور روزگار کے لیے سورہ واتحہ بعد نماز مغرب ایک بار و سورہ فاتحہ مابین سنت و فرانس اسٹالیس بار اور یا اللہ یا مخفی گیارہ سو مرتبہ کاصل ہے ورنہ ایک سو ایک بار معمول رکھیں۔

(۳۲۶) فرمایا کہ علامے ظاہر و ما من دابة الاعلى اللہ رزقہا ہمیشہ پڑھتے پڑھتے

باری سے متصف ہونا کیا بعید ہے۔ فرمایا کہ فضل حق جو اولادِ شیخ عبد الحق صاحب سے تھے یہاں مکہ مکرمہ آئے تھے ان کے والدِ مشی برکت اللہ نے میرٹ ہے ان کو خط لکھا کہ تمہارے بھائی پر اللہ بخش گنگوہی ہی کا اثر ہے۔ حاجی صاحب سے کوئی توعید وغیرہ لے کر بچج دو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا میں نے ان کو ایک خط بنام اللہ بخش لکھ دیا اور کہا کہ مریض کو مولوی محمد قاسم صاحب سے جو میرٹ میں موجود ہیں مرید کر دوتا کہ وہ ہمارے مریدوں میں داخل ہو جائیں کیونکہ اللہ بخش کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے مریدوں کو نہ سناوں گا ہمارا خط و کیتھے ہی چلا گیا۔ فرمایا کہ یہ مکان بھی جس میں اب مقیم ہوں جنوں کا مشہور تھا اہل کہ اس کو ان کا مسکونہ کہتے تھے لہذا کوئی خریدتا نہ تھا، اس وجہ سے ہم کو ارزان مل گی، خدا کے فضل و کرم سے ہم کو بھی نہیں ستایا۔ البتہ بعض حاجاج کو جو یہاں اتارے گئے بھی بھی کچھ آثارِ معلوم ہوئے ہیں اور مجھ کو بھی بھی وقت تجہیز کے ایسا معلوم ہوا ہے کہ میرے بیچھے بہت سے فانوس و شمع رکھے ہیں اور میرے ساتھ وہ اہل شیع شریک نماز ہیں مگر ایذا بھی نہیں دی فرمایا کہ مجھ کو عمل وغیرہ نہیں آتے بخشن خوشابد وسلام سے کام نکال لیتا ہوں۔ (حاشیہ) قوله اللہ بخش گنگوہی کا خلل تھا اقول قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا اس طرح دنیا میں نہیں آتا کہ کسی کو تاسکے یہ جن ہوتے ہیں کہ کسی کا نام لے دیتے ہیں خود اس قصہ میں اس کا ایک قرینہ ہے یعنی حلقہ توجہ میں شامل ہونا تو اسوات کو توجہ سے کیا نفع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو اللہ بخش کا عالم ہوتا اور جس پر اس کا اثر ہو اس کا کچھ پڑھنے لگتا یا اس تحقیق کے منافی نہیں ممکن ہے کہ وہ جن جو اس کا نام لیتا ہو لکھا پڑھا ہو یا اس جن کو کوئی خاص تعلق اس سے جو ایک گون اتحاد کے مشابہ ہو شکا جو جن ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے وہی ہو تو ظاہر انسان کے بعض صفات جیسے علم و فضل اس جن میں شامل ہو سکتے ہیں ہر وقت کے تلبس کے سبب جیسے انسانوں میں ہر وقت کے پاس رہنے سے ایک کے معلومات پر دوسرا مطلع ہو جاتا ہے۔^{۱۲}

(۳۴۰) مولوی محبت الدین اور کئی بار مختصر احضرت صاحب نے یہاں فرمایا کہ چند سال ہوئے حضرت پیر و مرشد مردم شریف میں تشریف رکھتے تھے میں اور مولوی منور علی

گمان آسیب کا ہوا میں نے جا کر دیکھا تو ذکر پاس انفاس جاری تھا اسی جوش و خروش میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص ایک جدا گانہ کیفیت میں تھا۔

(۳۴۸) فرمایا کہ جب میں قصبہ خجالسہ میں تھا میرے قلب میں گرمی کا جوش تھا اکثر میں تمہارا ہتا تھا۔ ایک بار باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں آدمی گاؤں کا رہنے والا ذکر و شغل کرتا تھا اس پر جواہر پرداز ترپے لگا تھا کہ اس جگہ ایک کمہار کا آدھ تھا اس میں جاگرالوگوں میں شورو غل بھی گیا لیکن ترپے ترپے وہ باہر نکل آیا اور کچھ ضرورت پہنچا اس واقعہ کا اس نواح میں برا شہر ہ گیا۔

(۳۴۹) فرمایا کہ جب یہ فقیر خجالسہ میں مقیم تھا میرے پیچا پر عبد اللہ خاں کے رشتہ دار امام الدین خاں کی چیخی پر اللہ بخش گنگوہی کا خلل تھا جب جهاز پھونک سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو اور کہیں لے جانے کا ارادہ ہوا۔ پیچا مانع ہوئے اور فرمایا کہ ان کو حاجی میاں کی مرید کرنا بھی حلقة توجہ میں شامل تھا آنے لگا تو لاٹھی میرے دھکے سے گر پڑی اس کی مجھے بڑی ندامت ہے۔ امام الدین خاں نے جواب دیا کہ جب تم کو ان کی اتنی رعایت ہے تو ہماری چیخی کو جوان کی خادم ہے کیوں ستاتے ہو بولا کہ ہم سے حاجی میاں سے عہد ہے کہ ان کے مریدوں کو نہ سناوں گے مگر یہ عورت تو ان کی مرید نہیں ہے اس کے بعد امام الدین خاں مجھے اپنے گھر لے گئے ان کی چیخی ہوش میں تھی جھٹ پٹ غسل کر مجھ سے مرید ہو گئی۔ جب میں باہر نکلا اسی وقت پھر اس پر غلبہ آسیب ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، جو اس کو حاجی میاں کا مرید کروادیا تھر پکھ خوبصورت غیرہ لاڈ ہم جاتے ہیں اسی وقت چلا گیا پھر بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ اللہ بخش بڑا عالم تھا بہت سے گوار جاں کر الف بے سے واقف نہیں بوقت غلبہ اللہ بخش کے مشوی مسنوی و قرآن مجید خوب اچھی طرح پڑھنے لگتے تھے۔ یہ عکس کمال اللہ بخش کا تھا۔ اسی موقع کو مولانا ناروم فرماتے ہیں کہ جب جنات کو پر دھل ہے کاپنے صفات کو درمرے میں ساری و طاری کر دیتے ہیں تو پھر اولیائے کرام کا صفات

رامپور کا قافلہ روانہ کر دیں اور آپ وہاں اسی بیت سے جیسا میں اس وقت دیکھتا ہوں موجود ہیں اور ہاتھ میں ایک باریک عصا جو آپ کے اس عصا سے مشابہ ہے لئے ہوئے لوگوں کو گھروں ہے نکال رہے ہیں۔ دوسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا تب ہم ادھر کو روانہ ہوئے اور بخیر و غایفیت حاضر خدمت ہوئے۔ مفتی صاحب نے بھی ایسا ہی بیان کیا۔ پھر دونوں صاحب داخل سلسلہ ہوئے فرمایا کہ وہاں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور یہاں خبر بھی نہیں ہے۔ میرا نام امداد اللہ ہے شاید امداد الہی نے میرے لباس میں اظہار کر کے ان کی اعانت کی ہو۔

(۳۲۲) اثنائے درس مثنوی شریف میں فرمایا کہ مولوی امانت علی صاحب امر وہ بہت ہی مرد صالح تھے با وجود کمال و کبریٰ کے میری زائد احترام فرماتے تھے تین مرتبہ میری ملاقات کو شریف لائے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب نے آخر عمر میں ساعت ترک کر دیا تھا فرمایا اس کا باعث یہ فقیر ہی تھا فرمایا کہ ایک دفعہ میں عبدالقدوس کے عرس میں ابتدی آیا تھا ختم عرس کے دن میں اور مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی رشید احمد صاحب گنگوہ شریف میں ایک دوست کے مکان میں مقیم ہوئے اس کی صبح کو بعد نماز اشراق مولوی امانت علی صاحب شریف لائے کسی نے کہا کہ مولوی امانت علی صاحب کمیں جا رہے ہیں میں نے کہا کہ میر ارادہ تھا کہ آج ان کی ودیگیر مشارکت کی زیارت سے مشرف ہوں گے پھر دیکھا جاوے گا اتنے میں مولوی صاحب نے آواز دی کہ کیا فلاں شخص کا یہی مکان ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہی ہے۔ میں مکان کے بالا خانہ پر تھا مولوی صاحب نے مجھے کو دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ میں آواز سن کر پیچے اتر آیا اور ان سے ملا۔ اتنے میں حضرت صاحبزادہ صاحب مند شین درگاہ حضرت عبدالقدوس صاحب مجھ سے ملنے آئے اور فرمایا کہ آج تمام مشارکت کی رخصت کا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج شریک دعوت ہوں میں نے کہا کہ ہماری تو چار پانچ روز کی دعوت ہو گئی ہے صاحب مکان سے آپ دریافت کر لیں آخر انہوں نے اجازت لے لی کھانے کے وقت سب مشارکت صاحبزادہ صاحب کے ہاں حاضر ہوئے کھانے میں کچھ دیر تھی صاحبزادہ صاحب

صاحب اور پیر جی عبداللہ انصاری خدمت میں حاضر تھے مفتی قطبی صاحب آئے اور بغیر کچھ کہے آپ کاشاہ مبارک پکڑ کر کہیں لے چلے حضرت بھی اسی طرح ہمراہ ہو گئے اور ہم لوگ بھی ساتھ چلے مفتی صاحب آپ کو داؤ دیے میں جہاں تکوں کا مجمع تھا اور بڑے بڑے باعزت مجمع تھے لے گئے اس مجمع میں ایک شیخ بہت ہی ضعیف تھے انہوں نے حضرت کو با اکرام تمام اپنے پاس بٹھایا اور حضرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے بھی توجہ کی اتنے میں کسی نے کہا کہ یہ بھی فارسی جانتے ہیں ان سے آپ فارسی میں کلام سمجھے انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو بات چیز کی حاجت نہیں ہے دس گیارہ منٹ کے بعد وہ شیخ حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور اگلے روز حضرت کے آستانہ پر حاضر ہو کر فضیاب ہوئے ان کا مصطفیٰ آندی نام تھا اور خدی یونیورسٹی کے متعلقین کے پیرو شیخ تھے عرصہ سے حضرت کی ملاقات کے مشتاق تھے اور بعد ملاقات کی قیمت عشق کی ہو گئی۔

(۳۲۱) فرمایا کہ ہمارے ایک یار نے شکایت کی کہ اب تو روئے روئے میری پسلیاں پھنسنے لگی ہیں اس کا علاج کیجئے جب ان کی وہ حالت بدل گئی پھر شاکی ہوئے کہ میری وہی حالت عنایت کیجئے ہم نے کہا کہ پھر ہڈیاں پسلیاں نوٹے نہیں گی کہا بلکہ جو مزہ اس گریہ زاری میں تھا وہ میری چیز میں نہیں ہے۔ میں (راوی) نے کہا کہ حضرت ان کا نام نہ لینے میں کیا اسرار ہے فرمایا کیا ضرورت ہے مجھے (راوی) بعض احباب نے بتایا کہ یہ واقعہ مولا نارشید احمد صاحب کا ہے۔

(۳۲۲) فرمایا کہ عجب معاملہ ہے لوگ مجھے کچھ کا کچھ خیال کرتے ہیں وہی خیال ان کا رہبر ہو جاتا ہے۔ ہادی و قبل حق تعالیٰ ہے ہمارا ایک بہانہ کر رکھا ہے۔ رامپور کے ایک رئیس محمد رمضان خاں و مفتی عبدالقدوس رہنمایہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ہم نے قصد حج و زیارت روضۃ مطہرہ کا کیا بہت سے لوگ رامپور کے تیار ہوئے مگر زبانی جاجج کے معلوم ہوا کہ جاگاز میں قحط نخت ہے لوث بہت ہوتی ہے یہ سن کر سب نے قصد ملوتوی کر دیا محمد رمضان نے کہا گہ جب ارادہ حج ہو گیا تو میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک مجمع میں حضور ﷺ تشریف رکھتے ہیں اور مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ وباتی باللہ سے کہہ دو کہ

کی کیفیت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شاہ رکن عالم فرمانے لگے کہ آپ کے بعض احباب تو آپ کو مشائخ قدماء پر ترجیح دیتے اور کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت شبیل و جیند بھی موجود ہوں تو ہم اپنے شیخ کو چھوڑ کر ان کی طرف ہرگز رجوع نہ کریں میں نے کہا کہ یہ شرہ عقیدت و محبت ہے ورنہ یہاں تو کچھ کمال و بہتر نہیں ہے۔ (حاشیہ) قوله ہبیر پرست یہاں سے بخوبی واضح ہوتی اقول مراد وحدت مطلوب ہے یعنی پیر کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑے کامل کی طرف بھی توجہ نہ کرنا چاہیے جیسے کہ قطب صاحب کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ تمہارا مقصود تم کو تمہارے مرشد سے ملے گا آئندہ ملفوظ بھی اسی کی تائید میں ہے۔ ۱۲

(۳۳۵) نقائع بدودی کا قصہ بیان فرمایا کہ اس کو مجھ سے عقیدت و محبت تھی جب مدینہ منورہ کا قافلہ جاتا تھا اذل وہ میرے احباب کو لیتا تھا بعدہ دوسرے مسافروں کا ملاشی ہوتا تھا اور صاحب درد و نیک تھا ایک مرتبہ مجھ کو مدینہ طیبہ لیے جاتا تھا۔ اس نے ایک حدی شروع کی کہ جس سے مجھ کو حقیقت حدی کی معلوم ہوئی اور مجھ کو خوب مست کر دیا اور خود بھی مست ہو گیا۔ نقائع کے باہم بدودیوں میں ایک بارہاں ایسی ہوئی، اسی کے پاؤں میں گولی لگ کر اندر رہ گئی، باوجود علاج کے کئی مہینے تک اچھا نہ ہوا۔ میرے پاس دعا کو کہلا بھیجا تھوڑے دن بعد وہ آیا اور میرا بہت اعزاز و اکرام کرنے لگا کبھی دست یوں کرتا اور کبھی پابوی میں نے اس سے اس کی بیماری کا حال پوچھا جواب دیا کہ جب مجھ کو حالت یاں کی ہوئی تو آپ کی طرف بیٹھی ہوا دیکھا کر آپ نے میرا پیر پکڑ کر دبایا اور گولی کو باہر پھینک دیا صبح کو گولی خود بخون دنکل گئی میں (راوی) نے عرض کیا کہ آپ کی خادمہ ہبیر اپنی صاحب سے نقل کرتی ہیں کہ ایک بار میرے بیتھے چج کو آتے تھے آگبٹ تباہی میں آگ کیا۔ حالت مایوسی میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک طرف حاجی صاحب اور دوسری طرف حافظ جیو صاحب آگبٹ کو شاند دیئے ہوئے تباہی سے نکال رہے ہیں۔ صبح کو معلوم ہوا کہ آگبٹ دو دن کا راستہ طے کر کے صحیح و سالم کارے پر لگ گیا۔ فرمایا کہ مجھ کو کیا معلوم قابل حقیقی خداوند کریم ہے کیا عجب کہ صحیح ہو دوسروں کے لباس میں آگر خود مشکل آسان کر دیتا ہے اور نام ہمارا تمہارا ہوتا ہے۔ ہنگام و اپنی از عرب یہ معلوم کر کے کہ ہبیر میں

نے کھڑے ہو کر دست بست حاضرین سے کہا کہ میری ایک عرض ہے، اگر آپ حضرات اجازت دیں سب لوگوں نے کہا فرمائیے ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب با وجود چشتی ہونے کے محفل عرس میں کیوں شریک نہیں ہوتے میں صرف یہ کہہ کے کہ وہ محفل شیروں کی ہے مجھ سا ضعیف و ناتوان وہاں حاضری کی جگہ نہیں رکھتا خاموش ہو رہا مولوی صامن علی صاحب جلال آبادی بولے کہ حاجی صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا ہو گا۔ مولوی حمد یعقوب صاحب وغیرہ نے چاہا کہ جواب عالمانہ دیں۔ میں نے ان کو منع کیا کہ یہ محفل بحث و جداول کی نہیں ہے۔ مولوی ظہیر الدین کرانوی کہ مرد صائم تھے کہنے لگے کہ حاجی صاحب یہ محفل تو سنت پیروں کی ہے اس سے کیوں احتراز ہے۔ مولوی امامت علی صاحب مراتب بیٹھے تھے سر اٹھا کر کہنے لگے کہ مولوی ظہیر الدین صاحب آپ بھی اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، حق بجانب حاجی صاحب ہے، سنت پیروں کے موافق یہ محفل کہاں ہے جن شرائط سے مشائخ نے جائز رکھا وہ شرائط کہاں ہیں، اب میں بھی آج سے اسی محفل میں نہ شریک ہوں گا مدت سے میرا ارادہ تھا کہ محفل ساعت ترک کروں آج بدولت حاجی صاحب کے اس کا وقت آ گیا۔ (حاشیہ) قوله ایک دفعہ میں حضرت عبد القدوس کے عرس میں ابتدی آیا تھا اقول مراد زمانہ عرس ہے کیونکہ ان کا مزار ہبہ میں نہیں۔ ۱۲

(۳۳۶) فرمایا کہ ایک بار میں حضرت قطب الدین بختیار کا کی کی قبر شریف پر تین رووز تک مقیم رہا حضرت قطب صاحب کے مزار مقدس سے ایک نور کا ستون نکل کر بلند ہوا اور حضرت ہبیر مرشد کے جائے اقامت (لوہاری) پر جا کر چھپ گیا اور ایک دفعہ باس عنوان بیان فرمایا کہ حضرت ہبیر مرشد کے مزار مقدس پر جا کر غروب ہو گیا پھر فرمایا کہ حضرت ہبیر مرشد تو زندہ تھے اور اقول عنوان فرمایا پھر حضرت قطب صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا مقصود دلی تم کو تمہارے ہبیر مرشد سے ملے گا اور چند باتیں کہیں۔ فرمایا کہ اس ستون کے نکل کر جانے اور حضرت قطب صاحب کے ان کلمات کے کہنے سے چند سائل حل ہوئے اور فرمایا کہ ہبیر پرست یہاں سے بخوبی واضح ہوتی فرمایا کہ ایک بار مشائخ را پسپور جن میں شاہ رکن عالم بھی تھے میرے وطن تھانہ بھون میری ملاقات کو تشریف لائے اور میرے احباب

پیش وی اللہ ہیں۔

(۳۲۷) فرمایا کہ نماز اشراق کے اول دوگانہ میں آیہ الکری و امن الرسول الی اخر سورہ اور دوسرے دوگانہ میں اللہ نور السموات والارض آخر تک اور ہو الذى لا اله الا هو عالم الغيب آخر سورہ تک اور تیرے میں قل یا ایها الکافرون و قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں اور صلاۃ الا وابین کے اول دوگانہ میں سورہ واقعہ اور دوسرے میں قل یا ایها الکافرون اور قل هو اللہ احد اور تیرے میں قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتا ہوں اور نماز تجدید کی انہر رکعت میں آج کل بسبب کاملی کے سورہ نہیں اور دوسری رکعت میں المترکف اور دو میں سورہ اخلاص تین بار اور اصل نماز تجدید میں یہ ہے کہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ فرمایا کہ واسطے غنائے قلب کے سورہ واقعہ و سورہ مزمل سورہ فاتحہ کا ورد رکھا کرو۔ فرمایا کہ ہم دوسروں کو وہی ورد وغیرہ بتلاتے ہیں جو خود کرتے ہیں لہذا اکثر لوگوں کا شکریہ آتا ہے جس کام کو آدمی خود نہیں کرتا اس کے بتلانے میں چدال فائدہ نہیں ہوتا حافظ محمد یوسف ولد حافظ محمد ضاں صاحب نے ایک عریضہ ارسال کیا تھا اس میں اپنی پریشانی و فقر و فاقہ کا حال لکھا تھا آپ نے فرمایا کہ (راوی) اس کا جواب لکھ دو اور لکھو ک سورہ واقعہ بعد نماز مغرب و سورہ مزمل گیا رہ بارہ روز خواہ بعد نماز عشا کے ایک ہی جلسے میں گیا رہ وفعہ خواہ بعد نماز فرض کے دو دفعہ اور بعد عشاء کے تین دفعہ ورد رکھا جاوے اور ہر روز یا اللہ یا مخفی گیا رہ سو مرتبہ چار ضرب سے یعنی اول دابنے پھر باہمیں طرف اس کے بعد سامنے پھر دل میں اس کے ضرب لگائی جاوے یہ تیوں ورد واسطے دفع فقر و فاقہ کے کافی و شافی ہیں اگر تمام کے جاویں تو بہتر و افضل ہے ورنہ ایک ایک بھی کفایت کرتا ہے گر دوام شرط ہے اور تیرسا اور د بالخصوص مفید ہے۔ فرمایا کہ مکہ مظہر میں ایک شیخ الائمه سید اجمل نام تھے ان کا خرج بہت تھا اور آمدی کم۔ مجھ سے شکایت کی میں نے کچھ ورد تیادیا میرے بہت شکر گزار ہوئے اور چند قصائد میری شان میں بزبان عربی کہے میں (راوی) نے عرض کیا کہ یہی دنائلف تھے یا اور؟ فرمایا یہی تھے اور دوسرے بھی۔

بہت جوش ہے مجھ کو آگوٹ میں اکثر انتشار ہوتا تھا گرامی حالت میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ آگوٹ کے دابنے باہمیں حضرت صاحب قبلہ اور حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب گرامی مظلہ چلے آرہے ہیں اور آگوٹ کو سنبلے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ ۵ صفر ۱۴۳۷ھ کو پتھر و عاقیت کراچی بندوقیتی گئے اور کسی دن غیshan تک نہیں ہوا۔ ایسے ہی اور اکثر واقعات و حالات حضرت صاحب کے ہیں جو خود زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمائے اور یوں بھی ظاہر ہوئے لیکن ان کو لکھ کر اب کتاب کو طول دیتا ہے لہذا اپنی طرف سے اس معاملہ میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ (وحشی) فرمایا کہ آج ہمارے گھر میں ذکر تھا کہ ہمارے وطن میں ایک گھر میں افلاس تھا۔ انہوں نے آپ سے تعلیم مانگا۔ آپ نے ان کو تعویذ عنايت کیا اس کی برکت سے چند روز میں ان کی حالت مبدل ہے غنا ہو گئی ان سے کسی دوسرے گھر والوں نے شکایت کی ان لوگوں نے اپنا تعویذ دے کر کہا کہ اس کو چند روز اپنے بیہاں رکھو ان کو بھی خدا نے فراغت دی اسی طرح وہ تعویذ کی جگہ گیا فرمایا کہ مجھ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے ان کا اعتماد یہ کام کرواتا ہے ورنہ مجھ میں تو کچھ کمال نہیں ہے۔ (حاشیہ) قولہ دوسروں کے لباس میں آ کر خود مشکل آسان کروتا ہے اقول یہ تجیر مجازی ہے خود آنے سے مراد خود کی نصرت و اعانت کا آتا کما فی قوله تعالیٰ هل بنظرؤن الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ ۱۲

(۳۲۶) مولوی منظور احمد صاحب کاظم مدینہ طیبہ سے آیا تھا اس میں انہوں نے اپنی علامت کا حال لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے موت سے بالکل گھبراہت نہیں ہے بلکہ موت کی ہر وقت تمنا و آزادی ہے آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب پیش ویلی کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ موت کو دوست رکے اور اس کا شائق رہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کشم صادقین اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعویی ولایت باری عن اسم بدول تمنائے موت صحیح نہیں۔ ایک بار مولوی منظور احمد حضرت کی خدمت میں قدم بوی کو حاضر ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس نے زندہ دل روئے زمین پر نہ دیکھا ہو اور دیکھا منظور ہو تو مولوی منظور احمد کو دیکھ لے، یہ

(۳۲۸) فرمایا کہ اکثر عرب لوگ میری طرف رجوع ہوئے عبدالرحمٰن سراج وغیرہ مرید بھی ہوئے تکاری نے اس میں اپنا اقصان دیکھ کر خود منع کر دیا۔

(۳۲۹) امام مهدی آخر الزمان کا ذکر قہقاہ فرمایا کہ اکثر لوگ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پہلے زمانہ میں بھی کیا ہے بعض لوگ تو بالکل جھوٹے ہوتے ہیں اور بعض مجرور و معذور ہوتے ہیں سیر اسماء میں غلطی واقع ہوتی ہے خاندان چشتیہ میں سیر اسماء سے ممانعت کی جاتی ہے بلکہ شیخ کمال اپنے مرید کو سیر اسماء سے نکال دیتا ہے اس خاندان میں صرف تین سیریں ہیں سیر الٰی اللہ و سیر فی اللہ و سیر مَنِ اللہ اور دوسرے خاندانوں میں سیر اسماء کے مراتب قلیم کے جاتے ہیں سیر امام ہادی میں اکثر یہ غلطی واقع ہوتی ہے چونکہ سالک پر سیر امام ہادی میں تخلیقات امام ہادی کی واقع ہوتی ہیں۔ سالک اپنے آپ کو گمان کرتا ہے کہ مہدی آخر الزمان میں ہی ہوں۔ فرمایا کہ ظہور امام مہدی آخر الزمان کے ہم سب لوگ شائق ہیں مگر وہ زمانہ امتحان کا ہے اوقل اوقل ان کی بیعت الٰی باطن اور مبدال شام بقدر تین سوتیرہ اشخاص کے کریں گے اور اکثر لوگ میکر ہو جائیں مگر اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگنا چاہیے ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ فرمایا کہ ایک شاعی جن کا نام غالباً سید احمد خاہیہاں مکہ مکرمہ میں بہ انتظار امام مہدی آخر الزمان کوں کے مرشد نے ان کو قرب زمانہ امام مہدی کی خبر دی تھی میتم تھے اور اب ان کے بیڑ بھائی سید محمد اسی غرض سے کہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور مجھ سے اکثر اوقات ملتے ہیں اور امام مہدی کے ظہور کے آثار و اخبار سناتے ہیں۔ سید احمد نے مجھ سے یہاں کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول مقبول ﷺ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انصرنی انصرک اور مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر ہندی کے پاس ایک تکوارہندی ہے تم ان سے تکوارہندی نے کرام مہدی علیہ السلام کے میمن و ناصر ہو۔ جب انہوں نے یہ خواب یہاں کیا میرے پاس دو مدد تکواریں تھیں حاجی عبدالحق کہ ہمارے عزیزوں سے تھے اور انگریزی سرکار میں ان کو بڑا عزیز اور کرام تھا ان کے پاس محمد و تکواریں تھیں، انہوں نے دو یا ایک تکوار عمدہ ہم کو پہنچ دی تھی میں نے بوجب

خواب سید احمد کے بذریعہ مولوی منور علی صاحب تکوار دینا چاہا۔ بلکہ مولوی صاحب میرے پاس سے وہ تکوار اپنے جھرے میں سید احمد صاحب کو دینے کے لیے لے گئے مگر چونکہ اس زمانہ میں کچھ شور و شر ہو گیا تھا اور وہی باعث سید احمد صاحب شاعی کے خروج کا ہوا لہذا وہ تکوار ان کو نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے بزرگ ہیں کہ ان کو دعویٰ ہے کہ ہم مہدی آخر الزمان ہوں گے اور بعض ظہور امام کے منتظر ہیں مجملہ منتظرین کے سید علی بندادی چیز وہ اکثر ہمارے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں ان کی کشف و کرامت اہل کند میں مشہور ہے ان کے حساب سے امام مہدی کے ظہور میں ایک یادو سال باقی ہیں انہوں نے امام مہدی کو رکن یہاں کے پاس نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور ان سے مصافی بھی کیا ہے اس وقت امام صاحب کی عمر قریب چالیس سال کے معلوم ہوتی تھی۔ سید علی صاحب کہتے ہیں کہ میں بوجب ارشاد جناب سرور عالم ﷺ انتظار امام مہدی علیہ السلام میتم ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۳۵۰) اثنائے درس مشنوی معنوی میں فرمایا کہ علمائے ظاہر و ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفکهون تسبیحهم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ ذی روح انسان جب کسی شےے عجیب کا لاحظہ کرتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے سبحان اللہ جاری ہوتا ہے تو گویا اس شےے نے سبحان اللہ کہا۔ جیسے جب بناۓ بیت کو بانی اور آنقطع کو قاطع کہتے ہیں یا ان کی بے کبھی کی دلیل ہے تمام اشیاء تسبیح حقیقی کہتی ہیں۔ نسبیت مجازی البتہ اس تسبیح حقیقی کے سنبھل کو ان کا نوں ظاہری کے سوابطنی کا ان درکار ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام و اولیائے کرام کو عنایت فرمائے ہیں احادیث صحیحہ میں مجر و شجر کی تسبیح کے مسوبع ہونے کا اکثر یہاں وارد ہے۔ ایک مرتبہ جنگل کی سیر میں ایک ہمارے یار نے فرمایا کہ مجھے ان حرکات سبزہ زار سے آواز لا الہ الا اللہ مسوبع ہوتی ہے۔ (حاشیہ) قوله یہ ان کی بے کبھی کی دلیل ہے، اقول یعنی جن کی تفسیر میں بناۓ انکار ہو تسبیح حقیقی کا باقی جو اس کے مکررہ ہوں مگر کسی وجہ سے آیت کی تفسیر میں اس وجہ کو ترجیح دیں۔ ان کی بے کبھی کا حکم کرنا مقصود نہیں۔ ۱۲

ہاض میں ان کا مطلب پورا کر رہی تھی۔

(۳۵۲) میں نے (راوی نے) عرض کیا کہ مولانا روم نے اولیائے کرام کی بہت صفت بیان کی ہے میرے خیال ناقص میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مولانا تمام عمر علوم ری میں مشغول رہے آخ عمر میں بدولت مولانا شش تمیز کے دفعہ علوم باطنیہ سے لبریز ہو گئے اور چونکہ اپنے محسن کا ذکر کرنا مناسب ہے اس وجہ سے بار بار اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ مولانا روم مادرزادوں تھے ایک بار عالم طفلی میں لڑکوں کے ساتھ کھلیتے تھے لڑکوں نے کہا کہ آؤ آج اس مکان سے دوسرے مکان پر جست لگائیں آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل تو بندروں کتوں اور بیلوں کا ہے انسان کو چاہیے کہ زمین سے آسان پر جست لگائے یہ کہہ کر غائب ہوئے لڑکوں میں شور و غل پیدا ہوا اور ان کے والدین کو بھی اضطراب ہوا۔ تھوڑی دیر بعد آپ ظاہر ہوئے اور بیان کیا کہ جیسے ہی میں نے وہ کلمہ کہا مجھے دو فرشتے چارم آسان پر لے گئے مجھے وہاں کے عجائب و غرائب دیکھنے سے گریہ طاری ہوا، میری یہ حالت دیکھ کر پھر زمین پر چھوڑ گئے۔ فرمایا کہ مولانا روم کے والد اپنے دھن بٹھ سے بقصد حج و زیارت مدینہ طیبہ مع مولانا کے روانہ ہوئے نیشاپور میں مولانا فرید الدین عطار کی زیارت سے مشرف ہوئے مولانا عطار نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا عزم ہے، انہوں نے جواب دیا کہ حریم شریفین کا۔ عطار نے فرمایا کہ تمہارے لڑکے کے سینے پر کہیں میں دریائے معرفت جوش زن ہے، اس کی بہت حفاظت رکھو اور اس سفر میں اس کو ہمراہ نہ لے جاؤ اور اپنی تصنیف الہی نامہ مولانا روم کو دے کر فرمایا کہ اس کو دیکھا کرو تمہارے دیکھنے سے اس کو شرف ہوگا۔ مولانا کے والد نے عزم جمع فتح کر کے ملک روم میں شہر قونیہ میں اقامت اختیار کی۔ بخیال تمہرک مولانا الہی نامہ کو ورد میں رکھتے تھے۔ اسی طرز پر مشتمی تصنیف فرمائی اور مولانا عطار کی تعریف میں۔ ہفت شہر عشق راعطار.... الخ کہا فرمایا کہ جو نعمت مولانا روم کو حاصل تھی، اگر تمام عمر کی جانفتانی سے بھی حاصل ہو اس کا شکریہ قیامت تک ادا ہونا دشوار ہے۔ پھر اگر مولانا روم نے اپنی مشتمی میں بار بار مشائخ عظام کا مذکورہ کیا۔ تو کیا عجب ہے فرمایا کہ مولانا روم کہیں تشریف لیے جاتے تھے اور

(۳۵۱) فرمایا کہ عذاب اخروی اس عالم میں بھی بعض اشخاص کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جلاں آباد میں (جو ہمارے قبہ کے قریب ایک بستی ہے) ایک رئیس نے بطبع دینیوی ہنود کو اپنی زمین بت خانہ بنانے کو دے دی۔ جب ان کا وقت آخر آیا، حکیم غلام حسن ان کے معاون بعض دیکھ رہے تھے، مریض نے پکار کے کہا کہ حکیم جیو مجھے اس بھرہ آہنی آتشیں سے بچاؤ مجھ کو اس بھرے میں ڈالے دیتے ہیں، لوگ متوجہ تھے اور کچھ مدارک نہیں کر سکتے تھے۔ آخ راسی فریاد وزاری میں روح اس کی پرواز کر گئی۔

(۳۵۲) فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ صفت ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت حق کو آپ کی شکل و ہیئت میں دیکھا ہے۔ (حاشیہ) قوله آپ کی شکل و ہیئت میں دیکھا ہے اقول منام وغیرہ میں ایسی جملی مشاہی میں ممتنع نہیں۔ ۱۲

(۳۵۳) اثنائے درس مشنوی مسحونی میں فائدہ خدمت شیخ کا بیان فرمایا کہ حضرت شاہ بھیکھ صاحب نے بہت ہی اپنے بیوی کی خدمت کی ہے تاہم گھر کا کاروبار ان کے ذمہ تھا۔ حضرت شاہ ابوالعالیٰ ان کے بیوی کے بیہاں بوجہ کثرت اولاد فقر و فاقہ بہت رہتا تھا اکثر لوگ سہارپور کے شاہ ابوالعالیٰ کے مرید تھے جب وہ لوگ جعفرت کی دعوت کر کے ان کو سہارپور لے جاتے تو شاہ بھیکھ اپنے بیوی سے چھپا کر میزبان سے کہتے کہ دعوت میں تم کو دس آدمیوں کا کھانا تیار کروانا ہوگا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ حضرت کی دعوت کی جائے۔ اور لڑکے آپ کے بھوکے پڑے رہیں بعد نماز عشاء و فراغ طعام حضرت کے لڑکوں کے واسطے کھانا لے کر حضرت شاہ بھیکھ گھر پر یعنی قبہ انبوح شہ جو سہارپور سے دس کوں ہے پہنچاتے اور پھر سہارپور واپس جاتے تھے جب بیوی کو توجہ کے واسطے جاتے تھے جب تک حضرت ابوالعالیٰ سہارپور میں رہتے رہا زانہ بھی واقعہ ہوتا۔ حضرت جب مکان پر آتے تو عذر کرتے کہ ہم نے تو کئی دن تک خوب پہیت بھر کر کھایا مگر افسوس تم لوگ بدستور بھوکے پیاسے رہے۔ سچے عرض کرتے کہ نہیں ابھی ہمارے بھائی بھیکھ میاں ہم کو روز کھانا دے جاتے تھے۔ حضرت یہ سن کر بہت خوش ہوتے۔ شاہ بھیکھ نے پندرہ نیس بر س تک ایسی خدمت بیوی کی تھی مگر بظاہر ان کو کچھ فائدہ حاصل نہ تھا۔ البتہ خدمت بیوی و رضا مندی

(۳۵۵) فرمایا کہ مولانا احمد علی صاحب محدث سہار پوری جب حافظ عبدالکریم تاجر میر رخ کے ملازم تھے یہاں سعی حافظ عبدالکریم کے زیارت حریم شریفین کو آئے میں نے کہا کہ مولانا مملوک علی صاحب نے میرا بستی گلستان آپ کے پرورد کیا تھا اس وجہ سے آپ میرے استاد ہیں۔ مگر میں ایک بات عرض کروں گا اگرنا گوارنہ ہو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا بزرگ جانتا ہوں جو فرمائیے بسر و چشم منثور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ حافظ عبدالکریم وغیرہ آپ کو کام کا حکم دیں بلکہ ان کو آپ کا حکوم ہونا چاہیے۔ لیکن نوکری میں بجز حکومی چارہ نہیں۔ اب آپ اپنے مکان پر درس احادیث نبویہ صلی اللہ علی صاحبھا کافرمایا کریں۔ تاکہ خلق کو فیض ہو۔ مولانا صاحب نے قبول کر کے فرمایا کہ آپ حرم محترم میں میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ یہاں سے جا کر ترک تعلق کر کے درس حدیث کا شغل اختیار کیا اور صدھا طلباء کو محدث بنادیا۔ اور حافظ عبدالکریم نے میرے سامنے بہت کچھ مذکور کی کہ مولانا کو ہم لوگ اپنا مخدوم جانتے ہیں۔ میں نے کہا ہجھ ہے مگر تو کوئی درحقیقت خادم ہی ہوتا ہے چاہے اس کا آقا سے اپنا مخدوم بھی تصور فرمائے اور لفظ خادمی کا زبان پر نہ لائے۔

(۳۵۶) فرمایا کہ مولانا احمد علی صاحب نے دربارہ مولوی محمد قاسم صاحب فرمایا کہ انہوں نے علم کی بالکل بے قدری کر دی، آپ نے ان کو ایسا پست بنادیا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک اس پستی نے علم کو خوب بڑھایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

ہر کجا پستی است آب آنجار و د

(۳۵۷) مولوی بہاء الدین صاحب طائف سے چل کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوئے اور بذریعہ فقیر حقیر (راوی) عرض کیا کہ میں ہر روز قریب دولاکھ اسم ذات کا درد رکھتا تھا۔ مگر چند اس شرہ مرتب نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی کچھ رنجش ہے، ورنہ ضرور معتمد ہے فائدہ ہوتا۔ فرمایا کہ میں اللہ اللہ کہنے والوں سے کیسے ناراض ہوتا۔ اگر ہماری عنایت نہ ہوتی قریب دولاکھ کے اسم ذات کا درد کیسے کرتے۔ گھبرا کر چھوڑ دیتے مشتوی کا

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق
جماعت طلبہ ہر کاب تھی۔ مولانا شش تبریز نے آپ کی سواری کی باگ پکڑ کر پوچھا کہ حضرت بائز یہ بسطامی تو ما اعظم شانی کا دم بھرتے ہیں اور سرور عالم میں مائن ماعر فنا ک حق معرفت کا درود فرماتے ہیں پس افضل کون ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ رسول متنبیوں میں حوصلہ عالی رکھتے ہے، لہذا ہا جو دکمال معرفت کے ماعرف فنا ک حق معرفت فرماتے ہیں اور حضرت بائز یہ بسطامی بیاعث پست حوصلگی و نقصان ہمت کے نعرہ ما اعظم شانی کا مارتے تھے۔ پس افضل وہی ہے کہ ہمت عالی و حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت شش تبریز نے شاداں و فرحان ہو کر ایک جنی ماری اس جنی نے مولانا روم کا مطلب پورا کر دیا اور مولانا شش تبریز کا عاشق بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت شش تبریز غائب ہو گئے، مولانا کو آپ کے عشق کا غلبہ ہو چکا تھا، لہذا بہت پریشان ہو کر آپ کے مخلاشی ہوئے چونکہ حضرت شش تبریز طریقہ ملاعیہ رکھتے تھے، اس وجہ سے گانے والوں کے ساتھ رہ کرتے تھے، مولانا روم کو ایک جگہ پہنچا ملکہ مولانا شش تبریز ایک جگہ گانے بجارتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں پہنچے اور حضرت سے لپٹ لئے۔ حضرت شش صاحب اس وقت اپنے گانے بجانے میں مت تھے جب ہوش آیا تو دیکھا کہ مولانا روم حاضر ہیں اسی وقت ان کے کان میں نے رکھ کر بجادیا اور خود پھر غائب ہو گئے۔ مولانا روم نے اول مشتوی میں اسی نے کا حال بیان کیا ہے۔

بشنوار نے چوں حکایت می کند در جدائی ہاشکایت مے کند
شارصین نے کئی طرح سے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے۔ (حاشیہ) قولہ مولانا کے والہ
نے عزم حج فتح کر کے اقول غالباً ان پر فرض نہ ہوگا۔ ۱۲۔ قولہ ما عرفناک حق
معرفت، اقول لا احصی ثناء عليك سے یہ مضمون حاصل ہوتا ہے۔ ۱۲۔ قولہ کان
میں نے رکھ کر بجادیا اقول یہ تو اس وقت مخلوقیت میں غیر مکلف تھے یا ان کی تحقیق میں
اس کا پیغام نہیں ہو گا جو عملت فتح نہ ہونے سے مرتفع ہو گیا، کما فی طبل الغزا و طبل
السجون۔ ۱۲۔ قولہ اسی نے کا حال بیان کیا ہے اقول یعنی بعض شارصین کے قول پر جس کا
قہدہ آئندہ کی ہمارت ہے۔ ۱۲۔

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۱۲۷

کرتے تھے، ان دونوں حنفی مصلحہ کے بھیجھے بیٹھتا تھا۔ شیخ جمال صاحب بعد نماز صحیح اکثر طواف کرتے تھے، اور چونکہ حنفی تھے، دوگانہ طواف ہر طواف کے بعد نہیں پڑھتے تھے بلکہ جمع کر کے بعد طلوع آفتاب پڑھتے تھے جب اپنے مکان کو جانے لگتے میری طرف آ کر مسکرا کے ملتے اور اپنے مکان کو لوٹ جاتے میں ان کے راستے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ قصداً میرے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر میرے حال پر عحایت فرماتے ہیں اور عرب لوگ ہندیوں کو بہت کراہت سے یاد کرتے ہیں فرمایا کہ یہ قول علماء کا ہے ہمارے نزدیک جس قدر قدر و منزالت اہل ہندی کی ہے دوسرے ملک والوں کی نہیں ہے۔ ہند کے علماء جید اور فقراء بھی بے شش اور اہل حرفہ بھی لا تھانی اور طبیب بھی بے نظیر۔ مشائخ مکہ میں شیخ فاسی اور راجحہ احمد دہان و ابراہیم رشیدی وغیرہ تھے جمیع مشائخ و علماء اس فقیر کی خاطر تعظیم کرتے تھے اور شیخ احمد دہان کو تو ہندیوں سے بہت ہی عقیدت تھی۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کو تاکید کرتے تھے کہ علوم و فنون اہل ہند سے حاصل کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مولوی رحمت اللہ صاحب کے مدرسے میں فراغ حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ عبداللہ سراج (جن کی جگہ پرشیخ جمال درس دیتے تھے اور شیخ جمال ان کے شاگرد تھے) حنبلی مصلحہ کی جگہ پر کہ خالی تھی اور حنبلی مصلحہ قریب چاہ زمزم کے تھادرس دیتے تھے۔ اور شاہ محمد احقی صاحب ان کے درس میں ایک ستون سے لگ کر کھڑے رہتے تھے۔ بعد فراغ درس کے عبداللہ سراج صاحب شاہ صاحب کی طرف تشریف لاتے تھے، شاہ صاحب آگے بڑھ کر ملتے تھے، عبداللہ سراج آپ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے خاوب ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ ہند کے بڑے عالم ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے تھے، فرمایا کہ ایک بار شاہ محمد احقی صاحب سے میں نے یا مولوی رحمت اللہ صاحب نے پوچھا کہ عبداللہ سراج صاحب بڑے عالم ہیں یا شاہ عبدالعزیز صاحب آپ نے جواب دیا کہ دینیات میں تو عبداللہ سراج صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سے بڑھے ہوں گے ہاں دوسرے علوم میں شاہ صاحب پیش زائد ہیں۔ دوسرے فون کا اس ملک میں رواج و چچا کم ہے ان لوگوں کو دیگر فنون کی طرف میلان نہیں پھری یہ لوگ اس میں کیسے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔

قصہ تم کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص کو شیطان نے بہکایا کہ تم جو یا اللہ کہتے ہو کبھی اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز بھی سنی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر تمہارا مقبول نہیں ہے اس نے ذکر الہی چھوڑ دیا۔ حضرت حق نے بواسطہ حضرت خصر علیہ السلام کے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے ہمارا ذکر کیوں ترک کر دیا۔ اس نے وہی جواب دیا کہ اس طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی۔ حضرت حق نے فرمایا کہ تمہارا ذکر کرنا بھی ہماری لبیک ہے، اگر ہم تم کو توفیق ذکرنے دیئے تم کیوں نکر ہمارا ذکر کرتے۔

(۳۵۸) بالاخانہ سے لفاذ لا کر مجھے (راوی کو حضرت نے) دیا اور فرمایا کہ پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ عبد القاتح بن سید مصطفیٰ نے شہزادی سے دو شجرے ایک نقشبندیہ آفاقت فخریہ امدادیہ کا اور دوسرا چشتیہ صابریہ امدادیہ کا عربی میں نظم کر کے بھیجے ہیں اور لکھا ہے کہ مجھے ہاتھ غیب نے مدادی ہے کہ لبیک لبیک با جاہہ المامول اور اس قدر مجھے فتوح و فیوض ان ناموں کی برکت سے حاصل ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ عبد القاتح کی مجھ سے بیعت عثمانی ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ بذریعہ خطوط بیعت و اجازت جمیع سلاسل کی حاصل کی ہے خصوصاً چشتیہ صابریہ نقشبندیہ نصیریہ کی خدا کی شان ان کو اس قدر فیض و برکت حاصل ہے کہ حاضرین کو غبطہ ہوتا ہے ان کے والد بھی بھجو سے بیعت کر کے اجازت جمیع سلاسل کی اور ضیاء القلوب وغیرہ لے گئے ہیں پھر میں (راوی) نے عرض کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان شہروں کو آپ طبع کر ادیں اور خدام کو اجازت ورد کی دیجئے۔ اور کچھ شجرے مطبوع مجھے بھیج دیں تاکہ میں اس طرف شائع کروں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا احوال لکھے، تو وہ اس کو بھی چھپوا لکتا ہے اور بائیں عنوان شائع کر سکتا ہے کہ خدا نے حضرت مخدوم علی احمد صابر کو یہ عروج عحایت فرمایا ہے کہ ان کا سلسلہ اکثر بlad میں بالخصوص بلاد عرب و حرثین شریفین و شام و روم و مغرب میں شائع ہوا ہے اور اس کی تائید میں ان شہروں کو پیش کرے۔

(۳۵۹) فرمایا کہ جب میں بھرت کر کے کہ مکرمہ آیا تو یہاں نگملہ علائے کرام کے شیخ جمال بہت بڑے محمد و شیخ تھے، بعد ملاقات و تعارف کے میری بہت ہی توقیر و تعظیم

رحلت فرمائی۔ انا اللہ وانا الیہ راجحون۔ اسی وجہ سے میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو سکا اور اسی درمیان میں حضرت بغرض جہاد افغانستان کو طے گئے، میرا ارادہ تھا کہ میں بھی حاضر حضور ہوں گا مگر اس مابین میں شہر غزنی سے حضرت کی رحلت فرمائی کی خبر آئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجحون۔ میں ان کی خدمت شریف میں بہت قلیل مدت حاضر رہا، کچھ لٹائنگ جاری ہو گئے تھے۔ (حاشیہ) قوله آپ نے فرمایا کہ ظاہر میں اذل بیعت میری طریقہ نقشبندیہ میں حضرت نصیر الدین صاحب دہلوی خلیفہ حضرت شاہ محمد الدین صاحب دہلوی خلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب سے ہوئی اور باطن میں بلا واسطہ خود رسول اللہ ﷺ سے اس طرح ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ ایک بلند جگہ پر رونق افروز ہیں اور حضرت سید احمد صاحب شہید کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہے اور میں بھی اسی مکان میں بوجہ ادب کے دور کھڑا ہوں۔ حضرت سید صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور ﷺ کے ہاتھ میں دے دیا۔ خدا نے مجھ کو کچھ لا رجی بھی دکھایا ہے، اگر ظاہر کروں تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے (پھر وہ کیفیت مجھ سے خفیہ بیان فرمائی)۔ فرمایا کہ بیعت باطنی پہلے ہے اور ظاہری اسی روز ہے یا ایک دو روز بعد۔ فرمایا کہ پیر و مرشد حضرت نصیر الدین اکثر اوقات تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے اور بہت روشنے تھے چجزہ مبارک پر کثرت گری سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، فرمایا کہ میں حضرت نصیر الدین صاحب کی خدمت میں بہت کم رہا میرے والد ماجد بیمار ہو گئے تھے دہلی سے اپنی تمارداری کے لئے طلب کیا میں حضرت سے رخصت لینے گیا حضرت مجھے رخصت کرنے مدرسہ حضرت شاہ مولانا محمد الحسن صاحب سے جو میرے مکان قیام سے کچھ دور قائمیرے ہمراہ تشریف لائے ہر چند میں نے عذر کیا سوئن نے فرمایا جب حضرت واپس جانے لگے میں پاس ادب حضرت کے ہمراہ مدرسہ سینک گیا پھر جب میں واپس آنے لگا حضرت میرے مکان تک رخصت کرنے تشریف لائے پھر جب مراجعت فرمائی میں بدستور مدرسہ تک گیا۔ جب تیسری دفعہ میں مدرسہ سے چلنے والا در حضرت نے پھر قصد تشریف آوری کیا۔ مجبور ہو کر میں حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت نے مجھے سینڈ مبارک سے لگا کر بہت دعا دی اور طریقہ نقشبندیہ کی اجازت عطا فرمائی۔ میرے والد ماجد کی میئے مریض رہے بہت علاج ہوئے کچھ مفید نہ ہوا اور دنیا سے

(۳۶۰) میں (راوی) نے عرض کیا کہ اگر شیخ کبھی کو وظیفہ بتا دے تو دوسرے سامنیں کو بھی اجازت ہے؟ فرمایا کہ اگر شائق ہیں تو کیا مضا کئے۔

(۳۶۱) میں (راوی) نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت پیر و مرشد کا اول ہاتھ کس نے پکڑا ہے، اس سے یہ مطلب تھا کہ پہلے کون شخص مرید ہوانہ یہ کہ آپ پہلے کس سے مرید ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ظاہر میں اول بیعت میری طریقہ نقشبندیہ میں حضرت نصیر الدین صاحب دہلوی خلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب سے ہوئی اور باطن میں بلا واسطہ خود رسول اللہ ﷺ سے اس طرح ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ ایک بلند جگہ پر رونق افروز ہیں اور حضرت سید احمد صاحب شہید کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہے اور میں بھی اسی مکان میں بوجہ ادب کے دور کھڑا ہوں۔ حضرت سید صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور ﷺ کے ہاتھ میں دے دیا۔ خدا نے مجھ کو کچھ لا رجی بھی دکھایا ہے، اگر ظاہر کروں تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے (پھر وہ کیفیت مجھ سے خفیہ بیان فرمائی)۔ فرمایا کہ بیعت باطنی پہلے ہے اور ظاہری اسی روز ہے یا ایک دو روز بعد۔ فرمایا کہ پیر و مرشد حضرت نصیر الدین اکثر اوقات تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے اور بہت روشنے تھے چجزہ مبارک پر کثرت گری سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، فرمایا کہ میں حضرت نصیر الدین صاحب کی خدمت میں بہت کم رہا میرے والد ماجد بیمار ہو گئے تھے دہلی سے اپنی تمارداری کے لئے طلب کیا میں حضرت سے رخصت لینے گیا حضرت مجھے رخصت کرنے مدرسہ حضرت شاہ مولانا محمد الحسن صاحب سے جو میرے مکان قیام سے کچھ دور قائمیرے ہمراہ تشریف لائے ہر چند میں نے عذر کیا سوئن نے فرمایا جب حضرت واپس جانے لگے میں پاس ادب حضرت کے ہمراہ مدرسہ سینک گیا پھر جب میں واپس آنے لگا حضرت میرے مکان تک رخصت کرنے تشریف لائے لگا اور حضرت نے پھر قصد تشریف آوری کیا۔ مجبور ہو کر میں حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت نے مجھے سینڈ مبارک سے لگا کر بہت دعا دی اور طریقہ نقشبندیہ کی اجازت عطا فرمائی۔ میرے والد ماجد کی میئے مریض رہے بہت علاج ہوئے کچھ مفید نہ ہوا اور دنیا سے

چونکہ امثال عبرت خود ہی ناتمام ہے، کیونکہ اس کا انتخاب حضرت والا کی تصانیف میں سے کیا گیا ہے اور تصانیف کا سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے؟ اللهم زد فزد اس واسطے پر رسالہ "علوم امدادیہ" بھی ناتمام ہے اس کو حصہ اول قرار دیا جاتا ہے اگر منظور خدا ہوا تو دیگر حصہ بھی مرتب ہو جاویں گے۔ ناظرین دعا فرمائیں۔ ۱۶ ارذ الجمیل ۱۳۳۶ھ۔

تبیہ از اشرف علی: اس رسالہ میں کچھ ملفوظات حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہیں اور مقصود بالعقل وہی ہیں اور کچھ مقولات احقر کے ہیں جزئیت رسالہ کے سب ان کو بھی باقی رکھا گیا مگر امتیاز کے لیے حضرت کے ارشادات پر سلسلہ سابقہ کی ترتیب سے نمبر کا دیے گئے ہیں اور احقر کی معروضات پر ابجد کے حروف لکھ دیے گئے اور مرکب پر دونوں علاشیں لکھ دیں ایک ایک جزو کے اعتبار سے نیز بعض قلیل ملفوظات حضرت قدس سرہ کے مکر ربھی آگئے ہیں مگر چونکہ وہ کسی زائدہ زائدہ پر مشتمل تھے اس لئے ان کو بحکم فیر مکر قرار دے کر نمبروں کا شمار کرنیں کیا گیا۔ فقط۔ آخر شعبان ۱۳۳۲ھ۔

كتاب العلم

(۳۶۳) حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں مگر کچھ نفع نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑا نفع ہے کہ نام لیتے ہو، یہ تھہارا نام لینا ہی نفع ہے اور کیا چاہتے ہو۔

گفت آں اللہ تو بیک ماست دیں نیاز و سوز دردت پیک ماست
(ف) پس دنیا میں تو یہ رحمت کہ نام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول درضا مرحمت فرمائیں گے۔ [آثار الحجۃ و عذاب ہجۃ جلد و جمیع دعوات عبدیت]

(۳۶۴) ہمارے حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نیٹھے ہوئے تھے اور یہ مضمون بیان فرمار ہے تھے کہ جس طرح راحت و آرام نعمت ہے اسی طرح بلا بھی نعمت ہے کر اسی وقت ایک شخص آیا اس کا ہاتھ زخم کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا اور نعمت تکلیف میں بیٹلا تھا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ

تبیہ

یہ وہ ملفوظات تھے جو بھی مجتمع ہیں باقی متفرق ملفوظات نہایت کثرت سے ہیں جن میں بہت سے ثقات کی السن پر دائر ہیں اور بہت سے احقر کے تالیفات میں جا بجائزو کور ہیں جن کے جمع کرنے کا ایک زمانہ میں بعض احباب نے سلسلہ شروع بھی کر دیا تھا مگر اتفاق سے وہ غیر مکمل رہا لیکن جتنا کچھ جمع ہو گیا تھا اسی کو نقل کرنا غنیمت معلوم ہوا۔ چنانچہ ذیل میں بعنوان علوم امدادیہ میں اس کے خطبہ کے جو مجانب جامع کے ہے نقل کیا جاتا ہے۔

علوم امدادیہ

دیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحيم حامد او مصلیا

بعد حمد و صلوٰۃ بنده ناجیز محمد مصطفیٰ بجنوری مقیم بیرنچہ محلہ کرم علی عرض پر داڑھے کہ احقر نے حضرت حکیم الامم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ کے مواعظ میں سے امثال و حکایات منتخب کر کے ایک مستقل کتاب بنادی تھی نام اس کا امثال عبرت رکھا تھا اس میں بعض حکایات حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کی بھی تھیں جن میں اعلیٰ درجہ کے علوم تھے جی چاہا کہ یہ حکایات الگ ہی جمع ہو جاویں تو اچھا ہے کہ مستفیدین کے لیے بطور تبرک اور یادگار چھوٹا سا رسالہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ ہدیہ ناظرین ہے خداۓ تعالیٰ نافع و مقبول فرمادیں۔ نام اس کا حضرت قدس سرہ کے نام نامی پر علوم امدادیہ رکھا جاتا ہے۔

چونکہ امثال عبرت کی ترتیب متعدد ابواب پر مشتمل کتاب اعلم و کتاب العبادات و کتاب العبادات وغیرہ کی گئی تھی اس واسطے وہی ترتیب اس میں بھی قائم رکھی گئی۔ اور

یار دل رنجان پر فدا ہے دل کو رنج ضرور ہوتا ہے اور ایسے ہی ناخوش سے بھی معلوم ہوا کہ مصیبت جو پیش آتی ہے وہ رنج دہ ہے لیکن چونکہ نسبت آپ کی طرف ہے اس لیے وہ بمحض کو خوش معلوم ہوتی ہے۔ عارف کامل کی بھی شان ہوتی ہے کہ رنج کی بات سے اس کو رنج ہوتا ہے لیکن وہ اس سے راضی ہے اور اس سے کوئی تعجب نہ کرے کہ رنج اور رضا کیسے جمع ہو گئے۔ دیکھو کر بیلوں کے اندر مرچیں بہت ڈالی جاویں تو ان کو کھاتے بھی چیز اور سی سی بھی کرتے جاتے ہیں اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہت بہتا جا رہا ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے پس لذت اور کلفت دونوں جمع ہو سکتی چیز تو وہ یار گودل رنجان ہیں مگر وہ اپنے کمالات سے ایسے ہیں کہ دل ان پر فدا ہے۔ الحاصل کلفت دنیا میں ہو یا آختر میں وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ [امثال عبرت ص ۱۱۷]

(۳۶۷) میں نے حضرت حاجی صاحب ح سے سنا ہے کہ ایک بزرگ مشغول تجنیب نہیں ہوئے تھے ایک کتاب سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس پر نظر پڑ گئی، ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاہ کا اس کے پر بھی اتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا اور کہ اس کے پیچے پیچے ہو یعنی حالت تھی اور جہاں پیٹھتا سارے کے حلقوں پاندھ کراں کے اور گرد بینچے جاتے تھے۔ پھر پس معاہی فرماتے ہیں کہ آج کل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ [وعظ النور]

(۳۶۸) حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی تو قبر ہوتا ہے بصورت لطف چیز کفار پر ہے۔ (اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو ہرگز یہ تمنا نہ ہوتا چاہیے کہ ہم بھی بڑے عہدے حاصل کریں ہم بھی فتن پر سوار ہوں یہ فتن نہیں فتن ہے جس کا نام لوگوں نے ترقی رکھا ہے یعنی الحقيقة قبر ہے جس کی صورت لطف کی ہے) اور کبھی لطف ہوتا ہے بصورت قبر چیز مقبولین کے مصائب اسی طرح اہل ایمان کی جو شکنگی اور پستی کی حالت ہے یہ لطف ہے گو صورت قبر ہے۔ پس اس شکنگی کو دل و جان سے اختیار کرنا چاہیے۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
یعنی جو آپ کی طرف سے ناخوش پیش آؤے وہ میرے لئے پسندیدہ ہے میرا دل میرے

حضرت اس کے لیے کیا دعا کریں گے اگر صحت کی دعا کریں تو اپنی تحقیق سے رجوع لازم آتا ہے اور اگر دعا نہ کریں تو اس شخص کے مذاق کی رعایت نہیں ہوتی اور یہ شیخ کامل کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ دعا کریں کہ اے اللہ! اگرچہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے تحمل نہیں ہو سکتے۔ اس نعمت کو مبدل پر نعمت صحت فرمادیجیے۔ [ضرورۃ الاعتناء بالدين وعظ اذل جلد ۲ دعوات عبد رب]

(۳۶۹) حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو چونکہ محبت حق اور توحید میں کمال تھا اور توجہ حق غالب تھی آپ ہر بات کو توحید کی طرف منعطف فرماتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر بعض حکام مکر کے تشدیدات کا تذکرہ شروع کیا کہ یوں ظلم کرتے ہیں یوں پریشان کرتے ہیں مگر وہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھا اور یہ حالت تھی۔

غطیل آسادر ملک یقین زن توائے لا احب الافلین زن

ہمشہر پر زخواب مسم و خیال ما ہے چہ کنم کچشم یک نیں عکندبکس نگاہ ہے

پس معاہی فرماتے ہیں کہ آج کل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ [وعظ النور]

(۳۷۰) حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی تو قبر ہوتا ہے بصورت لطف چیز کفار پر ہے۔ (اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو ہرگز یہ تمنا نہ ہوتا چاہیے کہ ہم بھی بڑے عہدے حاصل کریں ہم بھی فتن پر سوار ہوں یہ فتن نہیں فتن ہے جس کا نام لوگوں نے ترقی رکھا ہے یعنی الحقيقة قبر ہے جس کی صورت لطف کی ہے) اور کبھی لطف ہوتا ہے بصورت قبر چیز مقبولین کے مصائب اسی طرح اہل ایمان کی جو شکنگی اور پستی کی حالت ہے یہ لطف ہے گو صورت قبر ہے۔ پس اس شکنگی کو دل و جان سے اختیار کرنا چاہیے۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

فرماتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے لباس الہ جنت کا کیونکہ لباسهم فیہا حریر تاکہ تھوڑا دیکھ کر وہ یاد آؤے اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت ہو۔ [روج الاظفار وعظ چہارم، بفت اختر] (۳۶۹) ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رض سے سوال کیا کہ صلوٰۃ بے ذوق سے کیا فائدہ وہ نہماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو وہ کس کام کی وہ تو محض بدن ہی تو زنا ہے فرمایا یاد رکوب جس دن اس کا سوال ہوگا اُس وقت اس بدن تو زنے کی قدر معلوم ہوگی۔ [ملفوظات بفت اختر ملفوظ نمبر ۱۱۸]

(۳۷۰) ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب رض کی جانب یہ منسوب کیا کہ جبرئیل علیہ السلام خود آئینہ تھے رسول اللہ ﷺ کے اس آئینہ میں حضور ﷺ نے اپنے کو دیکھا تو آپ خود اپنے سے مستفیض ہوئے اور جبرئیل علیہ السلام سے آپ کیا فیض لیتے چونکہ بدون آئینہ کے اپنی صورت نظر نہیں آتی اس لیے اس واسطے جبراہیل کی ضرورت ہوئی۔ (ف) حضرت کا کلام مجمل ہوگا راوی نے تفصیل میں غالطی کی مقصود انکار استفاضہ من جبرئیل نہ تھا ورنہ نصوص کا انکار یا تاویل بلا دلیل کرنا پڑے گی مقصود اس استفاضہ کی حقیقت احتیفہ بیان فرمانا تھا۔ یعنی جبرئیل علیہ السلام کا یہ افادہ آنحضرت علیہ السلام کو خود ان کے آنحضرت علیہ السلام سے استفاضہ رو حانیہ سے سبب تھا کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمام خلوّات اور ان کے کمالات حضور کی بدولت ہیں جیسے حضرت عمر بن الخطاب کا حضور ﷺ نے بعض اوقات مشورہ قبول کیا اور وہ مشورہ حضرت عمر بن الخطاب کا تھا لیکن ان کا یہ مشورہ دینا خود حضور ﷺ کے فیض و برکات کا نتیجہ تھا اور اسی وقت اس کی ایک مثال بحث میں آئی کہ مصلی کو اگر خارج من الصلوٰۃ لکر دے اگر مصلی کو اس کے لئے سے تعبیر ہو جائے اور یاد آجائے تب تو نہماز درست ہوگی اور اگر محض اس کی اقتداء و اتباع کرے اور اسے یاد نہ آوے جب نہماز صحیح نہ ہوگی تو یہاں لرأی انتیع غیر مصلی کی رائے کا کیا لیکن لامن ہیث اہد را یہ بدل من ہیث اہد موافق حالانکہ اتباع غیر مصلی کی رائے کا کیا لیکن لامن ہیث اہد را یہ بدل من ہیث اہد فیض جبرئیل علیہ السلام۔ [ملفوظات بفت اختر ملفوظ نمبر ۲۷]

(۳۷۱) ہمارے حضرت حاجی صاحب رض نے فرمایا کہ میرے خلافہ مجاز و قسم کے ہیں ہیں ایک ایسا مسئلہ کیا کہ اس کے بعد حکمت عقلیہ ارشاد

ہرگز مالیوں نہ ہونا چاہیے۔ ہاں دھمن ہوئی چاہیے چاہے تموزی ہی ہو۔ اصحاب کہف کی برکت سے ان کا کتا بھی ایسا شرف ہوا کہ حق تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا جس کو قیامت تک نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ جب حق تعالیٰ کی عنایت کے پر اس قدر ہوئی تو ہم پر کیوں نہ ہوگی۔ [حسن العزیز ملحوظ نمبر ۲۵]

(۳۷۲) ہمارے حضرت حاجی صاحب رض نے دنیا و آخرت کی خوب مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ دنیا و آخرت مثل شخص اور اس کے غل کے ہیں، کوئی سایہ کو پکڑنا چاہیے ہاتھ نہیں آ سکتا اس کی بھی صورت ہے کہ اس شخص کو پکڑ لو کر جس کا یہ سایہ ہے پھر دیکھو اگر تم اس سایہ کو دیکھے بھی دو تباہی نہ جائے گا اور یوں تو ساری عمر برپا کر دو گے کبھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اور اسی ظلیل سے ناشی ہے وہ واقعہ کہ سیدنا حضرت غوث الاعظم رض نیز اور لطیف المزاج بزرگ جو لطیف ولذتیں کھانے کھایا کرتے تھے اور نہایت نیس لباس پہنا کرتے تھے مگر اس کا اہتمام نہ تھا خود بخود حق تعالیٰ دے تو انکار بھی نہ تھا۔

ع ہرچہ از دوست میر سد نیکوست کیونکہ وہ حضرت مکمل یعنی کامل اور ہے والے نہ تھے، وہ مکمل تھے، یہ بات بھی کمال کے خلاف نہ تھی تو کہتے حضرت نے اس میں یہ فرمایا کہ نعماء دنیا میں ہیں نعماء اخروی کا اور نعماء اخروی کے متعلق ارشاد ہے: وفی ذالک فلیتبافس المتنافسون ان حضرات کو نعماء دنیا میں عکس نظر آتا تھا نعماء آخرت کا اور وہ لطف آتا تھا جو نعماء آخرت میں ہوگا ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کی لذت اختیار کرتے تھے۔ (ف) ہمارے فقہاء بھی مثل صوفیہ کے حکماء ہیں بلکہ حقیقت میں بھی دو گروہ حکماء ہیں ایک صوفیہ دوسرے فقہاء تو صوفیہ نے بھی اس کو سمجھا کہ وہاں کی لذتوں کا نہماز ہے اور فقہاء نے بھی اس کو سمجھا چنانچہ صاحب ہدایہ جن کی عادت ہے کہ ہر مسئلہ کی ایک دلیل نظری بیان فرماتے ہیں اور ایک عقلی، جہاں یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ حریر چار انگل تو جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں۔ چار انگل اس طور پر کہ سنجاب یا نائل یا عمامہ یا نوپی اور کسی کپڑے میں لگائے تو کچھ حرج نہیں اول اس کی دلیل نظری ارشاد فرمائی اس کے بعد حکمت عقلیہ ارشاد

نہ کہ آپ کا۔ جب پیر نے حکم دے دیا تو مرید کو عمل کرنا چاہیے۔ قابلیت کا معلوم کرنا مرید کا کام نہیں۔ لس میرا معلوم کر لینا کافی ہے۔ مولانا نے عرض کیا کہ اب تو آپ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، ممکن ہے کہ اس کو تم سے عقیدت ہو مجھ سے نہ ہو، تم ہی کرو، چنانچہ مولانا نے داخل سلسلہ کیا۔ (ف) اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ کس درجہ کے خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ۔ اذًا درخواست بیعت کی میں نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب رض قدس سرہ ہی سے کی اس وقت آپ دیوبند میں تشریف لائے ہوئے تھے تو میری درخواست پر فرمایا کہ اس وقت یہ خطہ شیطانی ہے بعد تحصیل علم بیعت کرنا مناسب ہے اور حضرت مولانا قدس سرہ کا گزر درسہ عالیہ دیوبند میں ایسی جانب سے ہوا کہ وہاں ایشیں حصیں، میں جو مصافی کے لیے چلا تو پھسل گیا، مولانا قدس اللہ سرہ نے میرا بات پڑھ لیا، واقعی دلگیری کی قال یہ تھی، بعض طلبہ کو جو مجھ سے تحصیل علوم میں کم تھے کسی مصلحت سے بیعت فرمایا مجھ کو اس کا بڑا خیال ہوا کہ مجھے کیوں محروم رکھا۔ اس زمانہ میں مولانا حج کے لیے تشریف لئے جاتے تھے میں نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں لکھا کہ مولانا سے آپ فرمادیجئے کہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ وہ عریض بھی غالباً مولانا رشید احمد صاحب قدس اللہ سرہ ہی کو دیا۔ سادگی مزاج میں ایسی تھی کہ مولانا ہی کی تو شکایت اور مولانا ہی کو عریضہ دیا۔ جب مولانا قدس اللہ سرہ واپس تشریف لائے غرچ سے تو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا والا نام لائے۔ اس عریض کے جواب میں خدا جانے کیا کیا با تمن آپس میں ہوئی ہوں گی اور کیا عجب کہ مولانا ہی نے پڑھ کر سنایا ہو اور شکایت کا مضمون دیکھا ہو۔ خیر اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رض نے جواب میں تحریر فرمایا اور وہ خط مولانا ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا کہ میں نے تم کو خود بیعت کر لیا۔ یہ بھی حق تعالیٰ کافضل ہے کہ درخواست مولانا سے کی تھی اور حضرت حاجی صاحب نے بلا درخواست توجہ فرمائے داخل سلسلہ فرمایا کہ کس قدر خوشی اور سرست کی بات ہے۔ حق تعالیٰ کافضل و کرم ہے۔ یہ قصہ ہوا میری بیعت کا اور میں گو مولانا قدس سرہ سے بیعت نہیں ہوا مگر ہمیشہ اپنا شیخ ہی

ایک توهہ کہ میں نے بلا درخواست ان خلفاء کو اجازت بیعت لینے کی دی اور خلیفہ بنایا اور وہی درحقیقت خلفاء ہیں ایک وہ کسی نے خود درخواست کی کہ حضرت میں اللہ کا نام بتلا دیا کروں حضرت نے بوجہ کمال کرم اجازت دے دی اور یہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا نام بتلانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی ایسی ہی درخواست پر کچھ لکھ بھی دیا تو یہ (اجازت) اس قسم اول کے درجہ کی نہیں ہے۔ (مقالات حکمت دعوات عبدالعزیز جلد ۲ صفحہ ۵ سطر ۱۱)

(۳۷۲) حضرت مولانا رشید احمد صاحب رض قدس سرہ بعض مسائل میں جناب مولانا شیخ محمد صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے تھا انہوں تشریف لائے تھے ان ہی ایام میں ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب رض سے بیعت ہو گئے۔ حضرت اول اول علماء کو بیعت نہ فرماتے تھے پھر خواب میں دیکھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لئے حضرت حاجی صاحب رض کے مہماں علماء ہیں اور ان کی مہماں ہمارے ذمہ ہے اس سے ہمارے مرشد علیہ الرحمہ سمجھے کہ میری جماعت کے لوگ علماء زیادہ ہوں گے چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب رض بیعت سے مشرف ہوئے ایک چلہ ذکر میں مشغول رہے اسی لباس میں جو پہن کر تشریف لائے تھے وہی پہننے رہے کچھ نہایت میلے ہو گئے تھے دوسرا جو زادہ ابراہ ن تھا کہ بدلتے، بعد گزرنے پڑے کے رخصت حاصل کی جب روانہ ہونے لگے تو ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو داخل سلسلہ کر لینا حضرت مولانا اذذر کرتے رہے مگر حضرت نے باصرار یہی حکم فرمایا۔ جب مولانا گنگوہ تشریف لائے تو ایک بی بی غالباً اُم کلثوم ناہی نے بیعت کی درخواست کی، مولانا نے انکار فرمادیا کہ مجھے میں اس کی قابلیت نہیں۔ اتفاق سے ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب کا گنگوہ جانا ہوا، ان مساتھے نے شکایت عرض کی کہ جناب مولانا رشید احمد صاحب رض بیعت سے محروم کرتے ہیں، داخل سلسلہ نہیں کرتے، ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب رض نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کرتے، مولانا نے عرض کیا کہ مجھے میں اتنی قابلیت کہاں ہے۔ مرشد نا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں حکم کرتا ہوں کہ آپ داخل سلسلہ کریں اور بیعت لیں۔ قابلیت کا معلوم کرنا میرا کام ہے

امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق

۱۵۹

پس جو کوئی امیر آپ کے دروازہ پر آیا تو اس میں امارت کے ساتھ ایک دوسرا صفت بھی پیدا ہو گئی یعنی نعم کی پس اس صفت کی عظمت کرنی چاہیے لہذا بد اخلاقی کی اجازت نہیں۔

[امثال عبرت ص ۳۶]

(۳۷۸) ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ اللہ اکبر رحمۃ المسخرۃ تھے کیا ہی کوئی بدحال ہو جس پر ہم کفر کا فتویٰ لگادیں وہ اس کے فعل کی بھی تاویل فرماتے تھے۔ حضرت کافماق و طبیعت ہی اس قسم کی تھی اور سبب اس کا غالباً تواضع تھا کہ کسی کو اپنے سے کم نہ بھجتے تھے تواضع کی کیونکہ کیفیت تھی کہ ایک شخص نے حضرت کی شان میں ایک قصیدہ مدحہ لکھا تھا پڑھنا شروع کیا اور حضرت کے چہرے سے برابر آثار کراہت کے ظاہر ہو رہے تھے جب قصیدہ پورا پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں جو تیاں مارا کرتے ہو۔ [امثال عبرت ص ۲۰]

(۳۷۹) ہمارے حضرت حاجی صاحب وظیفہ سے اگر کوئی خادم اس قسم کی (یعنی ذکر کے تافع نہ ہونے کی) شکایت کرتا تو فرماتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے شریات کی تمنا کرتے ہو اور اکثر ایسے موقعوں پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

یا بم اور ایمانی بم جستجوئے می کنم
حاصل آیہ بیانیا یا آرزوئے می کنم

(ف) (نصر) بلا بودے اگر ایں ہم نبودے، کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلے کھینچا اور روزانہ سوالا کھا اس ذات پر حاگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ شاید حضرت مجھ سے ناراضی ہیں، شہرہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اگر میں ناراضی ہوتا تو تمہیں سوالا کھ پڑھنے کی توفیق ہی کہاں سے ہوتی۔ [امثال عبرت ص ۸۵]

(۳۸۰) حضرت حاجی صاحب وظیفہ سے کسی معتقد نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کے بیماری کی وجہ سے مت بکب حرم میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، آپ نے خواص سے فرمایا اگر یہ شخص عارف ہوتا تو اس پر بھی افسوس نہ کرتا، کیونکہ مقصود قرب حق ہے اور اس کے لیے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہے بیماری بھی ایک طریق ہے تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے لیے خود ایک طریق میں کرے۔ (ف) یہ مرتبی کے اختیارات میں ہے طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے بزارہ ادرجہ بہتر ہے۔

مجھ تارہا۔ [مقالات حکمت جلد دوم دعوات عبدہت ص ۵۵ صفحہ ۱۷۱] (۳۸۲) حضرت کے ایک عزیز نے جو اپنے ہی حضرات میں سے ایک بزرگ سے بیعت ہیں حضرت حاجی صاحب کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ تم کو نسبت باطنی تو حاصل ہی ہے اگر اخلاق کی درستی چاہئے ہو تو اپنے مامول کے پاس جاؤ۔ [سن المزہر ص ۱۲۲]

كتاب العبادات

(۳۸۳) حضرت مولانا فتح محمد صاحب وظیفہ حضرت حاجی صاحب وظیفہ کی حکایت بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا بہت دیر تک بیٹھا باقیں کرتا رہا۔ آخر جب بہت دیر ہوئی تو میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا۔ حضرت فرمائے لگئے کہ مولانا آپ نے یہ کیا فرمایا، کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوش کرنا عبادت نہیں۔ (ف) حضور نبی کریم ﷺ صاحبہ بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حد جواز تک جس قسم کی باتیں صحابہ بنی اسرائیل فرماتے حضور ﷺ ان کے ساتھ شریک رہتے۔ مگر عوام الناس کیا سمجھتے۔

درینا یہ حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام

كتاب العادات

(۳۸۵) حضرت حاجی صاحب وظیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا تھا۔ حضرت وظیفہ نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت ہی کہا لیکن تم اس سے زیادہ بے جیا ہو کر میرے منہ پر کہتے ہو۔ [امثال عبرت ص ۵]

(۳۸۶) حضرت حاجی صاحب وظیفہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ کرے تو تم کبھی مناظرہ نہ کرو، اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ [امثال عبرت ص ۱۹]

(۳۸۷) حضرت حاجی صاحب امراء کی بہت خاطرداری کرتے تھے اور وجہ اس کی یہ فرماتے تھے نعم الامیر علی باب الفقیر یعنی جو امیر فقیر کے دروازہ پر جائے وہ بہت اچھا ہے،

[۱۰۳ ص] امثال عبرت میں زیادہ ہو گا۔ [امثال عبرت میں]

(۳۸۲) حضرت حاجی صاحب رض فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشقِ احسانی ہیں صفاتِ بخت کے ساتھ ہمیں محبت کہاں۔ (ف) انہوں انسان کے ساتھ تو ہمیں یوں ہی محبت و عشق ہو جاتا ہے اور خدا کے ساتھ مغض اس کے انعام احسان کی وجہ سے محبت ہو۔ [امثال عبرت میں] [۱۲۲ ص]

(۳۸۷) ۔

گر مرادت را نداق شکرست بے مرادی نے مراد دلبرست
اور عاشق کو جو بے مراد کہہ دیا ہمارے حضرت اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ بے مرادی عشق کو کہتے ہیں، کیونکہ عاشق کا خاصہ ہے کہ وصل کے جس مرتبہ پر پہنچے اس کے آگے کی ہوں ہوتی ہے اور اشتیاق بڑھتا ہے، ہاں جس کے محبوب کا جمال متناہی ہوا س کی مرادیں ختم ہو سکتی ہیں اور جہاں غیر متناہی ہو وہاں نہ صن ختم نہ طلب ختم۔ (ف) بلکہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے اشتیاق اور زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ حالت ہوتی ہے جس کو شوخ فرماتے ہیں ۔
دل آرام در بر دل آرام جوئے لب از تھنگی خشک در طرف جوئے
نہ گوئم کہ بر آب قادر نیند کہ بر ساحل نیل مستقی اند

كتاب المستفرقات

(۳۸۸) حضرت حاجی صاحب رض کی ایک حکایت مولانا گنگوہی رض سے ہے کہ سہارنپور میں ایک مکان تھا اس میں جن کا خخت اتر تھا جس سے وہ مکان متروک کر دیا گیا تھا، اتفاق سے حضرت حاجی صاحب پیران کلیر سے واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے تو مالک مکان نے حضرت کو اسی مکان میں شہر بیا کہ حضرت کی برکت سے جن دفع ہو جائیں گے۔ رات کو تجھ کے واسطے جب حضرت اٹھے اور عمومات سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص سامنے آ کر پہنچ گیا۔ حضرت کو حیرت ہوئی کہ باہر کا آدمی اندر کوئی نہ تھا اور کندھی گئی ہوئی ہے، پھر یہ کیسے آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ

پردہ و مساف را حکم نیت م درش کہ ہر چہ ساتی ماریخت میں الطاف است
[امثال عبرت میں] [۸۸ ص]
(۳۸۹) حضرت رض کا معمول تھا کہ جب ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آخر تک کھاتے رہتے تھے اور کھاتے تھے اور وہ سے کم تو حضرات بزرگان دین کیا کرتے ہیں کہا نہیں کرتے (یعنی عمل کرتے ہیں دعویٰ نہیں کرتے) اور حضرت رض فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لاؤے تو ضرور کھانا چاہیے اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ [حسن العزیز میں] [۱۱۸ ص]

كتاب الاخلاق

(۳۸۲) ہمارے حضرت حاجی صاحب رض پاؤں پھیلا کر نہ سوتے تھے، کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے۔ فرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے پاؤں بھی پھیلاتا ہے۔ [امثال عبرت میں] [۱۲۲ ص]

(۳۸۳) ہمارے حضرت حاجی صاحب رض کی کسی نے تکفیر کی، حضرت نے سن کر بنا نہیں مانا اور پیغما بر کر میں عند اللہ اگر مومن ہوں تو مجھ کو کسی کی تکفیر مضر نہیں اور اگر (خدانخواستہ) کافر ہوں تو بر امانے کی کیا بات ہے۔ [امثال عبرت میں] [۶۷ ص]

(۳۸۴) ہمارے حضرت حاجی صاحب رض فرماتے تھے کہ بجل اور جبن بھی مطلقاً بری خصلتیں نہیں، کبھی اچھی بھی نہیں، جبکہ اچھے مصرف میں صرف کریں۔ مثلاً ایک سائل آیا کہ مجھ کو سورہ پیدجیتے شادی میں ناج کراواؤ گا، سو یہاں بجل ہی بہتر ہے، اسی طرح غصہ پہلے مسلمانوں پر آیا کرتا تھا بودا مصالح کے اپنے نفس پر اور شیطان پر اور اعداء اللہ پر غصہ آنے لگا پس محل بدل گیا اور ترکیہ کے بعد اخلاق بدلتے نہیں بلکہ اخلاق طبعیہ بحال ہا باقی رہتے ہیں صرف ان کا محل بدل جاتا ہے۔ [امثال عبرت میں] [۱۰۵ ص]

(۳۸۵) میں نے اپنے ہمدرد مرشد سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے تو وجہ سمجھی ہے کہ اس کی ایک رکعت میں بوجہ معرفت کے خلوص

است مگر فقیر غم خورده می ترسد کدام تکلیف سفر که عظیم است تن ناتوان آں عزیز را رسدا صدمہ آں بر جان ناتوان احتراز افتاد فقط۔ (مکاتیب رشیدیہ م) ۲۸
 (ف) یہ اعلیٰ درجہ کی شان مشینت ہے کہ اپنے عزیز بول پر اس درجہ شفقت فرمائی جاوے حال امام ربیٰ حضرت مرشدنا و مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ انہیں فرشتہ خصلت خوش نصیب جماعت میں ہیں جن کی باطنی تعلیم کا زمانہ بہت ہی قلیل تھا۔ چنانچہ ”مزکرة الرشید“ حصہ اذل میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنے مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رضیخانہ کی خدمت میں صرف چالیس روز رہے اور اکتا بیسیوں دن جب آپ طلن کو روانہ ہوئے تو مرشد العرب والجم نے کامیابی کا پروانہ آپ کو عطا فرمادیا اور بیعت کی اجازت دے دی تھی، اس چلہ میں آپ کا امتحان لیا گیا اور کسوٹی پر کس کر آپ کے قلب کو پرکھ لیا گیا تھا کہ اس میں کبر و نجوت کا کوئی شایبہ تو باتی نہیں رہا۔ ایک بار آپ خود فرماتے تھے کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا پارڈا نا گوار انہیں کیا، آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا و شوار بھی ہے اور نا گوار بھی رخصت چاہی، حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چند روز خبروں میں خاموش ہو گیا۔ قیام کا قصد تو کریماً مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد جب اعلیٰ حضرت مکان تشریف لے جانے لگے تو میرے دوسرا پر مطلع ہو کر فرمانے لگے ”میاں رشید احمد کھانے کی فکر مت کرنا، ہمارے ساتھ کھائیو“۔ دوپہر کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالہ میں کوفتے تھے نہایت لذیذ اور دوسرے پیالہ میں معمولی سالن تھا، اعلیٰ حضرت نے مجھے دستخوان پر بٹھایا مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے عیینہ ہی اپنی طرف رکھا اور معمولی سالن کا پیالہ میرے قریب سر کا دیا۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ کھانے لگا۔ اتنے میں حضرت حافظ ضامن صاحب تشریف لائے کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا ہوا دیکھ کر اعلیٰ حضرت سے فرمایا ”بھائی رشید احمد کو اتنی دور باتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے اس پیالہ کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے“۔ اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیا ”اتا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلارہا ہوں جی تو

حضرت میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے یہ مکان مت روک ہو گیا ہے یعنی جن ہوں۔ مدحت دراز سے حضرت کی زیارت کا مشتق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری تمنا پوری کی۔ حضرت رضیخانہ نے فرمایا ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر مخلوق کو ستاتے ہو، تو بے کرو، حضرت نے اس کو تو بے کرائی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو سامنے حضرت حافظ صاحب رضیخانہ تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ملے ہو۔ اس نے کہانہ حضور ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بڑے صاحب جلال ہیں ان سے ڈرگلتا ہے۔ تو صاحب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری وہ شیئے ہے کہ جن و انس سب مطیع ہو جاتے ہیں (اور یہ لزوم عادی ہے کہی حکمت سے تخلف بھی ممکن ہے)۔ ختم شذر سمالہ علوم امدادیہ

مکتوبات شریفہ

خدام کے پاس منتشر طور پر کثرت سے موجود ہیں اگر کوئی ہمت کرے کسی قدر کوشش سے جمع ہو سکتے ہیں۔ کچھ مکتوبات مکاتیب رشیدیہ میں اور کچھ مکتوبات امدادیہ ملقب بہ صد فائدہ میں شائع ہو گئے ہیں اور مکتوبات میں حضرت قدس اللہ سرہ کے مؤلفات بھی ہیں جن میں سے بعض مشہور مؤلفات کی نہرست درج کی جاتی ہے: غذائے روح، جہاد اکبر، مشنوی تحفۃ العثاق، خیاء القلوب فارسی، در دنار غناک، گلزار معرفت، رسالہ وحدۃ الوجود، ارشاد مرشد۔

شان مشینت

حال حضرت مولانا گنگوہی کا ایک والا نامہ ایک مخلص کے نام لکھا گیا ہے جس میں مولانا نے اپنے سفر جاڑ کے متعلق یہ تحریر فرمایا ہے۔ مع ہذا ایک عنایت نامہ حضرت مرشد کا مسوار ۲۲ رب جب آیا۔ بجواب عریضہ بندہ جس میں مولانا مرحوم کے انتقال کی خبر تاہمی تھی اس میں ایک نقرہ مخدود مناسک نے ایسا لکھا کہ جس سے ہمت کوتاہی ہوئی اور طبع کامل کوتاںید ہوئی۔ لکھتے ہیں ”علوم می شود کہ قصد ایں صوب است عزیز میں ایں سفر بہتر

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

۱۶۵

حضرت کے شامل نہ گیا۔ اس کے بعد جب میں حضرت سے ملا تو میں نے اس کی حقیقت بیان کر دی۔ حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا تھیں مولا نا یعقوب صاحب کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔ [ذکرۃ الرشید ص ۲۸۵] (ف) یہ ہے حقیقت شناسی و شان حکیمانہ کر ہر طالب کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق معاملہ کیا جاوے جس کا کہیں نشان بھی نہیں والا نادر۔

حال حضرت مولا نا اشرف علی صاحب مظلہ جب کہ معظمر سے چلنے لگے تو اعلیٰ

حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ مولا نا رشید احمد صاحب سے کہدینا کر گو آپ کے خلاف لوگ یہاں آ کر طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں مگر آپ اطمینان رکھیں یہاں ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ہماری آپ کی محبت اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ بھی باقی رہتی ہے اور میں نے جو ضیاء القلوب میں آپ کی نسبت کچھ لکھا ہے وہ الہام سے لکھا ہے، کیا میرا وہ علم اب بدل جاوے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان و اپنے آ کر اعلیٰ حضرت کا پیام حضرت مولا نا کو پہنچا دیا۔ حضرت مولا نا قدس سرہ نے فرمایا بھائی ہم تو توکل کے بیٹھے ہیں اس ارشاد سے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے قلب میں جو عنینا ش حضرت مولا نا کی تھی وہ ظاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے شخص کامل کی شہادت کیا وقت رکھتی ہے۔ [ذکرۃ الرشید ص ۳۱۰] (ف) طالبین کے ہر معاملہ پر نظر رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں کوئی کر کے دیکھے۔

حال حضرت نے آخر میں ضیاء القلوب کی چند سطر ان دونوں صاحبان (یعنی حضرت مولا نا گنگوہی و حضرت مولا نا نونوی ہوشیاری) کی تعریف میں لکھی ہیں، نہایت درست ہیں، یوں حضرت نے اپنی کسر نفسی کو کم فرمایا ہے، مگر اظہار مرتبہ ان دونوں صاحبان کا اس سے منثور ہے اور خود احقر سے ارشاد فرمایا تھا اذل الحجج میں جب حاضر خدمت ہوا تھا کہ مونوچی رشید احمد صاحب میں اور مجھ میں کچھ فرق نہیں لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے ایک ہمدردی کو تھام ساچ کرنے کا تھا کہ ایسے لوگ بھی پہلے زمانہ میں ہوا گھوڑتے تھے اب متوں سے پہلے ہو جائے۔ [سوانح مولا نا نونوی ہوشیار ص ۱۱۳] (ف) اپنے

یوں چاہتا تھا کہ چوڑھوں چماروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا۔ اس فقرہ پر اعلیٰ حضرت نے میرے چہرہ پر نظر ڈالی کہ کچھ تغیرت نہیں آیا۔ مگر الحمد للہ میرے قلب پر بھی اس کا کچھ اثر نہ تھا میں سمجھتا تھا کہ حقیقت میں جو کچھ حضرت فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے اس دوبار سے روشنی ہی کاملاً کیا تھوڑی نعمت ہے جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے اس کے بعد حضرت نے پھر کبھی میرا امتحان نہیں لیا۔ [ذکرۃ الرشید ص ۷ جلد ۲] (ف) یہ ہے تربیت اخلاق۔ اور تصرف کی قوت اس سے ظاہر ہے کہ چالیس روز میں واصل ہنا دیا۔

حال حضرت اعلیٰ جناب حاجی امداد اللہ صاحب ہوشیار نے جو ایک بار حضرت مولا نا قدس سرہ کو لکھا کہ اپنی حال لکھنے تو حضرت مولا نا قدس سرہ نے جواب میں یہ بھی فقرہ لکھا تھا کہ بندہ کو مدح و ذمہ کیساں ہے جس پر حضرت حاجی صاحب ہوشیار نے بہت اظہار سرست فرمایا کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ولایت کا ہے۔ [ذکرۃ الرشید ص ۲۳ جلد ۲] (ف) تفقید احوال خدام لوازم شیخست صحیح ہے۔

حال ہمارے حضرت حاجی صاحب کی بھوجانی نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ آپ کے یہاں اتنے آدمی آتے ہیں کچھ نہیں بھی تو جلالیے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم سے کچھ نہیں ہونے کا آخر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جتنی روشنی کھاتی ہواں میں سے آدمی روشنی چھوڑ دو، ان بیچاری نے ایک دو وقفہ تو ایسا کیا آخر کہنے لگیں کہ آدمی روشنی نہیں چھوڑی جاتی ہاں روزہ کہو تو رکھ لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی نہیں چھوڑی جاتی تو ساری کیونکر چھونے گی۔ [ذکرۃ الرشید ص ۲۸۲] (ف) یہ لطیف طریقے امتحان طالب کے جن کو بھر مشائخ محققین کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔

حال ایک بار حضرت گنگوہی ہوشیار نے ارشاد فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ہوشیار کو جناب امیر کرم اللہ وجہہ سے نسبت مطابقی کی تعلیم تھی اور ان سے مولا نا یعقوب صاحب کو پہنچ کر معظمر میں اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے حضرت حاجی صاحب مولا نا یعقوب ہوشیار کی خدمت میں تغیرف لے گئے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا۔ اس لیے

تربيت یافتول کے مدارج پر اور تنبیہ بجز ناقہ کامل کے درسے کا کام نہیں۔

حال ایک دن ارشاد فرمایا کہ مرشدنا حاجی صاحب حفظہ اللہ علیہ گنگوہ تشریف لائے ہوئے تھے، راپور کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میرا گھوڑا گم ہو گیا، آپ دعا کیجئے کہ مل جاوے، حضرت اس وقت منوری معنوی دست مبارک میں لئے ہوئے تھے اس کو کھول کر پڑھنے کا جواہر دیکھا تو بر سر صفحہ شعر لٹلا۔

گر بر دالت عدو پر فتنے دشمنے را بروہ باشد دشمنے (ف) سائل کے مذاق کا اتباع نہ کرنا بلکہ اس وقت جو اس کی حالت کے مناسب ہو وہی معاملہ کرنا خاص شان ہے مشینت کی۔

حال حضرت (گنگوہی) ارشاد فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب حفظہ اللہ علیہ گنگوہ سے بیعت کے لئے عرض کیا تھا مگر منظور نہیں فرمایا۔ [تذكرة الرشید ص ۲۹۰]

(ف) ایسا عذر وہ شیخ کر سکتا ہے جو طالب کی مصلحت کو اپنی مصلحت پر مقدم رکھے۔

حال ایک شخص (علمی میں) حضرت حاجی صاحب حفظہ اللہ علیہ گنگوہ کے پاس میں دوپہر کے وقت آتے تھے اور حضرت کی نیند ضائع ہوتی مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی سے کچھ نہ فرماتے۔ ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحب کو تاب نہ رہی اور اس شخص کو حتی سے ڈاٹا اور کہا کہ بے چارے درویش رات کو تو جا گئے ہیں دوپہر کا وقت تھوڑا اس اسونے کا ہوتا ہے وہ تم خراب کرتے ہو کس قدر بے انصافی ہے آخر کچھ تو حافظ چاہیے۔ [امثال عبرت ص ۸۸]

(ف) اس تدری شفقت اعلیٰ درج کی شان مشینت ہے اور حضرت حافظ صاحب کی تیزی بضرورت تھی بعض اوقات اصلاح اخلاق بحر سیاست وختی کے نہیں ہوتی۔

کرامت

حال ایک مرجب آپ کو اسی زمان طالب علمی میں مولا ناق اسم العلوم اور چند دیگر احباب کے ساتھ تھانہ بھون جانے کا اتفاق ہوا اور سارے مجمع نے مسجد میں قیام کیا، اتفاق سے آپ کا جوتا بدلا گیا اور کوئی صاحب اپنا جوتا چھوڑ کر آپ کی غلبیں پہن گئے۔ عشاء کا

وقت تھا آپ اور آپ کے احباب جوتے ہی کی تلاش میں تھے کہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا "بدلا ہوا جوتا ہمیں دکھاؤ"۔ چنانچہ حضرت مولا ناق گنگوہی خداوس جوتا کو انھا کر اعلیٰ حضرت کے پاس لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے چراغ کے سامنے دیکھ کر فرمایا "یہ تو حبیب حسن کا ہے"۔ حبیب حسن حضرت مولا ناق محمد قاسم صاحب کے ساتھیوں میں ایک لڑکا تھا لیکن اس درجہ انجی تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اس سے مطلق کبھی تعارف نہ ہوا تھا یہ اعلیٰ حضرت کی پہلی کرامت تھی جس کو مولا نانے اول مرتبہ دیکھا اور عقیدت کے ساتھ دل کی کشش کا باعث ہوا گویا سانحہ سال تک تعمیر ہونے والے عالیشان محل کی اس وقت بیاندار گئی اور عمر بھر کی بیع و شر کا اس رات میں سودا شروع ہوا۔ [تذكرة الرشید ص ۲۲ جلد ا]

حال حضرت امام ربانی سے ایک مرتبہ کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ "اطمینان رکھو، میں عرب روان ہوئے وقت تم سے مل کر جاؤں گا۔ مگر آپ گرفتاری و حوالات میں رہے آپ کی رہائی سے قبل ہی اعلیٰ حضرت نے بیت اللہ کی جانب بھرت فرمائی"۔ گویا سائل کا مطلب یہ تھا کہ ملاقات کے خوش کن الفاظ محض تسلی کے لیے تھے جس کا موقع نہیں ہوا۔ حضرت نے بہت ہی بہکی آواز سے فرمایا "اعلیٰ حضرت وعدہ خلاف نہ تھے"۔ چنانچہ دوسرے طرق سے معلوم ہوا کہ باوجود تجھیں پہرہ کے اعلیٰ حضرت کے مرید اقبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ روایت ہے کہ حکیم صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرید اقبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر جمیں شریک تھے کہ جس زمانہ میں مولا ناق گنگوہی جبل خانہ میں تھے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ میاں کچھ سننا کیا مولوی رشید احمد کو پچانی کا حکم ہو گیا۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت کچھ پتے نہیں ابھی تک تو کوئی خبر آئی نہیں۔ فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلو یہ فرم کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب کا پیان تھا کہ برسات کا زمان تھا مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اور میں اور غالباً مولوی مظفر حسین صاحب کا نہ حلولی غرض تین آدمی چلے شہر سے نکل کر تھوڑی دور جا کر اعلیٰ حضرت زمین کی گھاس کے قدر تی سبز مختل فرش پر بیٹھ

سے یہ حال آمد انگریز کا معلوم ہو گیا ہو گا کہ پہلے سے تشریف لے گئے۔ (تذكرة الرشید ص ۲۸۲) (ف) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت بھی وہاں ہی تشریف رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے البار سے پوشیدہ فرمادیا ہو۔ کما فسر بعضہم قولہ تعالیٰ و جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجا بنا مستوراً.... الآية۔

حال از آنجا کہ حضرت ایشاں ماقبلی و روحي فدا کو بغاۃت مرتبہ تمکین حاصل ہے اور سجادہ شریعت پر علی الدوام مستقیم اجاتع سنت سید اخلاق رضیہ ان کا ہے اور اعتناب از بدعات ضالہ عادت کریں آپ کی ہے مجبوراً کشف پر کفشن مارتے ہیں اور ہرگز کرامت اور خرق عادت سے لذت نہیں لیتے تو پھر رغبت و خواہش ظاہر کرنے کا کیا ذکر الا اس میں مجبوری کہ بلا قصد و اختیار سرزد ہو جاوے کے فاعل حقیقی اور ہے اور اس میں اختیار نہیں پس ثابت ہوا کہ خرق عادت و کرامات حضرت ایشاں بہت ہیں از الجملہ دو چار بیان کے جاتے ہیں۔

(۱) ہنگام قیام رباط اسمبلی سینہ اس کے لڑکے سے بعض باتیں خلاف طبع مبارک ہو سیں اس وجہ سے آپ نے وہاں کا قیام ترک کر کے رخ توجہ بحضور باری تعالیٰ کیا اسی بارے میں بلا کسی کی تحریک کے ایک حکم نامہ بتا کیا یہ ریاست حیدر آباد سے وہاں کے وکلاء کے نام پہنچا کہ مجملہ دو مکانات ریاست کے جو مکان و جگہ آپ پسند فرمائیں اس کی کنجی خدام حضرت کے پروردگری جائے۔ چنانچہ وکلاء ریاست نے بڑی التجا سے یہ کیفیت حضوری میں عرض کی اور ایک مکان کی کنجی حوالہ ملازمان عالیٰ کر دی۔ باہمی تصور ا زمان گزر اتحاک کر ایک خلص نے ایک مکان مستقل حارة الباب میں فریب کر کے حضرت ایشاں کے نذر کیا۔

(۲) قبل ترمیم نہر زبیدہ خاتون جیسی کچھ قلت پائی کی مکہ کرم میں تھی ظاہر ہے یہاں تک کہ ایام حج میں ایک ملک ایک روپیہ دو روپیہ نے کم کو نہ آتی تھی اس میں بھی بہت سخت وقت اٹھانی پڑتی تھی اور غیر ایام حج میں انتہائی درجہ ایک روپیہ میں دو ملک آتی تھیں بالخصوص محلہ حارة الباب میں آب شیریں حکم پیشہ حیات رکھتا تھا۔ جب حضرت انگریز نے اور کچھ نہیں پوچھا اور گھوٹے کو دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا غالباً حضرت کو کشف

کئے اور کچھ دیر سکوت فرمایا کہ اور فرمایا پھر چلو مولیٰ رشید احمد کو کوئی شخص پھانسی نہیں دے سکتا۔ خداۓ تعالیٰ کو ان نے ابھی بہت کچھ کام لینا ہے۔ چنانچہ چند روز بعد اس کا ظہور ہو گیا۔ والحمد لله علی ذلک۔ (تذكرة الرشید ص ۸۵)

حال ایک دن امداد امیر کاذک مذکور تھا حضرت نے فرمایا رامپور میں ایک شخص نے ادھر ادھر سے چندہ کے طور پر جمع کر کے مسجد بنائی تھی مسجد بن بن گئی لیکن کنوں سار پر نہ بیٹھتا تھا اور برابر محل نہ تھی آتی تھی۔ اس شخص کو بڑا فکر تھا کہ روپیہ تو رہا نہیں اور کنوں درست ہوتا نہیں یا اللہ کیا کروں ایک روز بھی سوچ کرتے کرتے روپڑے اور روٹے روٹے غنوڈی سی آگئی تو دیکھا کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تسلی رکھا ایک شخص آ کر تیرا کام کر دے گا، پھر ان کو شفی سی ہو گئی، اگلے روز ایک شخص لمبا جھٹنگا کسی گاؤں کا آیا اس نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی کنوں بن رہا ہے اس میں کچھ خرابی ہے، انہوں نے اس کو کنوں دکھلایا اور مزدوری کے لیے کہا۔ اس نے کچھ معمولی سی محنت کی اور جلد سرکنڈے سوچ دیگرہ منگا کر بینڈے بنائے اور خود کنوں میں اتر کر دو تین جھام لگائے اور بینڈے کام میں لایا اور جلد نکل آیا لوگ کہتے تھے کہ وہ کنوں بالکل سار پر جا بیٹھا اور اچھا خاصہ ہو گیا۔ (تذكرة الرشید ص ۲۷۹)

حال ایک بار ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے حضرت مثلاً سوچنے پنجاب میں مقیم تھے اور باغیان غدر کی تفتیش ودار و گیر ہو رہی تھی تو ایک شب کسی نے مجری کر دی کہ حضرت ایک شخص کے اصلب میں مقیم ہیں مگر ضلع خود سوار ہو کر شب کو قریب نہم شب دروازہ اصلب پر آموجود ہوا اور کواز مکھلوانے چاہے بڑے بھائی نے جو مالک مکان تھا انگریز سے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہانہ کر کے کہا کہ وہ کھولو چنانچہ کواز کھولے گئے دیکھا تو بستر لگا ہوا تھا اور سب سامان لینے کا درست تھا لیکن حضرت نہ تھے ادھر ادھر دیکھا کہیں پتہ نہیں چلا۔ مالک مکان سے پوچھا کہ یہ بستر کس کا ہے اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے خوف کے مارے پیشتاب خطا ہو گیا لیکن انگریز نے اور کچھ نہیں پوچھا اور گھوٹے کو دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا غالباً حضرت کو کشف

واقعات بروایت مشی محمد عمر صاحب ساکن چائل ضلع الہ آباد تمہید

حضرت کے مواعظ و نیز دیگر تصنیفات و ملفوظات میں حضرت حاجی صاحب
پیغمبر کے افعال و اقوال کا حوالہ اکثر دیکھا کرتا ہوں حضرت موصوف کے چند حالات جو
حضرت مولانا (محمد سین صاحب اللہ آبادی) پیغمبر کے ذریعہ سے میرے کانوں میں
پڑے ہیں ہدیہ انہیں حضور میں پیش کرتا ہوں۔

حال (۱) حضرت نے فرمایا کہ معمظہ میں پہنچنے کے بعد مجھے شیخ کی تلاش ہوئی، اس
وقت مختلف خاندان کے مشائخ وہاں موجود تھے میں متعدد تھا کہ کس سے بیعت کروں
رات کو حضرت شیخ محبت اللہ اللہ آبادی قدس سرہ کی زیارت ہوئی انہوں نے یہ شعر پڑھا۔
بان غرما پچھا حاجت سرو و صنوبر است شمشاد سایہ پرور ما زکر کمتر است
بس تکین ہو گئی اور صبح کو جا کر حضرت کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گیا۔

(۲) حضرت نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہونے کے بعد بہت سے
درویشوں کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا مگر جوں جوں لوگوں سے ملتا گیا حضرت
حاجی صاحب کی وقت روز بروز بڑھتی گئی۔

(۳) فرمایا کہ ایک دن میں حضرت حاجی صاحب کے دردولت پر حاضر ہوا، معلوم ہوا کہ
اس وقت حضور بالا خانہ پر تشریف فرمائیں۔ اور لیئے ہوئے ہیں۔ میں نے ادب کی وجہ
سے اس وقت اطلاع کرتا مناسب نہ جانا اور اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اتنے میں چار آدمی اور
آگئے، حضرت کے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے جو صورت تھی بتا دی۔ ان لوگوں
نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ حضرت حاجی صاحب کی طرف مراقب کر کے بیٹھیں ان کو
اطلاع ہو جائے گی۔ تو خود ہی تشریف لاویں گے۔ وہ لوگ مراقب ہو کر بیٹھے، دیکھتا کیا
ہوں کہ حضرت بالا خانہ سے تشریف لارہے ہیں جب آ کر بیٹھنے گئے تو میں نے عرض کیا کہ
حضور کو اس وقت بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت مجھے تکان زیادہ تھا،

نے اس محلہ میں قیام فرمایا اور وقت پانی کی ملاحظہ فرمائی حضور جن سجان و تعالیٰ میں دعا
فرمائی، چند دن گزرے تھے کہ مجلس شوریٰ ترمیم نہ بزیدہ منعقد ہوئی اور اول جس شخص نے
اس مجلس میں چندہ داخل فرمایا ذہانت اعلیٰ حضرت ایشان تھی۔ خلاصہ یہ کہ کام جاری ہو کر ہر
کوچ میں اور روازہ حضرت پر چشم پانی کا جاری ہو گیا۔

(۴) اسی زمانہ میں ایک مہندس نے آپ کے قرب میں ایک مکان تعمیر کیا اور
اس میں ایک غرفہ رکھا جس سے حضرت کے دولت خانہ کی بے پر دگی ہوتی تھی اور انواع و
اقام کے ظلم و جرائم تشریف میں کرتا تھا اور آپ کی طرف سے اپنے دل میں عنادرخت
تھا۔ حضرت نے ایک شخص کے ذریعے سے کہتے تھی تسلیخ فرمایا لیکن اس نے کچھ خیال نہ کیا
بلکہ کلمات بیہودہ زبان پر لایا۔ لوگوں نے یہ واقعہ حضرت سے عرض کیا اور اکثر احباب کی
رائے ہوئی کہ حاکم وقت کے یہاں استغاثہ کیا جائے بجواب اس کے حضرت ایشان نے
ارشاد فرمایا کہ میرا استغاثہ حاکم حقیقی کے یہاں ہے حکام جمازی کے آگے درخواست کرنا
درست نہیں ہے۔ ایک ہفت بھی نہ گزرا تھا کہ تین برہنہ اہل چشت نے اس پر گزر کیا اور
با وجود اعزاز بلیغ و اعتبار عظیم بلاوجہ ظاہری اپنے منصب و عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا اور
ایسی ذلت خواری میں ہتھا ہوا کہ اللہ کسی کو نہ دکھاوے۔ پیش کیج کہا ہے کہ خواجہ گان چشت
علیہم الرحمۃ نے اپنی تکوارے بنیام کر کے لٹکار کی ہے اور کسی پر اس کا دار نہیں کیا جاتا مگر جو
کوئی اس سے لگ اور چیز کر لھتا ہے اپنی کرنی کو بھرتا ہے۔

بی تحریک کردیم دریں دیر مکافات با درود کشاں ہر کہ در افادہ بر افادہ
کرامات و خرق عادات حضرت ایشان کے تو بہت ہیں لیکن چونکہ نفس نہیں
ایسے اذکار سے خوش نہیں ہوتا لاجوار اتنے کوئی کا لکھ کر بس کیا تاکہ اس ذکر کی برکت سے یہ
رسال بالکلیہ خالی نہ رہے۔ [شام امداد یہ م ۳۳۳]

اس کے بعد رسالہ کرامات امداد یہ مع قیصر جو کہ طبع ہائی میں ملک ہوا ہے و مکالات
امداد یہ ملاحظہ فرمایا جاوے اول میں کلامات ہیں ہائی میں کرامات معنوی۔ الحاق، ان
روایات کے بعد کچھ اور واقعات بعض ثقافت سے معلوم ہوئے جو ذیل میں منقول ہیں۔

اس وجہ سے ذرا لیت گیا تھا۔ مکرلوگوں نے نہ لیٹنے دیا۔

(۲) حضرت مولانا کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ چاہے مسجد میں تشریف لے جاتے یا کسی مجمع میں جوتا کو بھی نہ اٹھا کر رکھتے، جہاں اتنا رتے اسی جگہ چھوڑ دیتے، اگر کوئی ساتھ ہوتا تو اُوٹھ لیتا ورنہ اسی جگہ پڑا رہتا۔ اور اکثر تو یہی اتفاق ہوتا تھا کہ غائب ہو جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہنگام قیام کے مظہر میں حرم شریف کے اندر گیا اور وہاں وظائف میں مشغول ہو گیا جوتا باہر پڑا رہا۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب تشریف لائے میں نے حضرت کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت نے میرا جوتا اٹھا کر ایک گوشہ میں رکھ دیا۔ جب میں فارغ ہو کر باہر آیا تو اپنا جوتا تلاش کرنے لگا۔ حضرت نے آواز دی کہ میاں صاحب میں نے تمہارا جوتا اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے مت العز بھی کسی بات پر اتنی غیرت نہیں آئی۔ تمام بدن میں پیندا آگیا اور یہ خیال ہوا کہ کاش زمین شق ہو جائی اور میں اس میں سا جاتا۔

(۳) حاجی حسین احمد صاحب مرحوم جون میں حضرت مولانا کے ساتھ تھے وہ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا ایک غلام تھا، وہ ہمیشہ پوری کیا کرتا تھا۔ نقد مال اسباب جو کچھ پاتا تھا لے کر بھاگ جاتا تھا۔ جب وہ مال ختم ہو جاتا اور بھوکوں مرنے لگتا تھا جب پھر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آخر مرتبہ میرے سامنے وہ عید کے تربیہ یہی حرکت کر کے بھاگ گیا۔ عید کے دن حضرت حاجی صاحب پریشان تھے اور لوگوں سے فرماتے تھے کہ معلوم نہیں آج وہ کس حالت میں ہو گا۔ عید کے کپڑے اسے مسر ہوئے ہوں گے یا نہیں۔

(۴) ایک مرتبہ الہ آباد میں ایک شخص حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور انہوں نے حضور کی شکایت شروع کی کہ ہر بڑے قشیدہ آدمی ہیں ساع قاتحہ وغیرہ ساری چیزوں کو حرام تھائے ہیں ان کا تو خیال ہمی تھا کہ حضرت مولانا اس سے خوش ہوں گے اور میرتے قول کی تائید کریں گے۔ مگر حضرت نے ان سے فرمایا کہ خیزدار انہیں کچھ مت کہو۔ ان کا جو قول ہے تھیت سے ہے اور اس وقت روئے زمین پر اگر کہیں خلوص ہے تو جماعت

امدادیہ میں۔ (ف) اس میں حضرت کی کرامت معنوی یہ ہے کہ حضرت کے مخفین دولت خلوص سے مالا مال ہیں۔

واقعات برداشت حاجی سید نور الحسن صاحب ساکن رہیروی

حال (۱) میں مکہ کرمانہ میں بعادرض پیغمبر و اسہال علیل ہوا اور آمد اسہال کی بیہاں تک کثافت ہوئی کہ چار پائی کاٹ دی گئی پارے کچھ صورت افاقت ہوئی اور یوم جمع تھا کہ میں نے اپنے ماموں حاجی نجم الدین مرحوم سے خواہش کی کہ آج مجھ کو حرم شریف میں نماز کے واسطے لے چلو۔ چنانچہ ماموں صاحب مجھ کو حرم شریف میں لے گئے۔ اس زمانہ میں حضرت حاجی صاحب قبلہ جمع کے روز حرم شریف میں نماز کے واسطے تشریف لایا کرتے تھے بعد نماز جمع حرم شریف میں ایک خلوہ گوشہ شمال و غرب میں حضرت تشریف فرماتھے میں بھی وہاں حاضر ہوا تمام حضار بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ایک گوشہ میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آگے کواؤ میں کچھ سرک کر آگے کوہا پھر یہی ارشاد فرمایا کہ آگے کواؤ جاؤ۔ چنانچہ اسی طرح چند بار ارشاد ہوا اور میں آگے ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت جس قالین پر رونق افروز تھے، اس پر میرے گھنے بھنچ گئے اس کے بعد مجھ کو بے خودی ہو گئی۔ اور میرے ہر بن مو سے ذکر اللہ جاری ہو گیا جس کا مجھ کو اچھی طرح احساس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد صورت افاقت ہو گئی۔ تو میں بدوں کی سہارے کے بیٹھا رہا اس کے بعد چائے کا دور شروع ہوا حضرت نے اپنی پیالی میں کچھ بست چھوٹے چھوٹے جو شیریں تھے، ڈال کر ایک چچہ نوش فرمایا کہ پیالی مجھے عطا فرمائی۔ میں نے کھا لی۔ اسی طرح دوسری پیالی مرحت فرمائی، اس کو بھی کھا گیا۔ یہ یاد نہیں رہا کہ تکنی پیالی حضرت نے مجھے اسی طرح پلا کیں اس کے بعد میں ایسا تند رست ہو گیا کہ خود وہاں سے مکان پر چلا آیا اور آستانہ پر روزانہ حاضری ہونے لگی۔

واقعہ دوسرے سفر حج کا

(۱) ہندوستان میں بمقام قصبہ خوجہ ایک خال صاحب مرحوم خور جوی نے بسیل مذکورہ مجھ

تصور کیا کہ یہ تو بہت ہی سہل ہے۔ چنانچہ اسی شرح کو حضرت نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ جب نجح لے کر جائے اقامت پر پہنچا اور مشنوی شریف کھول کر دیکھا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سخت حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو بالکل میرے ذہن میں قبل از شروع حضرت صاحب آگئے تھے اب کیا ہوا جب حاضر درس ہوتا تو انتراجم قلب کی وہ ہی حالت پاتا۔ اس وقت یقین ہوا کہ یہ محض تصرف شیخ ہے۔

(۳) میاں امیر احمد رانپوری کا واقعہ میرے سامنے کا ہے امیر احمد بار بار حضرت سے دریافت کرتے تھے کہ یا حضرت میں ہندوستان جاؤں اور حضرت فرماتے تھے کہ ہاں جاؤ۔ مگر امیر احمد کو اپنے اوپر مقدمات کا قوی خطرہ تھا۔ اس واسطے شبہ ہوتا تھا کہ ضرور گرفتار اور سزا یاب ہوں گا۔ اس واسطے باوجود حضرت کے فرمادینے کے ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور بار بار دریافت کرتے تھے۔

ایک روز حضرت نے چین بھیجن ہو کر فرمایا کہ تمہارا مجیدی گرفتار ہونے کو چاہتا ہے، میاں جاؤ۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اب تم شک و شبہ چھوڑو اور حضرت نے خود ارشاد فرمادیا ہے۔ خدا کا نام لے کر چلو۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ہندوستان آئے اور چند روز دہلی ایک مسجد میں رہ کر حاضر عدالت ہو گئے۔ چنانچہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیئے گئے اور بالآخر تمام مقدمات سے بری ہو کر اپنے گھر بخیریت تمام پہنچ گئے۔

حال: (حضرت مولانا نانوتوی ہندوستانی کے والد ماجد نے جو حضرت قدس سرہ سے قربت بھی رکھتے تھے) جناب حاجی امداد اللہ صاحب مذکولہ سے شکایت کی کہ بھائی میرے تو سہی ایک پینچا تھا اور مجھے کیا کچھ امیدیں تھیں کچھ کہا تا تو ہمارا یہ افلاس دور ہو جاتا۔ خدا جانے کیا کر دیا کہ یہ نہ کچھ کہا تا ہے نہ نوکری کرتا ہے۔ حضرت اس وقت تو بہن کر چب ہو رہے پھر کہلا بھیجا کہ یہ محض ایسا ہونے والا ہے کہ وہ پچاس سو والے سب اس کی خادی کریں گے۔ اور اسی شہرت ہو گی کہ اسی کا نام ہر طرف پکارا جائے گا۔ اور تم ٹھنگی کی شکایت کرتے ہو خدا تعالیٰ بے نوکری ہی اتنا کچھ دے گا کہ ان نوکروں سے یہ اچھا رہے گا۔

بے فیصلہ ہفت مسئلہ کی نسبت کہا کہ یہ رسالہ حضرت حاجی صاحب قبلہ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ اور کسی نے لکھ کر حضرت کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس روایت پر قلب میں ایک شہر اور دوسرا پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سفر میں ایک نسخہ فیصلہ ہفت مسئلہ کا اس نسبت کے ساتھ لیا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر حرف بحروف سن کر اس کی تصدیق کروں گا کہ یہ سب حضرت کا ہی لکھا ہوا ہے یا اس میں کچھ تحریف ہو گئی۔ چنانچہ آگوٹ میں مولوی محمد صادق ائمہ ہمہ سے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ میر ایسا ارادہ ہے۔ مولوی صاحب بھی میرے ہم خیال ہوئے۔ جب مکہ مظہر پہنچ تو میں اور مولوی محمد صادق حضرت اقدس کے آستانہ پر حاضر ہوئے اور رسالہ میرے پاس تھا جس وقت قدم بوس ہوئے تو حضرت قبل نے اول ہی مولوی سابق صاحب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ میاں محمد صادق ہندوستان میں لوگوں میں عجیب عجیب طرح کے نزعات و ادعیے ہو رہے ہیں نہیں کہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے اوپر بھی اکثر لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ وہ فقیر کا لکھا ہوا نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ خواہ کسی کا لکھا ہوا ہو، حق بات کو بھیں۔ اور وہ رسالہ فقیر ہی نے لکھا ہے اس کا اول مسئلہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے۔ علی ہذا اتنی اس ساتھ مسئللوں کو بالتفصیل چند الفاظ میں ایسے میان فرمائے گئے کہ مجھے حرقاً حرقاً اس کو سنانے یا تصدیق کی حاجت باقی نہ رہی۔ اور خاموش سن کر جب وہاں سے واپس ہوا تو مولوی محمد صادق سے کہا کہ لیجئے کیا اطمینان متجاذب اللہ ہو گیا کہ سوال کی بھی ضرورت نہ رہی۔ (ف) فیصلہ ہفت مسئلہ کی یہ تو حقیقی حقیقی کہ اس کا وجود کس طرح ہوا باتی اس سے زیادہ ضروری شرعی حقیقت رسالہ نبیہات و صیحت کے آخر میں ملاحظہ فرمائی جائے۔

(۲) چونکہ مجھے کو مشنوی شریف کے دیکھنے کا شوق ہے اور حضرت کے یہاں اس کا درس ہوتا تھا۔ اس لئے اپنا نسخہ مشنوی شریف ساتھ لے گیا تھا کہ درس میں بیٹھا کروں گا۔ چنانچہ درس کے وقت حاضر ہوتا رہا۔ اور اپنا نسخہ لے جاتا۔ مولوی محب الدین صاحب یا مولوی شفیع الدین صاحب پڑھا کرتے اور حضرت اس کی شرح فرمایا کرتے۔ بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ قاری نے ایک شعر پڑھا اور میرے قلب میں من کل الوجوه اس کی شرح آگئی اور یہ

ایک مرتبہ کہا کہ شاہ قیص وظیفہ ساؤ ہورہ میں مدفن نہیں ہیں یوں ہی مزار بنا کر مشہور کر دیا گیا ہے۔ ایک صالح صورت کی زبان سے یہ سن کر مجھے بھی تک پیدا ہو گیا اور نیت کی کہ حضرت سے تحقیق کروں گا۔ چند روز کے بعد جب گنگوہ آیا تو اس قصہ کا بھی خیال آیا۔ تصدیق کی نیت سے میں حضرت کے پاس جا کر بیٹھا چاتا تھا کہ بات کروں مگر بہت کی وجہ سے بول نہ سکا۔ تھوڑی دیر میں حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ جس زمان میں حضرت حاجی صاحب وظیفہ مخلasar میں شہرے ہوئے تھے۔ راؤ سراج الدین خاں نبیرہ راؤ عبداللہ خاں ایک دن گنگوہ آئے۔ میں نے حضرت کی زیارت کے لیے مخلasar کا قصر کر دیا جب ساؤ ہورہ پہنچا تو شہر کے اندر نہیں گیا بلکہ اسی بالا شاہ قیص وظیفہ کے مزار پر حاضر ہوا اور پھر مخلasar سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت سے عرض کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت قیص خانقاہ ساؤ ہورہ میں مدفن نہیں ہیں حضرت مرشد نانے فرمایا تم سے جس شخص نے ایسا کہا غلط کہا ہے۔ حضرت شاہ قیص وظیفہ اسی جگہ تشریف رکھتے ہیں اور جب میں ساؤ ہورہ حاضر ہوا تھا، تو میرے حال پر حضرت نے بہت عنایت فرمائی تھی۔ کیونکہ شاہ رحم علی صاحب وظیفہ کے سلسلہ میں بیعت ہوں اسی طرح حضرت مرشد نا حاجی صاحب وظیفہ فرماتے تھے کہ میرے حال پر شاہ قیص وظیفہ نے بہت عنایت فرمائی ہے، کیونکہ شاہ رحم علی وظیفہ کے سلسلہ میں بیعت ہیں۔ [ذکرۃ الرشید ص ۲۲۵]

حال: مولوی ولایت حسین صاحب نے ایک دن دریافت کیا کہ حضرت قلندر صاحب کا مزار کرنال اور پانی پت دونوں جگہ کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا اصل قبر پانی پت میں ہے بات یہ ہوئی کہ جب قلندر صاحب پانی پت میں بہت بیمار ہوئے تو کرنال کے معقدین لانے کو گئے وہاں حضرت کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ پانی پت والوں نے نعش جانے نہ دی۔ تب یہ لوگ شرم منانے کو ایک خالی نعش کی صورت بنا کر لے چلے اور کرنال میں آ کر پرده کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابتدائی زمانہ میں ہمارے حضرت حاجی صاحب کو داشت طاری ہوئی تین روز تک حضرت قلندر صاحب کی قبر پر مراقب رہے مگر کچھ پتہ نہ چلا تھا آخ حضرت میانچی نور محمد صاحب

جناب بھائی اسد علی صاحب کی ہی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دعست دی اور مولوی صاحب سے بہت خوش انہوں نے انتقال کیا۔ اور تصدیق اس پیشین گولی کی اپنی آنکھ سے دیکھ گئے۔ [سوانح مولا ناصح مقام صاحب ص ۱۲]

حال ہمارے حضرت حاجی صاحب وظیفہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا ہے کس طرف کو جایا جائے؟ فرمایا کہ بنویں کو جاؤ۔ دوسرا ایک اور آیا، اس نے بھی مشورہ لیا۔ اس کو فرمایا کہ سلطانی راست کو جاؤ۔ سو جس کو بنویں کے راست سے جانے کے لئے فرمایا تھا، وہ بھی کسی مصلحت سے سلطانی راستہ ہی کو گیا اور حضرت کے مشورہ پر عمل نہ کیا۔ اس کو دیے گئے بھی بہت تکلیف ہوئی بدوں سے بھی سابق پڑا اور ان سے الگ تکلیف پہنچی۔ اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا، وہ راحت سے چلا گیا۔ حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستہ کا مشورہ دیا اور اس کو دوسرے راستہ کا اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب پہلا آیا میرے دل میں وہی آیا جو اس کو بتایا اور جب دوسرا آیا، میرے دل میں اس وقت بھی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔ سو ایسے شخص سے واقعی علمی کم ہوتی ہے۔ [ذمہ ہوئی وعظ دہم دعوات عبدیت ص ۱۶۳]

حال ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں مہمان بہت سے آگئے کھانا کم تھا حضرت نے اپنارو مال بھیج دیا کہ اس کو کڈھا کم دو۔ کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سب نے کھالیا اور کھانا بھیج گیا۔ حضرت حافظ ضامن صاحب وظیفہ کو خبر ہوئی تو عرض کیا کہ حضرت آپ کا رو مال سلامت چاہیے۔ اب تو قط کیوں پڑے گا۔ حضرت شرمندہ ہو گئے اور فرمایا کہ واقعی خطا ہو گئی تو پر کرتا ہوں پھر ایسا نہ ہو گا۔ [امثال مجرت ص ۱۸۲] (ف) اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کمال ایسے خوارق کو کمال نہیں سمجھتے اسی وجہ سے حضرت حافظ صاحب وظیفہ نے اس پر نکیر فرمایا اور حضرت حاجی صاحب وظیفہ نے اس سے مددرت فرمائی۔

کشف ولصرف

حال: ہمدردی صاحب ہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صوفی مشرب شخص نے

بھی ہوئی تو منظوری دشوار تھی۔ غالباً یہی جواب ملتا کہ جس کو عجلت ہو وہ چلا جائے۔ ایک دن ایک مرتبہ ضرورت مند اصحاب نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ساری حالت عرض کی اور چاہا کہ حضرت کو حکما ہندوستان جانے کو فرمادیں کہ ہمیں معیت کی نعمت سے محرومی نہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے درخواست منظور فرمائی۔ اور حضرت امام ربانی سے فرمایا کہ مولانا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ سے علیحدگی ہو مگر ہر ایوں کے پاس خرچ کم رہ سکیا ہے اور آپ کی ذات سے اہل ہند کو جو نفع ہے وہ ظاہر ہے اس لیے مناسب یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان واپس ہوں اعلیٰ حضرت کے حکم پر حضرت مولانا سوائے تعیل کیا فرمائکتے تھے واپسی کا قصد فرمالیا اور تمہیر سفر شروع کر دیا۔ اتفاق سے جس روز چلنے قرار پایا تھا، میں اسی دل پلوٹا کے فتح ہونے اور روس کے قبضہ میں آجائے کی وحشت ناک خبر کہ بھی پہنچی مگر اس طرح کہ تصدیق و تحقیق کی کوئی صورت نہ پائی ہر چند کہ اس خبر نے طبعی رنج و غم اور تحقیق کی طلب و فکر کے باعث پھر قصد سفر متواتی کرنے پر مجبور کیا لیکن اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ سلسلہ اخبارات بند ہو رہے ہیں میں نہیں میں بھی تصدیق یا تکذیب اس خبر کی نہ ہو سکے گی جاؤ۔ بسم اللہ کرو جو کچھ مقدر تھا ہوا اور جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ [تذكرة الرشید ص ۲۳۱] (ف) باوجود مفارقت کی ناگواری کے حضرت گنگوہ ہشتنی کے لیے ہندوستان کی مراجعت تجویز فرمانا اور خود اس کی مصلحت بیان فرمانا کہ آپ کی ذات سے اہل ہند کو نفع ہے دلیل واضح ہے کہ حضرت قدس سرہ کو مصالح شرعیہ کا کس درجہ اہتمام تھا۔ مثاں میں اس وقت یہ امر کبریت احرar ہے۔

حال: مولوی صاحب نکاح نہ کرتے تھے اور جناب بھائی اسد علی صاحب حضرت کے والد کو ادھر تو ترک تو کری اور اختیار درویشی کا رنگ تھا ادھر یہ فکر ہوئی کہ دیوبند رشتہ کیا تھا آخر جناب حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کے فرمانے سے نکاح پر راضی ہوئے۔ [سوائی مولانا محمد قاسم صاحب ص ۱۱] (ف) جذبات باطنیہ پر سن نبوی کی تقدیم کس درجہ اہتمام شریعت کا نشان دیتی ہے۔

کچھ نہیں ہے۔ [تذكرة الرشید ص ۲۳۷] ۱۲۳

حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ہشتنی کا تذکرہ شروع فرمادیا یہ بھی فرمایا کہ جب میں قید خانہ میں تھا تو میری تین سال کے لیے تین ہزار کی ضمانت طلب ہوئی تھی، چنانچہ تین شخص ضامن ہوئے لیکن انگریز سخت مزاج تھا، اس نے یہ کہہ کر تینوں گنگوہ کے باشندے نہیں ہیں ضمانت نامنظور کر دی۔ ماموں صاحب نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کوں چھڑالوں گا، گنگوہ نہ آؤں گا۔ چنانچہ وہ سائی تھے۔ اسی اثناء میں ہمارے حضرت گنگوہ تشریف لائے اور یہاں خبر تھی کہ میں اب رہا ہوا، اب رہا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے میں بھی دیر ہے، ہم اس سے مل آئے ہیں انہیں ایام میں کہ میں قید خانہ میں تھا، خواب میں آپ تشریف لائے گویا میرے پاس تشریف رکھتے ہیں اور اسلی فرماتے ہیں پھر حضرت یہاں سے تشریف لے گئے۔ اور میں ایک ماہ بعد چھوٹ آیا۔ [تذكرة الرشید ص ۲۳۹]

حال: ایام غدر میں حضرت حاجی صاحب ہشتنی قصبه لیکھل میں بھی کچھ دنوں مقیم رہے۔ میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں ایک بزرگ حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ سکھ لوگ ان کے معتقد زیادہ تھے۔ چنانچہ ان کے بمراہ سکھ بھی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گرو کی حالت دیکھ کر حضرت حاجی صاحب کا ادب کیا کرتے تھے۔ [تذكرة الرشید ص ۲۳۸ جلد ۲]

اهتمام شریعت

حال: جن لوگوں کے پاس خرچ کم رہ گیا تھا یا وہ میں پہنچنے کی ضرورت تھی وہ رخصت ہو کر جہاز میں سوار ہوئے اور حضرت امام ربانی قدس سرہ نے مع اپنے خاص رفقاء کے یہاں سے جانے کا نام نہ لیا۔ ایک ماہ گزرنے پر آپ کے اکثر ہر ایوں کے پاس زادراہ قریب ایتم پہنچ گئے۔ اور باہم خفیہ مشورے ہونے لگے کہ کس طرح حضرت سے چلنے کی درخواست منظور کرائیں۔ مگر رعب و لحاظ کے باعث کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی اور بہت

استقامت اذل ہی سے فقیر کو معلوم تھا کہ اس کا انجام ان کے حوصلہ و حالت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پانچ چھ مینے سے حاجی عبدالکریم صاحب سینہ بھی کو ایک دیندار اور صاحب اور محترم شخص ہیں اس مشنوی کے لاحصل شغل کی وجہ سے سخت تشویش وزیر باری میں ذال رکھا ہے۔ وہ تھا اپنی تجارت کے کام میں مشغول ہیں اس میں مشغول ہونے سے ان کی تجارت کا سخت حرج و نقصان ہے۔ اس لیے فقیر نے سینہ صاحب کو لکھ بھیجا ہے کہ مشنوی کا طبع ہونا قطعاً موقوف کر کے فقیر کی دونوں مشنوی آپ کی خدمت میں مقام گنگوہ پہنچا دیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب و مولوی ابواحمد صاحب مقام سہارپور میں شاید اسی غرض سے قیام پذیر ہیں اس لیے آپ بذریعہ حافظ قمر الدین صاحب یا کسی اور محترم شخص کے ذریعہ سے فقیر کی مشنوی کو سہارپور سے اپنے پاس منتگوا کر کر لیں اس بارے میں تو قف نہ فرمادیں و خط ہمام مولوی عبداللہ صاحب و مولوی ابواحمد صاحب بھی جاتا ہے آپ دونوں خط کے پڑھنے کے مجاز ہیں (مہر) از کم محظوظ و ہم رمضان شریف روز دوشنبہ ۱۳۱۰ھجری۔ [مکاتیب رسید یوسف]

حال: ایک تیرے مکتب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر بی بی خیر النساء صادِ اپنی خوشی سے بنیت ابھرت یہاں آنے والی ہوں اور باعث بے خرچ کے نہ آسکتی ہوں تو آپ ان کے خرچ راہ کا بندوبست فرمائیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کی خدمت میں اس کو روانہ کروں گا۔ [مکاتیب رسید یوسف] (ف) ان تینوں مکتوبات میں کسی پرسی قسم کامیابی دینی یا نفسانی بارشہ ؓ النامصرح ہے گوہ شخص اپنا معتقد و جان ثارہ ہی کیوں نہ ہو اب تو مشانچہ مریدوں کی جان و مال کو بلکہ ان کے اہل و عیال کو بھی اپنی ملک بلکہ ملک سے بڑھ کر بھجتے ہیں کہ اپنی ملک میں تصرف کرتے ہوئے تو کچھ دل بھی دکھتا ہے یہاں اتنا بھی نہیں۔

حال: ایک خط حضرت گنگوہی و بھٹکی کو تحریر فرماتے ہیں، اس میں کچھ شہر نہیں کہ تم عزیزوں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان و عیوب چھپ گئے ہیں اور تمہاری محبت نے اکسیر کا کام کیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ایسی ہی ستاری کی امید ہے وہ

اخلاق و احوال

حال: حضرت قدس سرہ ایک مکتب شریف میں حضرت گنگوہی و بھٹکی کو تحریر فرماتے ہیں فقیر کو معلوم ہوا کہ یہاں سے کسی نے آپ کی خدمت میں بی بی خیر النساء صاحب کو یہاں بھیج ہے کوئی لکھا ہے اس لیے یہ عرض ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی طرح کا اشارہ و تحریک اس بارے میں نہ فرمادیں، کیونکہ فقیر پا گور صح و شام سے ایسی حالت میں کسی کو تکلیف اس دور دراز سفر کی دینی مناسب نہیں ہے اس کے قبل مولوی منور علی نے محبت سے فقیر کے راحت و آرام کے خیال سے بلا استزاد فقیر کے اس بارے میں مولوی عزیز الرحمن و مولوی عبداللہ صاحب ان کو لکھا تھا لیکن فقیر کو اس کی خبر ہوئی اور دونوں صاحبان کو اس بارے میں کچھ اپنی طرف سے تحریک و اشارہ کرنے کی مانعت لکھ دی گئی ہے اس بارے میں جو کوئی تحریر جائے تو فقیر کی خلاف مرضی سمجھنا چاہیے۔ ہاں! البتہ یہ پرسال سے یا اس کے مقابل سے سنتا ہوں کہ بی بی صاحبہ موصوفہ یہاں آنے کے تھیں میں ہیں تو اگر وہ خود آنے والی ہوں اور خرچ راہ نہ ہونے کے باعث نہ آسکتی ہوں تو ایسی صورت میں آپ ان کے زادراہ وغیرہ کا سامان فرمائ کر فقیر کو خبر دیں۔ [مکاتیب رسید یوسف]

حال: ایک دوسرے مکتب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

از فقیر امداد اللہ علی عن

بخدمت فیched رحمت جامع شریعت و طریقت عزیزم مولانا رسید احمد صاحب
سلی اللہ تعالیٰ علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

قبل اس کے بھی خط روانہ کر چکا ہوں مطلب ضروری یہ ہے کہ فقیر کی وہ مشنی شریف ابوا یک زمانہ سے فقیر کے مطالعہ و درس میں تھی اور اپنے خیال کے موافق اس پر کچھ مطالب و فوائد درج کئے تھے اس دفعہ اس مشنوی کو مولوی عبداللہ انجھلوی بوسیلہ عزیزم ابواحمد صاحب بھی کے طبع کرنے کی غرض سے فقیر سے لے گئے ان کی تکون مراجی وغیر

تمہاری محبت کا بڑا سیلہ ہے۔ [مکاتیب رشید یوسف] (ف) کچھ حد ہے اس تو اضع کی۔ حال: آیک اور خط میں تحریر فرماتے ہیں۔ فقیر کی مشنوی شریف جو بعض حواشی و فوائد سے اپنی سمجھ کے موافق ہے۔ عزیزم مولوی عبداللہ صاحب بواسطہ مولوی ابوالحمد صاحب باستبداد و اصرار اشد بغرض طبع لے گئے تھے اور مشہور کردیا ہے کہ فقیر نے خواہش اس کے طبع کی کی ہے۔ فقیر حیران ہے کہ اذل تو وہ حواشی و فوائد کچھ ایسے قابل نہیں خیال کرتے اس پر طرہ یہ کہ فقیر کی خواہش ہے۔ تاہم آج تک آٹھ دس ماہ سے کچھ اس کی ایک جزو بھی درست نہ کی فقیر نے ان کو خط ممانعت کے کمی بار تحریر کرائے وہ ابھی تک اس کام سے باز نہ آئے۔ آپ کو مخدوع ہوں کہ کسی معتبر ذریعہ سے مشنوی شریف بھی فقیر و قلمی ہر دو تین مولوی عبداللہ صاحب و مولوی ابوالحمد صاحب سے طلب کر لیں اور بعد میں جیسی رائے آپ کی ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ ویسا ہو گا تحریر فقیر کی دکھا کر مشنوی شریف مکتووالی جائے۔ [مکاتیب رشید یوسف] (ف) اپنے کلام کو مفید نہ سمجھتا، اپنے مخلص خدام کی رائے کے اتباع کا عزم رکھنا جیسا کہ اس قول میں ارشاد ہے کہ جیسی رائے آپ کی ہو گی انتہاء درجہ کی تو اضع ہے اور کسی کی تکلیف کو گوارا نہ فرمانا ملش اور پر کے مکتوبات کے اس سے بھی ظاہر ہے۔

حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کو اپنے لاڈلے اور چھیتے چوارے ہندی قافلہ کے جدہ سے روانہ ہونے کی اطلاع مل پھیل تھی، باوجود ضعف و تفاہت کے سنت استقبال اور جوش محبت میں شہر سے باہر ملنے کی خواہش پوری کئے بغیر نہ رہ سکے۔ خدا جانے کس وقت کے منتظر کھڑے اور راستے کی جانب آنے والے قافلہ کا انتظار فرمائے تھے۔ جس وقت قافلہ باب مکہ پر پہنچا تو سب نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت پکنے سے کربانہ ہے ہوئے فصل کے پاس کھڑے تھے۔ شیخ کے شیدا اور مرشد کے جان شمار خدام اسی وقت سواری ہنسے نیچے اتر پڑے اور بغل آئیہ ہو کر خوب دل کھول کر ملے۔ مولانا حکیم محمد حسن صاحب پونکہ کچھ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے پاس کھڑے ایک ایک کا نام و نشان اور پڑے ہتھے باتے تھے۔ اس لیے کہ شب کا وقت تھا اور قافلہ میں بہترے آدمی ایسے بھی تھے جن سے

اعلیٰ حضرت کو ملنے کا بہت کم اتفاق ہوا یا ملے ہوئے زمانہ مدد گزر چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت میں سرتا پا خلق کی مسافر نوازی تھی کہ قافلہ کے ایک ایک تنفس سے اجنبی ہو یا واقف کار بغلگیر ہوئے اور جب تک وہی علیحدہ نہ ہو گیا اعلیٰ حضرت نے اپنے سینہ علم و معرفت کے گنجینہ سے علیحدہ نہیں کیا۔ سو (۱۰۰) حضرات سے بغلگیر ہونا اور مکرا مکرا کر مزاج پری کوئی معنوی بات نہ تھی۔ خصوصاً اس پیرانہ سالی وضع جسمانی کے وقت الغرض اعلیٰ حضرت سارے قافلہ کو اپنی رباط میں لائے اور وہیں سپہرایا۔ یہ مکان اعلیٰ حضرت کو اسی سال ماتھا بلکہ ابھی تک آپ نے اس میں سکونت منتقل نہ فرمائی تھی۔ اس لئے زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ اس مقدس جماعت کا اذل اس مکان میں قیام ہو سچ کو سارے جمع کی دعوت بھی اعلیٰ حضرت ہی کے دستخوان پر ہوئی۔ ہر چند کہ امام ربانی قدس سرہ نے عرض کیا تھی کہ آدمی بہت ہیں مگر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ”میری خوشی اسی میں ہے کہ سب احباب میرے یہاں کھاؤیں“ مجبور فرمادیا۔ [تذکرة الرشید ص ۲۲۲] (ف) شفقت و تو اضع و حمل جس درجہ کے اس واقعہ سے ظاہر ہیں حاجت بیان نہیں۔

حال: آیک بار (حضرت گنگوہ رشید نے) ارشاد فرمایا کہ حضرت مرشدنا حاجی صاحب رشید گنگوہ تشریف لائے، میری لڑکی کی عمر کوئی تین سال کی تھی، حضرت نے اس کے ہاتھ میں پانچ روپیہ شیرینی کے دیئے، میری لڑکی نے وہ روپیہ لے کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیئے، پھر دیئے اس نے ایسا ہی کیا ہر چند حضرت نے پھسلایا کہ تو میری بیٹی ہے نے لے گر اس نے مانا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آخرو تھیر کی بیٹی فقیری ہے۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی ”ایں دختر صاحب نصیب است ویچ عمرتے در دنیا نہ یہند زاہد و صالح خواہد شد“ اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نے فرمایا الحمد للہ میری لڑکی کو دنیا کی محبت بالکل نہیں ہے۔ [تذکرة الرشید ص ۲۲۵] (ف) بچوں پر شفقت و عام بزرگوں کی عادت ہے مگر روپیہ بھی دینا اور ایسے زمانہ میں کہ اس وقت کے پانچ کسی طرح بھی اس وقت کے بیس پچھس روپیہ سے کم نہ تھے، یہ مال سے بے تعقی کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اب تو اکثر مشائخ لینا ہی جانتے ہیں، پانچ پیسے بھی ہاتھ سے ڈالنا مشکل ہے۔

شهادت مبصرین بر کمال

کسی مقبول بندہ کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل بروئے نص اتنہ
شہداء اللہ فی الارض یہ شہادت ہے۔

حال: (حضرت مولانا گنگوہی رضی اللہ عنہ نے ایک خط میں ایک شخص کو ارشاد فرمایا)
تم تو دوسرے درجہ میں الحق کر خود مرشد نہ سے بھی مجھ کو جی سے اعتقاد و محبت نہیں (کیونکہ
مولانا اس سے زیادہ کے پیاسے تھے) ایک بار خدمت میں حضرت کی بھی عرض کر دیا تھا
کہ آپ کے سب خادموں سے اس بات میں کم ہوں ہر شخص کو کسی درجہ کی آپ کی محبت
ہے اور اعتقاد مگر مجھ نالائق کو کچھ بھی نہیں اور یہ اس واسطے ذکر کیا تھا کہ نفاق اپنا ظاہر
کروں اور حقیقت الحال کو عرض کر دوں سواب دیکھو کہ جب خود اس شخص مبارک سے کر جس
کے پاپوش کی بدولت دنیا میں عزت ہو رہی ہے اور یہ توجہ آپ کو ہے اس کے ہی ساتھ اپنا
یہ حال ہو تو پھر اور کوئی دوسرے درجہ میں ہے۔ [مکاتیب رشید ص ۵۲] (ف) ایک امام
وقت کا کسی کی شان میں یہ الفاظ کہنا کہ جس کی پاپوش کی بدولت انہی کیا کچھ کم درجہ کی
شهادت ہے۔

حال: (حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ کا ایک شخص کو ارشاد) مجھ کو یوں یقین ہوتا ہے
کہ جب خود جناب حضرت سلے اس طرف متوجہ ہوئے تو آپ کا قصد برآمد ہو دے گا انشاء
اللہ تعالیٰ کچھ گھبرا نے کی بات نہیں۔ [مکاتیب رشید ص ۵۸] (ف) حضرت قدس سرہ کی
توجہ کو مفتاح کامیابی فرمانا شہادت کمال کی اعلیٰ درجہ کی ہے۔

حال: ہاں اپنے مرشد کی نسبت میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص کم ہے۔
[مکاتیب رشید ص ۶۳] (ف) یہ بھی حضرت گنگوہی کی شہادت ہے۔

حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی زیارت جو حضرت

حال: ہبہت مسافرخانہ کے جو قریب پانچ سو اشتری کے جمع تھیں مولوی بدرا اللہ عالم
کے پردے کے گئے ہیں۔ باخواعے بعض مخالفین کے حکام نے ضبط کر لیں۔ فقیر تو پہلے ہی
ایسے معاملات سے دست بردار تھا۔ حافظ صاحب مرحوم کے انتقال سے اچانک یہ معامل
آن پڑا۔ پھر بھی فقیر نے اس کی طرف التفات نہیں کیا جو کچھ ان کا رو پیچھا ان کے سامنے
احمد گاما کے حوالہ کیا گیا۔ مسافرخانہ کے ساتھ بھی علاقہ نہ رکھا۔ اس کا ناظر مولوی بدرا اللہ عالم
صاحب کو کر دیا گیا۔ یہ سب منجاہب اللہ ہے۔ فقیر دونوں حال میں خوش ہے۔ ایسے امورات
کے سنبھے سے بھی دل کو پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے لہذا ایسے امور کے تذکرہ سے
یہاں احباب کو منع کر دیا ہے کہ فقیر سے یہ ذکر نہ ہوا کرے۔ [مکاتیب رشید ص ۸۸]
(ف) تعلقات غیر ضروری سے گوکسی تاویل سے وہ دینیہ میں داخل ہو سکیں دست کشی کھلی
دلیل ہے خلو عن غیر اللہ کی۔

حال: پیر جیو محمد جعفر صاحب سازھوروی نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت کیمیا
مرکبات سے بنتی ہے یا قدرتی جمادات سے۔ آپ نے فرمایا کیمیا مرکبات سے بنتی ہے مگر
تم اس کو ہرگز نہ سیکھنا۔ ایک شخص نے مجھ کو کیمیا کا نامہ بتایا تھا میں نے کبھی اس نامہ کے
بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور نہ وہ نسخہ اب میرے پادرہا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ
حضرت مرشدنا حاجی صاحب رضی اللہ عنہ ایک دن فرماتے تھے کہ ایک شخص نے مجھ کیمیا کا نامہ
 بتایا اور کہا کہ اس نامہ اکیر سے سونا بنتا ہے میں نے اس مہوس سے کہا کہ میں مددوستان کو
چھوڑ کر مکہ معظمہ میں جو آیا ہوں تو اللہ کی حلاش کے لیے آیا ہوں، کیمیا کی حلاش میں نہیں
 آیا۔ [ذکرۃ الرشید ص ۲۲۵] (ف) دونوں باتیں بنیے کا استغفار عن الدنیا اس شعر کا ہے
 ٹکف صداق ہے۔

وزیر سے چیسیں شہر یارے چنان جہاں چوں گلیر و قرارے چنان

چوبا جیب نینی و بادہ پیائی بیاد آر محبان بادہ پیارا

[ذکرہ الرشید ص ۱۹۵]

(ف) حضرت قدس سرہ کی توجہ کے جلب کا اہتمام مدعا کی دلیل ظاہر ہے۔

حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عطا فرمایا ہوا جب بھی آپ کے پاس تھا یہ بھی انہیں تبرکات کے صندوق پر میں رہتا تھا جس وقت آپ اس کو نکالتے تو اول دست مبارک میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتے اور پھر کیے بعد دیگرے دوسروں کو سر پر رکھنے کا موقع عطا فرماتے تھے، اس وقت آپ پر ایک خاص یقینیت ظاہر ہوتی اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس کوئی سال حضرت نے پہنا اور پھر مجھ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا تھا جو شخص لے کر آیا تھا اس سے کہا بھیجا تھا کہ اس کو پہنو، سو کبھی کبھی تعیین ارشاد کو پہنا کرنا ہوں، تمکہ ہے رکھ چھوڑا ہے۔ [ذکرہ الرشید ص ۱۹۶] (ف) اس کی دلالت بھی مثل واقعات بالا کے ظاہر ہے۔

حال: آپ کے مرشد برحق اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سائل عطف

نیہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ منجانب اللہ اس آزمائش کا معیار تھا جس پر سالک طریقت نائب رسول تبع سنت شیخ کو پر کھنے کی حاجت ہے۔ شیخ طریقت کے عمل اور سنت غبویہ کے اتباع میں ایک کی دوسرے پر ترجیح اور بصیرت و محافظت حفظ مراتب اسی درجہ میں آ کر اس درجہ دشوار پر اتحاد جس کے اشکال رفع کرنے میں قطب وقت کا امتحان ہوا۔ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب حیاۃ ابا اللہ مبدع نہ تھے نہ ذرہ برابر بدعت کی جانب میلان تھا چنانچہ اہل بصیرت کے نزدیک حضرت کے کمالات علیہ و فیضان قدسیہ اس پر دال ہیں اور عوام کے لیے براہین پر جو تقریباً اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی ہے وہ اس دعویٰ کی دلیل صریح ہے مگر بقول شخص تابا شد چیز کے مردم غویہ چیز ہا۔ اعلیٰ حضرت کو وہ تشدید پسند نہ تھا جس کو امام ربانی نے اصلاح علقوں و احیاء سنت کے لیے دانتوں سے مضبوط کیا رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسئلہ مسلم ہے کہ صاحب نسبت ہونے کے بعد متنہی کو شیخ کے ہر فعل کا اتباع ایسا ضروری نہیں جیسا کہ مبتدی کو ضروری

مولانا کو حاصل ہوئی اس کا مذکورہ خود امام ربانی نے بارہا فرمایا کہ جب میں اور مولوی محمد قاسم صاحب دبلي میں استاد (حضرت مولانا مملوک اعلیٰ صاحب) سے پڑھتے تھے ہمارا ارادہ سلم شروع کرنے کا ہوا لیکن مولانا کو فرصت نہ تھی اس لیے انکار فرماتے تھے۔ بالآخر میں نے عرض کیا کہ حضرت ہفتہ میں دو بار صرف بیرون جمعرات یا (جمع) کو پڑھا دیا تکھے، خیر یہ منظور ہو گیا اور ہفتہ میں دو سبق ہونے لگے تو اس سبق کی ہمیں بڑی قدر تھی۔ ایک روز یہی سبق ہو رہا تھا کہ ایک شخص نیلی لٹکی کندھ سے پڑا لے ہوئے آٹکے اور ان کو دیکھ کر حضرت مولوی صاحب سع تمام مجع کے کڑے ہو گئے اور فرمایا کہ لو بھائی حاجی صاحب آگئے، حاجی صاحب آگئے اور حضرت مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لو بھائی رشید اب سبق پھر ہو گا۔ [ذکرہ الرشید ص ۱۹۷] (ف) حضرت مولانا مملوک اعلیٰ صاحب جس پایہ کے عالم تھے ان کے سلسلہ میں بڑے بڑے علماء کے ہونے سے ظاہر ہے ان کا اعتقاد اور تعظیم فرمانا کچھ معمولی بات نہیں خصوصی ایسی حالت میں کہ حضرت قدس سرہ کی عمر بھی کم اور شہرت بھی زیادہ نہ ہوئی تھی اور درسیات کی بھی تحصیل نہ فرمائی تھی جن کو علماء خاطر میں بھی نہیں لاتے۔

حال: آپ کے مناقب میں صرف یہ امر لاکھوں مناقب کے قائم مقام ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے جب آپ کو جاز فرمایا تو وہ دستار خلافت جو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نے حضرت امام ربانی کو عطا فرمائی اور اب تک آپ نے بحفاظت رکھ چھوڑی تھی مولانا کو عطا فرمائی۔ [ذکرہ الرشید ص ۱۹۸ جلد ۲] (ف) حضرت قدس سرہ کے ملبوس کو اتنا بابر کت سمجھنا شہادت عظیمی ہے۔

حال: حضرت مولانا اشرف بعلی صاحب تحریر فرماتے ہیں جب بندہ نے حج کا ارادہ کیا تو باد جو در حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت رخصت حاصل کرانے کے میں روانگی نے دن بذریعہ تحریر میں نے حضرت کو اطلاع دی کہ بندہ آج روانہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سے جو تحریر پڑائی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہاں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر بھجئے بھی یاد رکھنا اور اس کے بعد یہ شعر مسطور تھا۔

آپ کی استقامت کا در فرید اس بال سے زیادہ باریک راست میں بھی آفتاب نصف النہار کی طرح ایسا چکا کہ عالم نے دیکھ لیا اور منصب ارشاد و نیابت کا بے بہا تاج اس تحفظ مراتب و محافظت حدود کے درجہ میں بھی آپ کے فراق اندس پر ایسا جلوہ نما رہا کہ گوشہ ہائے دنیا اس سے آگاہ ہو گئے: لیهلك من هلك عن بيته ويحيى من حي عن بيته۔ اپنی اپنی نسبت اور خداوندی عطیہ و نعمت کے ثرات میں روحانی باپ بیٹوں کے خیال اور رائے کا فرق بس یہ تھا جو عرض ہوا اگر بایس ہمہ ادھر شفقت و رافت میں امام ربانی کی طرف سے مطلق فرق نہ آیا تھا۔ اور ادھر عقیدت و ادب میں اعلیٰ حضرت مرشد العرب و الجم کی جانب سے جب برابر تفاوت پیدا نہ ہوا تھا اگر بیہاں سے خط جانے میں تو قف ہوتا اور خیریت معلوم ہونے میں چند روز کی دیر ہو جاتی تو حضرت حاجی صاحب روحشہ بے تاب ہو جاتے اور بار بار خیریت طلب خط پر خط ارسال فرمایا کرتے تھے اور اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی والا نامہ موسم حج کے علاوہ کسی کے ہاتھ آگیا تو امام ربانی خوشی کے مارے پھونے ساتھ اور احباب کو بار بار مژده سنایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عافیت مراجع بے موسم معلوم ہو گئی حضرت حاجی صاحب کا تعلق شفقت و محبت مکاتیب رشید یہ سے معلوم ہو گا جس میں بارہ خطوط اعلیٰ حضرت کے بنام حضرت امام ربانی درج کئے گئے ہیں تاہم اس جگہ اتنا عرض کر دینا ضرور ہے کہ نزاع پسند اور خلاف دوست طبیعت والے احباب نے جی تو زکر کو شیشیں کیں کہ دو مقدس دلوں میں کسی طرح شکر رنجی پیدا ہو جائے مگر یہ دل وہ دل نہ تھے کہ ان کی رفتاروں کے قابوں میں آ جاتے اور متاثر ہو کر نام ادھر مان نصیبوں کی مراد پوری کرتے۔ ادھر یہ لگایا جاتا تھا کہ مولانا گنگوہی مولود کرنے والوں کو کافر و مشرک بتاتے ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں اور ادھر یوں کہا جاتا تھا کہ حضرت حاجی صاحب نے آپ کی بیعت اور اپنے سے بے تعلق و جدا فرمادیا تفرقہ انداز تمام اپنی سُنی میں کوتا ہی نہ کرتے تھے مگر طرفین کا وہ قلبی علاقہ جو حق تعالیٰ شانہ کا جوڑا ہوا تھا کسی کے تو زے نہ ٹوٹا پر نہ ٹوٹا۔ بد گوئیاں جب حد سے گزریں اور متوضّع افواہیں چار طرف پھیلیں تو حضرت امام ربانی نے عربیہ لکھا اور دریافت کیا کہ ان باتوں کی اصل کیا ہے۔

ہے۔ چنانچہ سلف صالحین کی سوانح اس قسم کے واقعات اور بعض بعض سوالیں میں مرید کا پیر کے فعل کو قبل ایتھر نہ سمجھنے کی حکایات سے مجری پڑی ہیں۔ اولیاء اللہ کا تو کیا ذکر صحابہ کرام رض اور جناب رسول اللہ ﷺ کی سوانح میں اہل بصیرت کو اس کا پتہ چلتا ہے مگر چونکہ یہ وقت اس بحث کا نہیں اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مسلم کی بنا پر اعلیٰ حضرت کی طرف سے اہلیت واستعداد تمام کا پروانہ ملے پہنچے صاحب نسبت مجاز طریقت بن کر اعلیٰ حضرت کے اس خیال سے امام ربانی کا موافقہ نہ فرمانا شریعت میں تو کیا طریقت میں بھی کسی الزام کا باعث نہیں ہو سکتا مگر بایس ہمہ اس اختلاف سے حضرت امام ربانی قدس سرہ کا حفظ مراتب کے کمال محتوى میں اتحان پورا ہو گیا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو شیخ اور طریقہ نبویہ کا رابر سمجھا تھا خود نبی یا رسول نہیں سمجھا تھا واسطہ اور ذوالواسطہ کا فرق انسان کے لیے کھلی ہوئی بات ہے مگر بیہاں اس امتیاز کا قائم رکھنا بیش رو سے نہیں ہو سکا۔ ذلك فضل الله يوطه من يشاء۔ اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد اختلاف امنی رحمۃ حق جانین کے متک اور خیال درائے کی وجہ للہیت اور اخلاق تھی اور ہر درجہ محبوبیت میں غلو تھا اور خلق پر بایس طور شفقت و زی محود سمجھی گئی تھی تو ادھر خسیت میں استغراق تھا اور ارشاد و اصلاح خلق کا یہ طریقہ تفہیق کے ساتھ ایجاد سنت سمجھا گیا تھا جو کچھ بھی ہو بد نفس معاندین کے لیے اس بحث میں پڑنا سبب ضلال ہو گیا اور جس نے جو چاہا کہا مگر خدا شاہد ہے بات یہ تھی کہ لاریب حضرت امام ربانی قدس سرہ کو قدوة العلماء اور جامع شریعت والطریقت نائب رسول علیہ السلام بن کراس طریق کا اختیار فرمانا جو بظاہر ہر شیخ کے قول و عمل سے ظاہر ہو رہا تھا وہ زبردست لغرض تھی جو آپ کو اس مرتبہ عالیہ تک پہنچنے کے لیے وہ مضبوط دیوار بن کر روکنے والی تھی۔

بے ادب راندریں رہ بار نیست جائے او بر دارشد در دار نیست
از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم گشت افضل رب

کا اختلاف سمجھتا ہے اور آپ کے ہر قول کی تاویل و توجیہ میرے دل میں نہیں جیسی بخش و تسلی دہ ہے۔ اس جانب اعلیٰ حضرت کے ساتھ مجت کی جو حالت تھی اس کو کیونکر ظاہر کیا جائے جبکہ ضبط واستقلال کا یہ عالم تھا کہ مجت رسول جس میں آپ کو استغراق تھا وہ بھی اسکی نہ کھل سکی کہ ہر دیکھنے والا آپ کو عاشق رسول سمجھ لے۔ آپ کی روحانی قوت اور عالیٰ نظر قلب کی وجہ پرداشت جس نے شرہ مجت کو اطاعت و انتقال میں مدد و سمجھ کر آپ کی ساری عمر کو پاک شریعت مصطفویہ کی خدمت میں گزارا اس درجہ پر ہی ہوئی تھی کہ بجز پابندی فرمانہایے محظوظ کے اور کسی انداز کے ساتھ مجت و عاشق کا ظہور نہ ہوا تاہم جس وقت اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر وحشت اڑ ہندوستان میں پہنچی اور حضرت امام ربانی کے کاؤں میں پڑی اس وقت صدر مسے جو حال آپ کا ہوا وہ پاس رہنے والوں نے دیکھا۔ باوجود دیکھنے آپ کوہ استقلال تھے جگر گوش اولاد اور شرۃ الغوارڈۃ العيون کے متواتر صدماں پر آپ پر وہ اضلال ہرگز طاری نہیں ہوا جو مرشد العرب والجم کی دنیاوی مفارقت سے آپ پر ہو یہاں کی وقتوں آپ کھانا ز کھائے کسی سے بات چیت کرنا یا مجھ میں پہنچنا آپ کو گوارانہ ہو سکا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوتے اور ہر چند آپ ضبط فرماتے گرے تاہم ہو جاتے تھے۔ سالہاں مال کے بعد آج یہ مضرمن عام طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ امام ربانی کو اعلیٰ حضرت کے وصال کا جو صدر ہوا شاید دنیا میں کسی کو ایسا صدر نہ ہوا ہو۔ ہمیں آپ کی یہ حالت رہی کہ شب کو چار پانچ پر لینتے ہی خدام کو رخصت فرمادیتے اور خلوٹ میں پانچ پر پڑے ہوئے گھنٹوں رویا کرتے تھے بعض تخلصیں اتفاقیہ ایسی حالت میں جا پہنچے ہیں انہوں نے اسی آواز سنی ہے جیسے دیچی کو آگ پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جوش مارتی ہے۔ یہ آپ کا ضبط تھا کہ آنے والے کی آہٹ پاتتے ہی آپ غم کوپی جاتے اور اسی حالت پر آجاتے تھے جو مطمئن اور صاحب راحت و سکون شخص کی ہوئی چاہیے۔ ضرورت نہ تھی کہ آپ کے اس غمی حوال کا اظہار کیا جائے خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ آپ نے بقیہ عمر میں خود ہی کبھی اس کا اظہار نہ چاہا ہو گر ضرورت نے مجبور ہنا کہ یہ مضمون لکھوایا۔ رنج و غم کے متعلق آپ کی یہ حالت حالانکہ

اعلیٰ حضرت کی طرف سے جو طویل والا نامہ جواب آیا تھا اس کو ملخا ہدیہ ناظرین کرتا ہوں:

بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ از فقیر امداد اللہ عفی عن بخدمت فیعید رحمت جامع شریعت و طریقت عزیزم مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی حجۃ اللہ بطول حیات و در اعداءہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ مکتب برکت اسلوب مؤرخہ چهار وہم رمضان شریف بدست مولوی ممتاز علی صاحب و رو در در لایا منون و مسرور ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بایں عنایت و مجت مکروہات دارین سے محفوظ رکھ کر کوئین میں درجات عالیات قرب و رضا عطا فرمائے مولانا آپ کی تحریر باعث اشراح قلب و موجب جیسی خاطر فقیر ہے اس لیے آرزو ہے کہ ہمیشہ اپنی خیر و عافیت و حالات ظاہر و باطن وغیرہ سے مسرور بخیج فرماتے رہو۔ آپ کے اس خط کے ہر لفظ اور ہر فقرہ سے عجب کیفیت و شکلی پیدا ہوئی۔

اے وقت تو خوش کرو وقت ما خوش کر دی

مولانا ضیاء القلوب میں جو کچھ آپ کی نسبت تحریر ہے وہ آپ سے نہیں لکھا گیا جیسا القا ہوا ہے ویسا ہی ظاہر کر دیا گیا ہے پس بدیہات کو نہ مانتا اور اپنے ذریعہ نجات و دیلہ فلاح دارین سے علیحدگی کرنا سخت جہالت و محرومی و ادبار ہے۔ خارج کرنا چہ معنی فقیر تو تم علماء صلحاء کی جماعت میں اپنا داخل ہو جانا موجب فخر دارین و ذریعہ نجات و دیلہ فلاح کوئین یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ تم صالحین کی مجت میں جلا وے و مارے وہ شخص بدجنت ہے جو تم مقدس و مقتدارے زماں سے کچھ دل میں کینہ یا سوء ظن یا بد عقیدگی یا معاویۃ و رنج رکھے۔ فقیر تو آپ کی سب حرکات و سکنات و اقوال و افعال کو متع حسات و برکات و موافق شریعت و طریقت سمجھتا ہے اور کل امور میں مغلص و صادق یقین کرتا ہے اُن۔ آخر میں تحریر فرماتے ہیں اسی لئے فقیر نے مسائل مختلف فیہا کے باب میں کوئی آپ کی تحریر دیکھنے نہ پڑھی نہ اس کی تفییش کی غرض کیا ہے کیونکہ فقیر تو آپ کے سب اقوال کو موافق شرع جانتا ہے اگرچہ بعض مسائل میں موافق نہ کہی اور اس اختلاف کو صحابہ

میںوں رہی مگر جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ فرماتے تو یہی فرمایا کرتے کہ مجھے حضرت کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے جو دوسروں کو ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ اس محبت کو بھی کافی اور قابل اعتماد نہ سمجھتے تھے اس حالت محمودہ میں بھی آپ اپنے کو دوسروں سے کم اور دوسروں کو اپنے سے زیادہ سمجھتے ہوئے تھے اندر سے آپ کا جی چاہتا تھا کہ کاش اس سے بھی زیادہ تعلق و محبت قلب کو عطا ہو۔ اعلیٰ حضرت کی دنیاوی مفارقت کے حادث پر مخفی طور پر ماہی بے آب کی طرح ترپنا آہ کرنا روتا اور بے تاب ہو جانا جو کچھ بھی خلوت میں ہوتا تھا اس کا تو خاص ہی لوگوں کو علم ہے مگر عام لوگوں نے اتنا مضمون ظاہر بھی دیکھا ہے کہ جب مجلس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا یا کوئی نو وار دمہان تعزیرت کے کلمات کہتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرا آتے اور بے جین ہو جاتے تھے۔ آپ کا جی چاہتا کہ جنہیں ماریں مگر ضبط کو کام میں لاتے۔ اس کشاکشی سے آپ کے حرکات پر وہ تغیر نمودار ہوتا تھا جس کا رفع ہونا گھنٹوں میں مشکل پڑ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر واقفین و حاضرین نے اس تذکرہ سے احتیاط کر لی اور جو نو وار دیا اجنبی شخص آتا اس کو پہلے ہی منع کر دیا جاتا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال پر ملال کا ذکر نہ فرمادیں۔ [مکاتیب رشید یہ ص ۱۸۳] (ف) باوجود ایسے واقعات کے جن سے ایک ظاہر بین عالم کے گودہ علامہ ہی ہوتا حضرت قدس سرہ سے قطع تعلقات کے موجب ہونے کا اختال ہو سکتا تھا ذرہ بر ابر تعلق میں کمی نہ ہونا جس اعتقاد و عشق کی خبر دیتا ہے وہ دلالت اعلیٰ المدعایں میں قوی دلیل ہے۔

حال: ایک دن مولوی امیر شاہ خاں صاحب نے حضرت گنگوہی کا یہ ملفوظ حضرت قدس سرہ سے ایک قصہ بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد حرام میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک فو عمر درویش آئے اور بیٹھے گئے۔ وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمہارے قلب میں بڑی اچھی بیزی ہے ان بیچاروں نے اپنا حال چھپانا چاہا مگر انہوں نے پرده ہی فاش کر دیا۔ کہنے لگے کہ تمہارے قلب میں ایک عورت کی شبیہ ہے اس کی ناک ایسی ہے اور آنکھیں ایسی ہیں

اور بال ایسے ہیں غرض تمام حلیہ بیان کر دیا۔ اس وقت وہ درویش بہت نادم ہوئے اور اقرار کیا کہ بے شک آپ ج فرماتے ہیں ابتداء جوانی میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلب میں آگئی اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں کچھ سکون ہو جاتا اور طبیعت خبر جاتی ہے۔ مولوی امیر شاہ خاں صاحب یہ قصہ بیان کر کے منتظر ہے کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیں گے مگر حضرت امام ربانی قدس سرہ نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب کمی مرتبہ مولوی صاحب نے بات اخراجی تھے حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی یہ کچھ زیادہ غلاب نہیں ہے کیونکہ ان کو آنکھیں بند کرنے اور قلب کی طرف متوجہ ہونے کی نوبت پہنچی تھی میرا حضرت حاجی صاحب چشتی کے ساتھ برسوں یہ تعلق رہا ہے کہ بغیر آپ کے مشورہ کے میری نشست و برخاست نہیں ہوتی حالانکہ حاجی صاحب مکہ میں تھے اور اس کے بعد جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہی تعلق برسوں رہا ہے اس کے بعد اتنا فرمایا کہ آپ خاموش ہو گئے کچھ نہ فرمایا اور دریک تک ساکت و سرگوں رہے۔ اس تذکرہ ارشید ص ۱۹۶ (ف) کیا ایسا قوی تعلق بدون اعتقاد کاملاً بلکہ اکمل ہے۔

حال: مولوی شاہ صادق العینین مرحوم نے حضرت گنگوہی کا یہ ملفوظ حضرت قدس سرہ کی نسبت نقل کیا ہے۔ حضرت صاحب ہر چیزی فرمائید درست ہی فرمائید۔ اس تذکرہ ارشید ص ۲۵۲ (ف) وجود والات ظاہر است۔

حال: یہی حال جناب حاجی امداد اللہ صاحب سے تھا۔ تھا نہ بھون میں آتے جاتے ملاقات کر آتے یا وہاں مقام ہی ہوتا۔ سبحان اللہ کیا جلس تھا پیر محمد والی مسجد میں وہ گلزار تھا کہ شب و روز سوائے ذکر اور قال اللہ اور قال الرسول کچھ اور دھیان نہ تھا۔ آخر شب میں ذکر جبرا کا یہ رنگ ہوتا کہ غالباً بھی جاگ اٹھتے اور تو فتن ذکر اللہ کی پاتے۔ اس ائمہ مولانا محمد قاسم صاحب ص ۱۰۰ (ف) یہ شہادت ہے حضرت مولانا محمد یعقوب ہریشیز کی۔

حال: حضرت گنگوہی ہریشیز کی عبارت امداد السلوک کے خطبہ میں افشار

خمارہ و قیر رہانیہ میں سرشار رہتی ہیں۔ رنگ شریف گندم گوں ہے نحیف الجسم معتدل القامت گونہ مائل بطور ایکن نہ اتنا کہ طویل کہنے کے قابل بلکہ جیسا کہ قامت شریف آنحضرت ﷺ کے بارے میں آیا ہے خفیف الغارضین طویل اصافع الیدين گویا جازی ہیں فصح البیان عذب الكلام کثیر الروت عظیم الاخلاق جس کسی سے بات کرتے ہیں بکال بیاشت و خوش تبسم فرماتے ہیں اور افضل ترین اخلاق حضرت ایشان تخلق باخلاق قرآن ہے: کما ورد عن عائشہ رضیتھو فی وصف خلقه ﷺ جمع اخلاق حن کر قرآن شریف میں ان کی مدح ہے ذات مبارک میں جمع ہیں اور جتنے اخلاق رذیلہ کہ قرآن شریف میں ان کی برائی ہے بالطبع ان سے تنفس ابجاع سنت سیدی و اجتناب بدعات قبیحہ عادات جبلیہ سے ہے اور استقامت پر شریعت عز و اطريقت بیضا اخلاق لازمه رضیہ سے ہے کہ الاستقامة فوق الکرامة و الکرامة تحصل بعد الاستقامة خیر شریف آپ کا ہے ذات پاک صاحب اشارات علیہ و حقائق قدیسہ جامع انوار محمدیہ و منازل عرشیہ ہے۔ دال علی اللہ سبحان و علی سبیل سبحان و داعی الی العلم والعرفان ہے اور حامل لواء عارفان و ضیاء قلوب تاقصان و بنین اسرار و کاشف و مظہر عوارف معارف مرتبی علم و حال صاحب ہست و مقال ہے۔ طریقہ شریفہ آپ کا شخصیں جذب و مجاهدہ و عنایت ہے۔ سکر آپ کا ادب کو پہنچاتا ہے اور سخومقات حجاب سے ترقی کو پہنچاتا ہے۔ حقائق تو جید سامی باشریعت و مساز ہیں و اسرار مجاهدات گرامی معرفت سے ہراز اولیاء عصر آپ کی ولایت پر ابجاع رکھتے ہیں اور علمائے زمان آپ کے علومنزل کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانی نے علوم انسانی و صفات سے آپ کو خصوص فرمایا ہے اور معارف خاص و خصوصیات علوم اعلیٰ سے مقامات مرحمت فرمائے ہیں اور مقام اکبر و مدد اکثر و عطاۓ نفع و نوال اور حج پر ممتاز فرمایا ہے۔ [شامم امداد یوسف ۳۵]

المشائخ الاعلام مرکز الخواص والعلوم شیعہ البرکات القدسیہ مظہر المفعی ضات المرضیہ معدن المعارف الالہیہ مخزن الحقائق مجمع الدقائق سراج اقرانہ قدوة اہل زمانہ سلطان العارفین ملک الارکین غوث الکاملین غیاث الطالبین الذی کلت النتیۃ القلام من مذاکح البالاخ و امجزت التوصیف شملہ الکرام و الساطعہ بخطہ الاولون والآخرین من شعارہ و مخدہ الفاجرون والغافلون من دثارہ مرشدی معمتدی وسیلة یومی و غدی مولای و محتی سیدی سندي الشیخ الحاج الشستری باہداد اللہ القاروی تھانوی سلمہ اللہ تعالیٰ بالارشاد والہدیہ و ازالہ بذات المطہرۃ الصلاۃ والغولیۃ استعانا نمودہ و باذیال فیضان و عاطفیہ پناہ جست ورنہ صلاحیت ایں امر نمید اشت و بایس راہ پائے نسبتو ایس افراست۔ [امداد السلوک ص ۱] (ف) یہ القاب کس اعتقاد کا نشان دے رہے ہیں۔

حال: اشعار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رضیلہ

بحق مقتدائے عشقیازان رکیس پیشوائے مقتدایاں
امام راست بازاں شیخ علم ولنی خاص صدیق معظم
شہ والا گھر امداد اللہ کہ بہر عالم است امداد اللہ
[امداد السلوک ص ۹۵]

(ف) یہ مولانا نوتوی کی شہادت ہے ایقاظیہ حضرات ائمہ تلاشیاں درجہ کے ہیں کہ اگر حضرت قدس سرہ کے کمال کا ان کے سوا کوئی بھی شاہد نہ ہوتا تو مضرنہ تھا جے جائیکہ اور بہت کاملین ظاہری و باطنی کے اقوال و معاملات بکثرت شہادت دے رہے ہیں۔ چنانچہ گذشتہ دوسریوں سے ایک استفادہ علماء قبول مشائخ اور دوسرے بھرتوں کے مظہر اور تیرے طفوطالات کے حصہ سمیں مختصر آیہ واضح ہو سکتا ہے۔

صورت و سیرت

حال: سر مقدس کلان و بزرگ ہے اور پیشانی کشادہ و بلند ہے اور انوار حقائقیں ایک سے واضح و لارج ہیں۔ اردو سیم، خمار۔ پٹھ، ایک کلار، ہر، اور ہمیشہ

وغيرهم رزقهم الله سبحانه حلاوة الايمان وفتح الله لهم على الايمان والعرفان داخل طريقة حضرت ایشان ہوئے اور سلسلہ مسٹر شدین میں آئے۔ [شامل امداد ص ۲۶]

احقر کہتا ہے کہ اس ہی جماعت میں مولانا محمد حسین صاحب الآبادی بھی ہیں اور بعض حضرات کے نام خود حضرت رحیمیہ نے ضایاء القلوب میں متداو حاشیہ تحریر فرمائے ہیں اور وہ یہ ہیں مولوی رشید احمد صاحب سلمہ و مولوی محمد قاسم سلمہ عزیزم مولوی محمد یعقوب صاحب نانوتوی و حافظ محمد یوسف تھانوی و مولوی کرامت علی صاحب ساکن ضلع انبار و مولوی محمد ابراہیم ساکن موضع اجر اور رادانند کراوشان نیز جازند و نیز عزیزم حکیم ضایاء الدین اندھم کے خلیفہ خاص حضرت قطب الاقطاب مولانا حافظ محمد ضا من صاحب رحمۃ اللہ علیہم اندھم مجازند۔ ان میں سے بعض حضرات کے مستقل سوانح بھی ہیں جیسے تذكرة الرشید و سوانح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحیمیہ۔



ذکر بعض خلفاء اعلیٰ حضرت قدس سرہ

حضرت کے فیوض و برکات اقصائے عالم میں اور مختلف ممالک میں اس قدر دور پہنچ تھے کہ آپ کے خلفاء کا حصر و احصاء محال عادی ضرور ہے مگر صرف ہندوستان میں جن بعض کے اسماء مبارک اہل قلم نے اپنی یاد کے موافق ضبط کے ہیں ان کو نقل کرتا ہوں۔ بعد ازاں اوقل جس شخص نے علماء سے بیعت کی جامع فضل و کمال ممکن افراد انسانی حضرت ابی الحکیم مولانا رشید احمد گنگوہی سلمہ اللہ تھے اور تمام خلفاء حضرت ایشان سے کمالات باطنیہ میں گوئے سبقت لے گئے بعد ازاں وارث علوم دین مستفیض ہے فیضان یقین حضرت الحاج مولانا محمد قاسم نانوتوی کے کشف اسرار دقاائق علوم الہیہ میں ایک آیت آیات الہی سے تھے۔ منتظم سلسلہ بیعت ہوئے نور اللہ ضریحہ بعد ان کے علامہ عصر حضرت مولوی عبدالرحمن کاندھلوی رحیمیہ و حضرت مولوی محمد حسن پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ و جامع علوم الہیہ و عالی الحاج مولانا محمد یعقوب نانوتوی مدرس اوقل مدرسہ دیوبند نور اللہ مضجعہ و حضرت مولوی حافظ محمد یوسف تھانوی اہن حضرت عارف کامل حافظ محمد ضا من نور اللہ مرقدہ و حضرت الحاج المولوی حکیم ضایاء الدین رامپوری السہار پوری و جناب ادیب اریب فقیر لبیب محدث اجل مفسر انجل فاضل افضل حضرت استاذی الحافظ الحاج مولانا فیض الحسن السہار پوری امامۃ اللہ سبحانہ باقادات و افاضات و عالی جناب نواب حضرت الحاج المولوی محی الدین خاں مراد آبادی و صاحب تالیفات کثیرہ حضرت الحاج المولوی محی الدین خاں خاطر میسوری و مدرس بے نظریہ کی و خوش تقریر حضرت الحاج مولانا احمد حسن الذکوی الپیالوی مدرس اوقل مدرسہ دارالعلوم کامپیوٹر سلمہ و ابقاہ و حضرت الحاج المولوی نور محمد مرحوم مغفور و حضرت الحاج المولوی محمد شفیع نورنگ آبادی بلند شہری و حضرت الحاج المولوی عنایت اللہ المولوی و حضرت جامع فضل و کمال الحاج مولانا صفات احمد غازی پوری و حضرت فاضل متورع ترقی الحاج مولانا محمد افضل ولایتی و حضرت ذکری رضی فاضل نقی الحاج مولانا اسید محمد فدا حسین الرضوی محی الدین گنگری سلمہ اللہ تعالیٰ و ابقاہ

البیاض او نحوه وارو ہے و نیز لباس سفید موافق حدیث صحیح ورقہ کے علامت جنپی ہونے کی ہے۔ چہارم تعلیم و تلقین فرماتا کہ اشارہ ہے طرف مقبولیت شان ارشاد حضرت شیخو کے پنج معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخو کو بدولت اس پیشی نیمتی کے جو خاص شرب و مذاق حضرت کا تھا جیسا اہل مشاہدہ پر مخفی نہیں بڑی دوستیں ملی ہیں اسی لئے اس طرف حاطب کو متوجہ فرمایا۔ ششم منشوی شریف کے مضامین میں (کہ حسب قول اہل حقیقت کے معنی کلام حق ہے) آپ کی روح مطہرہ کا مستقر و مشغول ہونا دلیل مناسب روحانی مولوی معنوی ہے اور حسب آیہ مع الذین انعم اللہ علیہم الخ دلیل قرب الہی ہے ہفت حضرت شیخو کی شفقت و توجہ اپنے خدام کی طرف کموقوف ہے حصول طمینان و سکون پر جس سے ظہور مضمون لا تخافوا ولا تحزنوا کا بخوبی ہوتا ہے اور اس سے افاضہ برزخید کی تائید بھی ہوتی ہے جس کا محققین اثبات کرتے ہیں، ایسا ہی خواب رویا صاحب کہلاتا ہے، جس کے باب میں ارشاد نبوی ہے: بر اہا المسلم او تری له والحمد لله تعالیٰ علی ذالک۔

حال: متعلق وصال شریف کمال آمدہ خط کمک معظمه سے جو حضرت صاحب کے مرض وفات میں آیا تھا معلوم ہوا تھا کہ حضرت صاحب اس حالت میں مستقر رہتے تھے اور افاق میں کبھی اشعار عشقی پڑھتے جس سے سامعین کو برا سوز و گداز ہوتا۔ ایک شعر بھی لکھا تھا اس خط کی نقل ضائع ہو گئی ایک مصرع قریب قریب یہ تھا
یہ منزل عشق کی ہے، اس میں آئے جس کا جی چاہے

(ف) حضرت صاحب پر توحید اور عشق کا نہایت غلبہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت استغراقی میں اور زیادہ انکشاف ہو گیا تھا۔ توحید و عشق کے کمال ہونے میں کیا شہر ہے۔ کمال برداشت معتبر معلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے مرض وفات میں مولوی محمد اسٹیبل صاحب ابن ملأنوب صاحب کو جو بجائے خود ایک شیخ ہیں اور حضرت سے ان کو بہت اس تھا یہ دیست فرمائی کہ میں چاہتا ہوں میرے جنازہ کے ساتھ ذکر جہر ہو انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں آپ نے حسب عادت فرمایا اچھا جیسی مرثی ہو غرض جب جنازہ لے جیٹے

خاتمة مختصرہ


حال: حضرت قبلہ کی کچھ عمر زائد تھی کل چورا سی سال تین صینیے میں روز کا سن شریف تھا مگر کچھ خلائق ضعیف خیف المم تھے اس پر مجاهات و ریاضات و تقلیل طعام و منام پھر ہجوم خواص و عوام اور رب سے بڑھ کر عشق حسن از لی جو اس تھوان تک کو گھلاد دیتا ہے ان اسیاب سے آخر میں اس قدر ضعف ہو گیا تھا کہ کروٹ تک بدلنا و شوار تھا کھانا پینا بار تھا مگر دل عشق منزل ہر وقت نذر اقامہ میں سرشار تھا اسی میں اسہال شروع ہو گیا مگر نیافت و لطافت و استقلال و استقامت و شفقت بحال تربیتہ طالبان خدا میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا۔ آخر ضعف زائد ہوتا گیا تھی کہ بارہ یا تیرہ جمادی الآخری ۷۱۳ھ روز چہارشنبہ وقت اذان صبح اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہوئے اور جنت الْمَعْلُو (مقبرہ اہل مکہ) میں ڈم پہلو مولانا رحمت اللہ صاحب مہاجر رَبِّ الْمُلْكِ کے رکھے گئے۔ اناند و انا الیہ راجعون۔ واقعی یہ ہے کہ ایسا شیخ کامل عمل کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ اللهم ارفع درجتہ فی اعلى علیین و اخلفہ فی عقبہ فی الغابرین اللهم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ امين یا رب العالمین۔ حقیر نے ایک مختصر مادہ تاریخی کہا ہے حسی دخل ۷۱۳ھ العلحد کر قول اولیاء اللہ لا یمیتون سے مستبط ہے حضرت صاحب کے ایک خلیفہ عالم رویا میں مشرف بزیارت ہوئے اس طرح کوئی مقام نہایت بلند ملیلہ کے ہے اس پر ایک سفید خیر کھڑا ہے جس میں حضرت رضی اللہ عن رونق افرود ہیں اور خطاب کر کے فرماتے ہیں۔
آنینہ ہستی چے باشد نیمتی نیمتی گوئیں گر البد نیمتی
 سبحان اللہ اس خواب میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم مقام و قرب تام پر
کئی وجہ سے دلالت ہے اول مقام کا بلند ہوتا کہ مطابق آیہ و رفقناہ مکان اعلیٰ و حدیث
کہہان مک کے رفت مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوم شیرہ میں ہونا جو حسب آیہ حور
مقصورات فی العیام نیم جنت سے ہے۔ سوم خیر کا سفید ہوتا کہ احباب الالوان۔

ایک عرب بولا: اذ کرو اللہ۔ سب ہر ایوں نے ذکر جہر شروع کر دیا۔ (ف) اس سے علاوہ ایک کرامت کے حضرت صاحب کا غایت حب ذکر اللہ صاف ثابت ہے اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میت اس کو اور اک کر کے حلقہ ڈھونکتا ہے۔

اطلاع نمبر (۱)- احقر نے خطبہ کے اخیر میں جو ترتیب رسالہ کے قبل لکھ لیا تھا لکھا ہے کہ کچھ سینہ میں محفوظ ہے ارادہ تھا کہ ترتیب کے وقت یاد سے کچھ کچھ لکھوں گا مگر جو تم مشاغل کے سبب ذہن نے مناعدت نہیں کی اس لئے اس سے مخدود رہا اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوا تو شاید دوسرے وقت فرصت کا اس کے لیے نکل آئے۔

اطلاع نمبر (۲)- اثناء ترتیب میں یہ بھی خیال تھا کہ ایک مختصر تذکرہ حضرت کے خلفاء و اخوان طریقت و مشائخ قریبہ کا لکھ کر اس کا ضمیمہ بنادیا جائے مگر وقت کی تکلی ف سے اس وقت اس کا بھی انتظام نہیں ہوا کا اور اس تیار شدہ کی اشاعت میں اس کے لئے دری کرنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اس کے لئے بھی دوسرے وقت کا انتظار ہے۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔





مَكْتَبَةُ اِمْدَادِ اللَّهِ مُهَاجِرْمَكِي
محل خانقاہ دیوبند